

پیغمبر انقلاب

سیرتِ رسول کا علمی اور تاریخی مطالعہ

مولانا وحید الدین خال

مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی

Paiqhambar-e-Inqilab
By Maulana Wahiduddin Khan

First Published 1982
Reprinted

This book does not carry a copyright

Distributed by


Al-Risala
1, Nizamuddin West Market
New Delhi 110 013
Tel. 462 5454, 462 6666
Fax 469 7333, 464 7980
e-mail: Skhan@vsnl.com
website: <http://www.alrisala.org>

فہرست

4	شخبرِ رسول	
5	دیباچہ	
12	آدم سے مسح تک	باب اول
17	نبوٰتِ محمدی کاظھور	
22	مثالی کردار	
41	برتر اخلاقیات	
54	اسباقِ سیرت	
98	سننِ رسول	
104	پیغمبرِ انقلاب	باب دوم
130	حالت سے بلند ہو کر	
134	پیغمبرانہ طریق کار	
156	پیغمبرِ مکہ میں	
197	اہلِ یثرب کا اسلام	
200	ہجرت	
221	فتح کے بعد	
230	ختمِ نبوت	باب سوم
237	آپ کا محبّزہ متران	
257	اصحابِ رسول	
278	اظہارِ رسالتِ عہدِ حاضر میں	باب چہارم
289	ہیر وؤں کی نزدی	

قصصي

६८० - ८८०



محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد شفاف بن قصي بن كلاب بن مرد كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضرن كنانة بن خزيمه بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

دیباچہ

امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے ”ایک سو“ اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے ایک سو ایسے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے، مصنف کے نزدیک، تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے۔ کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی اور تعلیمی طور پر سائنس داں ہے۔ مگر اپنی فہرست میں اس نے نمبر ایک پر نہ حضرت مسیح کا نام رکھا ہے اور نہ نیوٹن کا۔ اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر ایک پر رکھا جائے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت، خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، نے نہیں ڈالے۔

مصنف نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے:

He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels
Dr.Michael H. Hart, The 100 New York 1978

آپ تاریخ کے تنہائی شخص ہیں جو انہائی حد تک کامیاب رہے۔ مذہبی سطح پر بھی اور دنیوی سطح پر بھی۔

انگریز مورخ ٹامس کارلائل نے پیغمبر اسلام کو نبیوں کا ہیر و قرار دیا تھا۔ مائیکل ہارت (امریکی) نے آپ کو ساری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی عظمت اتنی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کے پیر و وؤں کے ایک ”عقیدہ“ کی حیثیت میہیں رکھتی۔ وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے اور ہر آدمی جو تاریخ کو جانتا ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو بطور واقعہ تسلیم کرے۔

کوئی شخص اوپر نظر ڈالے تو اس کو ہر طرف آسمان چھایا ہو انظر آئے گا۔ اسی طرح

انسانی زندگی میں جس طرف بھی دیکھا جائے، پیغمبر اسلام کے اثرات نمایاں طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ساری بہترین قدریں اور تمام اعلیٰ کامیابیاں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے وہ سب آپؐ کے لائے ہوئے انقلاب کے براہ راست یا بالواسطہ تاریخ ہیں۔

مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی۔ اعتقادیات کو توهہات کے بجائے حق کی بنیاد کس نے عطا کی۔ سائنس میں فطرت کی پرستش کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبق کس نے دیا۔ سیاسیات میں نسلی شہنشاہیت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھایا۔ علم کی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی طرح کس نے ڈالی۔ سماج کی تنظیم کے لئے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے فراہم کی۔ جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو پیغمبر اسلام سے ملیں۔ آپؐ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی طرف حقیقی طور پر ان کا رنا مous کو منسوب کیا جا سکے۔ دوسرے تمام افراد آپؐ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں نہ کہ اس کو وجود میں لانے والے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنانا کر انسانی نسل پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس طرح معلوم تاریخ میں ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آدمی جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپؐ کو دیکھ لے۔ جب وہ حق کا راستہ جاننا چاہے تو آپؐ کا نکلے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپؐ پر پڑے۔ جب وہ حق کا راستہ جاننا چاہے تو آپؐ کا بلند و بالا وجود اس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے۔ آپؐ ساری انسانیت کے لئے ہادی اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لئے آپؐ گواتے بلند تاریخی مقام پر کھڑا کیا گیا ہے کہ کوئی آنکھ والا جب آنکھ اٹھائے تو آپؐ کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خدا کے ایک پیغمبر تھے جس طرح دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں۔ قرآن کی صراحة کے مطابق، آپؐ کے مشن اور دوسرے پیغمبروں کے

مشن میں اصلًا کوئی فرق نہ تھا، تاہم آپ کی ایک حیثیت مزید تھی۔ اور وہ یہ کہ آپ صبیوں کے خاتم تھے۔ دوسرے لوگ صرف رسول اللہ تھے، اور آپ رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبین بھی (ولکن رسول اللہ و خاتم النبین، (الاحزاب: 40)

یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، اس لئے یہاں پیغمبروں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو بد لیں۔ ان پر صرف یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو لوگوں تک واضح طور پر پہنچادیں (فہل علی الرسل الا البلاغ المبين، الحج: 53)

مگر نبیوں کے خاتم کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبہ میں اپنی امت برپا کرے تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں۔ اور اگر کتاب الہی محفوظ نہ ہو تو پیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہو سکتی۔ گویا دوسرے انبیاء صرف پیغمبر دعوت تھے اور آپ پیغمبر دعوت کے ساتھ پیغمبر انقلاب بھی۔

انسان کو اپنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کو عمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ ایک نہایت سنگین صورت حال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا میں دوچار ہے۔ اسی لئے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لئے انتہائی حد تک کامل انتظام کیا ہے تاکہ دنیا کی عدالت میں کسی کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اولاً انسان کو انتہائی درست ساخت پر پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں صحیح اور غلط کی تمیز پیوست کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کامل عدل کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے۔ تاکہ انسان جد ہردیکھے ہر طرف اس کو خدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی دیتا رہے۔ اسی کے ساتھ مزید خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ ہر زمانہ میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آئے اور ہر ایک کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں حقیقت واقعہ سے باخبر کرتے رہے۔

آخری تدبر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لئے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے۔ مگر حضرت نوحؐ سے لے کر حضرت مسیحؐ تک پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی وجہ سے یہ کامل انسانی نمونہ تاریخ میں قائم نہ ہو سکا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی۔ آپؐ کی دعا کے ڈھائی ہزار سال بعد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصی خدائی تائید کے ساتھ، اسی منصوبہ کی تکمیل کے لئے بھیج گئے۔

آپؐ نے نہ صرف شخصی زندگی کے اعتبار سے مطلوب انسان کا نمونہ دنیا میں قائم کیا۔ بلکہ اسی کے ساتھ خدا کے منصوبہ کے مطابق ہر قسم کے اجتماعی احوال بھی آپؐ پر گز رے، اور ہر حال میں آپؐ نے قانون ربانی پر قائم رہ کر دکھادیا کہ وہ انسان کیا ہے جو خدا کو دنیا کی اس زندگی میں مطلوب ہے۔

آپؐ کے ذریعہ صرف یہی نہیں ہوا کہ خدا پرستی کا انسانی نمونہ دنیا میں قائم ہوا۔ بلکہ اسی کے ساتھ یہ نمونہ بھی قائم ہوا کہ حقیقی خدا پرستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خدا سے خوف کس طرح دوسرے خوفوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ اشتغال انگیز مواقع پر خدا کی خاطر صبر کر لینا کس طرح کامیابی کا زینہ بنتا ہے۔ آخرت کے لئے دنیوی فائدوں کو چھوڑنا کس طرح بالآخر آدمی کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی۔ متفہ نفیسیات سے بلند ہو کر کام کرنا کس طرح اس فتح مبین تک پہنچتا ہے کہ دشمن بھی حامی اور دوست بن کر آدمی کے ساتھی پیغمبر آخر الزماں سے پہلے جوانبیاء آئے ان کی زندگی مدقائق تاریخ کا جز نہ بن سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے ان کی نبوتیں ثابت شدہ نبوتیں نہیں۔ حضرت مسیحؐ قدیم رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں۔

مگر آپؐ کا معاملہ بھی تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مغربی مفلکر کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ:

Historically, It is quite doubtfull whether Christ ever existed at all.

(B.Russell)

تاریخی اعتبار سے خود یہ امر سخت مشتبہ ہے کہ مسیح " کا اس دنیا میں بھی وجود بھی تھا۔
مگر پیغمبر آخر الزماں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کی حیثیت تاریخی طور پر اس قدر
مسلم ہے کہ آپ کے بارے میں جب ایک مبصر قلم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ الفاظ لکھنے پڑتے ہیں:

Mohammad was born within the full light of history (Hitti)

محمد تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہوئے۔

آپ کے زندہ پیغمبر ہونے ہی کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ گو جو مجزہ دیا گیا وہ ایک زندہ
اور قائم رہنے والا مجزہ تھا، یعنی قرآن۔ اگر آپ گو عام قسم کے مجزے دئے جاتے تو وہ
آپ کی وفات کے بعد ختم ہو جاتے۔ جب کہ آپ کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی پوری
طرح باقی رہنے والی تھی۔ اسی خاص مصلحت کی بناء پر آپ کے لئے آپ کی لائی ہوئی کتاب
کو مجزہ بنادیا گیا۔ مجزہ اس حیران کن واقعہ کا نام ہے جس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ
ہو۔ قرآن کی نقل کسی فرد یا کسی گروہ کے بس میں نہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک
خدائی مجزہ ہے۔

پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اظہار دی گئی تھی۔ یہی نسبت آپ کے بعد
آپ کے امتیوں کو بھی حاصل ہے۔ مگر یہ نسبت بلاشبیہ، ویسی ہی ہے جیسے کسان کے
بارے میں کہا جائے کہ اس کو نسبت زراعت حاصل ہے۔ کسان کو نسبت زراعت حاصل
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے وہ اسباب کامل طور پر مہیا کر دئے ہیں جن کو صحیح طور پر
استعمال کر کے کوئی کسان اپنے لئے لہلہتی ہوئی فصل اگاسکتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اور آپ کی
امت کے لئے نسبت اظہار یا نسبت غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے خدا نے وہ تمام
حالات بہترین طور پر مہیا کر دئے ہیں جو دین کے غلبہ کے لئے اس عالم اسباب میں مطلوب
ہیں۔ جب بھی ان کو استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر ثبت شکل میں برآمد ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرات ابراہیم سے لے کر آپؐ کی بعثت تک ڈھائی ہزار سال کے اندر تمام موافق حالات بہترین طور پر جمع کردئے گئے۔ آپؐ نے قانون خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے ان حالات کو استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی صورت میں برآمد ہوا۔

اب دوبارہ پچھلے چودہ سو سال کے عرصہ میں مختلف تاریخی تبدیلیوں اور علمی ارتقاء کے ذریعہ ہر قسم کے موافق حالات ہمارے حق میں جمع کردئے گئے ہیں۔ آج بھی پوری طرح یہ ممکن ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے لائے ہوئے دین کو غالب و سر بلند کیا جائے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہو گا جب کہ اس کے لئے وہ جدوجہد کی جائے جو قانون خداوندی کے مطابق کسی حقیقی نتیجہ کے ظہور کے لئے ضروری ہے۔ یہ شرط نہ پیغمبر کے لئے ساقط کی گئی اور نہ آپؐ کے امتیوں کے لئے وہ کبھی ساقط ہو سکتی ہے۔

حصہ اول

آدم سے مسیح تک

خدا کی طرف سے جتنے رسول آئے، سب اس لئے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے باخبر کریں، یہ حقیقت کہ موجودہ دنیا کی زندگی، انسان کی ابدی زندگی کا صرف ایک امتحانی وقہ ہے۔ کم و بیش سو سال یہاں زندگی گزار کر ہم اپنی مستقل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا کے وفادار بندوں کے لئے جنت ہے اور اس کے نافرمان بندوں کے لئے جہنم۔

آدم پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی۔ اس کے بعد حضرت مسیح^ع تک مسلسل خدا کے پیغمبر آتے رہے ابو امامہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا، ایک لاکھ ۲۳ ہزار۔ ان میں تین سو پندرہ رسول ہوئے۔ (رواه احمد و ابن راہو یہ فی مسند پہما و ابن حبان فی صحیح والحاکم فی المسند رک) خدا کے ان نمائندوں نے مختلف قوموں اور آبادیوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا اور خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ مگر انسانوں میں بہت کم ایسے لوگ نکلے جو اپنی آزادی عمل کو خدا کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضرت یحییٰ کو کوئی ساتھی نہیں ملا اور وہ قتل کر دیئے گئے۔ حضرت الوطؑ نے اپنی قوم کو چھوڑتا وہ ان کے ساتھ ان کی صرف دولڑ کیا تھیں۔ حضرت نوحؑ کے ساتھ، ان کی کشتی کا قافلہ، توریت کے بیان کے مطابق، صرف آٹھ افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے وطن عراق سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھیں اور ان کے بھتیجے لوٹ بعد کو اس قافلہ میں ان کے دو بیٹے اسماعیلؑ اور اسحاقؑ شامل ہوئے۔ حضرت مسیح^ع کو ساری کوشش کے بعد بارہ آدمی ملے، وہ بھی آخر وقت میں آپؑ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ (متی 26:56)

بیشتر انبیاء کا حال یہی رہا ہے۔ کوئی تہارہ گیا۔ کسی کو چند ساتھ دینے والے ملے۔ ان چند میں بھی زیادہ تر ان کے اپنے اہل خاندان تھے جن سے رشتہ کا تعلق نبی کا ساتھ دینے کے لئے ایک اضافہ محرک بن گیا۔ قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ پر ایک تبصرہ ہے:

يَحْسِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ

(یسین: ۳۰)

افسوس ہے بندوں کے حال پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کی ہنسی اڑائی۔

انسانی نسل میں خدا کے نزدیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں یہی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے ہیں۔ باشدہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کئے۔ مگر آدم میں سے ممکن تک کوئی نبی ایسا نہیں جس کو با قاعدہ طور پر مذوق تاریخ میں جگہ ملی ہو۔

ارسطو (322-384ق م) حضرت موئی کے ہزار برس بعد پیدا ہوا۔ مگر وہ موئی کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء کو انکی قوم نے رد کر دیا۔ ان کے گھروں کو اجاجڑا گیا، ان کو معاشرہ میں بے قیمت کر کے رکھ دیا گیا، ان کو ایسا بنادیا گیا کہ وہ اتنے غیر اہم لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے: اپنی مخاطب قوموں کی روشن پر تنقید۔ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، وہ ہے اپنی تعریف، اور جو چیز سب سے زیادہ مبغوض ہے، وہ ہے اپنے خلاف تنقید۔ انبیاء چونکہ صحیح اور غلط کو بتانے کے لئے آتے ہیں، وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نہیں کرتے۔ وہ ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس لئے قوم ان کی مخالف بلکہ دشمن ہو جاتی ہے۔ انبیاء اگر لوگوں کی دل پسند تقریبیں کرتے تو کبھی ان کو اس صورت حال سے دوچار ہونا نہ پڑتا۔

اس عمومی انجام میں صرف چند بیویوں کا استثناء ہے۔ مثلاً حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہم السلام۔ مگر ان حضرات کو جو عروج و اقتدار ملا، وہ ان کے نظریات کی عوامی مقبولیت کا نتیجہ نہ تھا۔ اس کے اسباب بالکل دوسرے تھے۔

حضرت داؤد اسرائیلی بادشاہ ساؤل کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی تھے۔ ان کے زمانہ میں اسرائیلوں اور فلسطینیوں میں جنگ ہوئی۔ فلسطینی فوج میں جالوت نام کا ایک دیوبھیک پہلوان تھا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ حضرت داؤد نے مقابلہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح وہ اسرائیلی بادشاہ کے داماد بن گئے۔ اس کے بعد جب ایک جنگ بادشاہ اور اس کا ولی عہد دونوں ہلاک ہو گئے تو تخت حضرت داؤد کے حصہ میں آگیا۔ حضرت سلیمان آپ کے بیٹے تھے اور ان کو حکومت اپنے باپ سے وراثت میں ملی۔ حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا۔ اس سے مصر کا مشترک بادشاہ متاثر ہو گیا، اور اپنے اقتدار اعلیٰ کے تحت حکومتی انتظامات آپ کے سپرد کر دیئے۔ تاہم بادشاہ اور عام مصری باشندے بدستور اپنے مشرکانہ دین پر قائم رہے۔

اس صورت حال کا نقصان یہی نہیں ہوا کہ ہر دور کی بیشتر آبادی خدا کی نعمت ہدایت سے محروم رہی۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے جو کتاب اور پیغامات لے کر آتا تھا، اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا سامان نہ ہو سکا۔ کیونکہ پیغمبر کے بعد اس کے تبعین ہی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ مگر وہ یا تو حاصل نہیں ہوئے یا اتنے کم تھے کہ سماج کے علی الرغم کلامِ الہی کی حفاظت نہ کر سکے۔

خدا جس کا علم ازل سے اب تک پھیلا ہوا ہے، جو آنے والے مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح گزرے ہوئے ماضی کو، اسے انسانیت کا یہ انجام معلوم تھا۔ اس لئے اس نے پہلے ہی یہ مقدر کر دیا تھا کہ پیغمبرانہ دور کے آخری مرحلہ میں وہ اپنا ایک خاص نمائندہ

بھیجے گا۔ اس پیغمبر کو دعوتِ دین کے ساتھ اظہارِ دین کی نسبت بھی حاصل ہوگی۔ اس کو یہ نصرتِ خاص دی جائے گی کہ وہ ہر حال میں اپنے مدعوین پر غلبہ حاصل کرے اور ان کو حق کے آگے جھکنے پر مجبور کرے (لن یقپضه حق یقیم به الملة العوجاء) خدا کی فوج اس کا ساتھ دے کر اس کے مخالفوں کو زیر کرے گی، تاکہ خدا کا دین ہمیشہ کے لئے مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اور خدا کی کتاب کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے۔ باabel کے الفاظ میں ”جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہو“ (حقوق 2: 14)

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبہ کو، باbel کی شہادت کے مقابل، ہزاروں برس پہلے سے مختلف انبیاء کے ذریعہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ نبی عرب کے صحرائی جغرافیہ سے اٹھے گا۔ وہ نبی اسرائیل کے بقیہ گھر انے یعنی ان کے بھائیوں (نبی اسماعیل) کی اولاد سے ہوگا۔ وہ حضرت مسیحؐ کے بعد آئے گا۔ اس کے ساتھی خدا کے خریدے ہوئے کھلائیں گے۔ جو قومیں ان سے مکرانیں گی پاش پاش ہو جائیں گی۔ ازیلی پہاڑ (ایران و روم) جھک جائیں گے۔ اس کی سلطنت خشکی سے لے کر بحری ممالک تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ وغیرہ

موجودہ باbel اگرچہ ترجمہ اور احادیث کے نتیجہ میں اصل باbel سے بہت کچھ مختلف ہو چکی ہے۔ تاہم آج بھی کثیر تعداد میں اس کے اندر ایسے بیانات موجود ہیں جو ایک غیر جانب دار آدمی کے لئے آنے والے آخری نبی کے سوا کسی اور ذات پر صادق نہیں آتے۔ خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کا تو مشن ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کو خصوصاً یہود کو آنے والے نبی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں۔ آپؐ نے جس ”نئے“ عہد نامہ“ کی بشارت دی وہ حقیقتیہ اسلام تھا جو یہود کی معزولی کے بعد نبی اسماعیل کے ذریعہ باندھا گیا۔ انھیل نئے عہد نامہ کی بشارت ہے نہ کہ خود نیا عہد نامہ۔

حضرت مسیح علیہ السلام، نبی آخر الزمان سے چھ سو سال قبل تشریف لائے۔ قرآن کی سورہ نمبر 61 میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے فلسطین کے یہودیوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک آنے والے نبی سے پہلے اس کا مبشر بنا کر بھیجا ہے جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا (الصف-6)

احمد اور محمد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں ”تعريف کیا ہوا“۔ انجلیل برنا باس میں صاف صاف لفظ ”محمد“ آیا ہے۔ تا ہم چونکہ مسیحی حضرات انجلیل برنا باس کو جعلی انجلیل کہتے ہیں، اس لئے ہم اس کا حوالہ مناسب نہیں سمجھتے۔ نیز ہمیں اس میں شبہ ہے کہ حضرت مسیحؑ نے اپنی پیشین گوئی میں لفظ احمد یا محمد کہا ہوگا۔ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ آپؐ نے احمد یا محمد کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال فرمایا۔

محمد بن اسحاق (م 152ھ) کی ایک روایت جوانی ہشام نے نقل کی ہے، اس کے مطابق یہ لفظ غالباً مُخْمَنَا تھا۔ ابن اسحاق سیرت کے موضوع پر سب سے زیادہ اہم مأخذ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ تحسن (یوحننا) کی انجلیل میں آنے والے رسول کی جو پیشین گوئی ہے، اس میں اس کا نام مُخْمَنَا بتایا گیا ہے (تہذیب سیرۃ ابن ہشام جلد اول، صفحہ 50) غالباً یہ روایت انہیں اپنے زمانہ کے فلسطینی عیسائیوں کی معرفت پہنچی جو اس وقت اسلام کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ مُخْمَنَا سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ”تعريف کیا ہوا“، ماضی کے اثر سے اس وقت تک فلسطین کے باشندوں کی زبان سریانی تھی۔ اغلب ہے کہ حضرت مسیحؑ کی مادری زبان میں بولا ہوا اصل لفظ (مُخْمَنَا) ان کی روایات میں چلا آ رہا تھا جو بعد کے یونانی ترجموں میں فارق لیط بن گیا۔

نبوت محمدی کاظمہور

ایک طرف افریقہ اور دوسری طرف ایشیا اور یورپ کے وسط میں عرب کا جزیرہ نما قدیم آباد نیا کا جغرافی قلب معلوم ہوتا ہے۔ مگر قدیم زمانہ کے سیاسی حوصلہ آزماؤں میں کوئی نہیں ملتا جس نے اس علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی ہو۔ تمام فوجی مہمیں عرب کے سرحد کی علاقوں — عراق، شام، فلسطین، لبنان اور یمن پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس سے آگے نجد و ججاز کے علاقہ کو اپنی قلمروں میں شامل کرنے کی ضرورت انہوں نے نہیں سمجھی۔ کیوں کہ تین طرف سے سمندروں سے گھرا ہونے کے باوجود یہاں ان کے لئے خشک پہاڑ اور اڑتی ہوئی ریت کے سوا اور کچھ موجود نہ تھا۔

اسی ”بے آب و گیاہ“ وادی کی مرکزی بستی مکہ میں پیغمبر اسلام محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے انتقال کر گئے۔ والدہ کا انتقال بھی اس وقت ہو گیا جب کہ آپ کی عمر بھی صرف چھ سال تھی۔ اب آپ کے سر پرست آپ کے داد عبد المطلب بن ہاشم تھے تاہم دوسار بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر عمر میں آپ کی سر پرستی آپ کے چچا ابوطالب بن عبد المطلب کے حصہ میں آئی۔ مگر بھرت کے تین سال پہلے، آپ کی زندگی کے مشکل ترین مرحلہ میں، ان کے لئے بھی موت کا پیغام آگیا۔

اگر چہ فطرت سے آپ نے بڑی شان دار شخصیت پائی تھی۔ بچپن میں آپ گود لکھنے والے کہہ اٹھتے: ان لهذا الغلام لشانا (اس بڑے کا مستقبل عظیم ہے) جب بڑے ہوئے تو آپ کے شخصی رعب و وقار کا حال یہ تھا کہ حضرت علیؑ کے الفاظ میں: من را قبض بیحثه هابه و من خالطه احبه (جو آپ کو پہلی بار دیکھا مرعوب ہو جاتا، جو ساتھ بیٹھتا وہ

آپ سے محبت کرنے لگتا) مگر چالیس سال کی عمر میں جب آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو آپ کا دعویٰ اتنا حیران معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا: هذا این ابی کب شة یکلم من السباء۔۔ اس کا مطلب تھا: دیکھو یہ فلاں دیہاتی کا لڑکا، وہ صحبتا ہے کہ آسمان سے اس کو وجہ آتی ہے۔

آپ کی دعوتی جدوجہد کی کل مدت صرف 23 سال ہے۔ مگر اس انتہائی مختصر مدت میں عرب کے قبائل میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس انقلاب نے سو سال سے بھی کم عرصہ میں دنیا کی دو بڑی شہنشاہیوں، ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کو زیر کر لیا اور ایک طرف عراق وایران سے لے کر بخار ایک، دوسری طرف شام و فلسطین سے لے کر مصر اور پورے شامی افریقہ تک کو فتح کر لیا۔ پھر یہ سیلا ب مغربی سمت بڑھا اور 711ء میں جبال الرط سے گزر کر اسپین اور پرتگال میں داخل ہو گیا۔ مغربی یورپ میں قافلہ اسلام کی پیش قدمی 732ء میں شاہ فرانس چارلس کارل نے تور کے مقام پر روک دی۔ تاہم دو صدیوں تک یورپ کی صلیبی جنگوں اور اس کے بعد تاتاریوں کے بے پناہ مغلوں کے باوجود پندرھویں صدی تک اس کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا۔ جب کہ انہوں نے اپنے اندر ورنی اختلاف کی وجہ سے اسپین کو کھو دیا۔

اس کے بعد اسلام کی اندر ورنی طاقت نے ترکوں اور مغلوں کو کھڑا کیا۔ ترکوں نے 1453ء میں قسطنطینیہ کو فتح کیا اور مشرقی یورپ میں یوگوسلاویہ تک پہنچ گئے۔ وائنا کے سامنے 1683ء تک ایک ترک فوج موجود تھی۔ سو ٹھویں صدی میں مغلوں نے بر صغیر ہند اور افغانستان کے علاقہ میں اسلام کا اقتدار قائم کیا۔ تیرہ صدیوں کے بعد اس توسعہ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں مسلمان موجود ہیں۔ ایشیا اور افریقہ سے لے کر یورپ تک تقریباً چاروں جن ممالک کا ایک مسلم علاقہ بن چکا ہے۔ مؤتمر عالم اسلامی کے شائع کردہ عالمی مسلم گریٹر (1975) کے مطابق آج دنیا بھر میں اہل اسلام کی تعداد 90 کروڑ ہے۔

یہ سب جو ہوا، اسی 23 سالہ عمل کا نتیجہ تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عرب میں انجام دیا گیا تھا۔ 23 سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب آنا جونہ صرف تاریخ انسانی میں دائیٰ طور پر ثابت ہو جائے بلکہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ پیدا کرے، کسی انسان کے بس کی چیز نہیں۔ یہ ایک خدائی معاملہ تھا اور اسی نے اس کو انجام دیا۔ بدر کی فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے تو روحانی مقام پر کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو فتح کی مبارک بادی۔ سلمہ بن سلامہ نے جواب دیا: تم لوگ کس چیز کی مبارک بادی رہے ہو۔ خدا کی قسم یہ تو گویا بندھے ہوئے اونٹ تھے جن کو ہم نے ذبح کر دیا۔ (کالا بل المعقولة فنحر ناہا، تہذیب سیرۃ ابن ہشام۔ 153)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام سے پیشگی اس کے اسباب فراہم کر دیئے تھے۔ عرب کے خشک جغرافیہ میں ایک ایسی قوم جمع کر دی گئی جس میں صحرا ای زندگی کے نتیجہ میں کردار کی صلاحت غیر معمولی حد تک پائی جاتی تھی۔ وہ اقرار اور انکار کے درمیان کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے، ان کے اندر وہ تمام فطری خصائص پوری طرح محفوظ تھے جو کسی تحریک کا مجاہد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ پھر عرب کے جزیرہ نما کے گرد اس وقت کی دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتیں قائم کر دی گئی تھیں، بالکل فطری تھا کہ وہ اپنے پڑوس میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت نہ کریں اور اس کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیں۔ اس طرح ان کی جارحیت اہل اسلام کے لئے جواز فراہم کر دے کہ وہ دنیا کے اس سرے سے اُس سرے تک مکلوں کو فتح کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ عملاً اس وقت کی تقریباً تمام دنیا انہوں دونوں جارح قوموں کا علاقہ تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی لڑائیاں دوسروں کے خلاف جارحیت نہیں تھیں۔ بلکہ یہ دوسروں کی جارحیت کا جواب تھا جو ہمیشہ تمام دنیا میں جائز سمجھا گیا ہے۔

اس طرح جو واقعات ظہور میں آئے۔ ان کی اہمیت صرف سیاسی نہ تھی۔ اس سے زیادہ

بڑی بات یہ تھی کہ اس انقلاب کے ذریعہ انسانی تاریخ کے بندرووازے کو کھول دینا مقصود تھا۔ اس کے ذریعہ وہ انقلاب آنا تھا جو دین حق کو ایک تاریخی حقیقت بنادے، جو اس سے پہلے تاریخی واقعہ کی حیثیت حاصل کرنے سے محروم تھا۔ وہ پریس کا دور لے آئے جس کے بعد قرآن کی دائیٰ حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ آزادی اور جمہوریت کا زمانہ آئے جو داعیان حق کے لئے حق کی اشاعت کی راہ سے تمام مصنوعی رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ اس سے طبیعتی علوم کی وہ دریافتیں ظاہر ہوں جو دین کی صداقت کو عقلیاتی سطح پر مدلل و مبرہن کر دیں۔

اس انقلاب کا اس سے بھی اہم پہلو یہ ہے کہ نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھا دیا چھے لوگوں کو آپؐ کے ذریعہ غالب کر دیا گیا جو آخرت میں دائیٰ برتری حاصل کریں گے، اور برے لوگوں کو آپؐ کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائیٰ پستی اور مغلوبیت کا شکار رہیں گے۔

تاریخ کا یہ اندوہناک منظر ہے کہ خدا کے سچے پرستار یہاں ہمیشہ دبے اور پسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دولت اور اقدار کو پوچنے والوں کو یہاں تفویق حاصل رہتا ہے۔ تمام انبیاء اور صلحاء کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہ صورت حال حقیقی صورت حال کے بالکل برعکس ہے۔ کیونکہ بالآخر جو ہونے والا ہے، وہ تو یہ کہ خدا اپنے پرستاروں کو دائیٰ عزت اور برتری عطا فرمائے گا اور اور جو لوگ اپنے نفس کی اور دنیا کی پوجا میں لگے رہے، ان کو ہمیشہ کے لئے ذلت اور رسولی میں دھکیل دے گا۔

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں لوگوں کو موقع ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اس لئے یہاں خدا کسی کا ہاتھ نہیں کپڑتا۔ تاہم پیغمبر اسلام کے ذریعہ، کم از کم ایک بار، اس زمین پر وہ منظر ابتدائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے جو کامل اور دائیٰ صورت میں آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ آپؐ کے ساتھی جن کا حال یہ تھا کہ ان کے گھروں کو اجڑا دیا گیا، جن کے لئے زمین کو تنگ بنادیا گیا، جن کی معاشیات تباہ کر دی گئیں، جن کو اس قدر خوف دہراں میں بٹلا کیا گیا

کہ ان کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا کہ لوگ انہیں اچک لیں گے۔ ان کو عزت اور اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف قریش اور یہود، رومی اور ایرانی، یمنی اور غسانی جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں بیٹلا تھے، ان کو ذلیل کر کے پستی کے گڑھ میں ڈال دیا گیا۔ ہر نبی جو خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ زمین پر خدا کی عدالت ہوتا ہے۔ اس کی معرفت خدا اپنے ان فیصلوں سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے جس کو وہ آخرت میں براہ راست خود سنانے والا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کے ذریعہ یہ عدالت الٰہی ایسی خصوصی شکل میں ظاہر ہوئی کہ وہ خود تاریخ انسانی کا جزو بن گئی۔ جس طرح بہت سے دوسرے انسانی تجربات تاریخی حقیقت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ بھی ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے انسانی معلومات میں ثابت ہو چکا ہے کہ خدا اپنے متین بندوں کو سفراز کرتا ہے اور جو لوگ سرکشی اختیار کریں، ان کو ذلت و بر بادی کے دامنی عذاب میں دھکیل دیتا ہے۔ جنت اور جہنم اگرچہ دوسری دنیا میں قائم ہونے والی حقیقتیں ہیں۔ مگر انسان کی نصیحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک ابتدائی منظر اسی دنیا میں لوگوں کو دکھادیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمدی کا ظہور، خدا کی خدائی کا ظہور تھا، اسی لئے انجیل میں اس کو ”خدا کی بادشاہت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپؐ کے لائے ہوئے انقلاب کی بلاشبہ سیاسی اور عمرانی اہمیت بھی ہے اور دوسری بہت سی اہمیتیں بھی۔ مگر اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ خدا کی عدالت کا منظرد کھارہا ہے، اس نے ان حقیقوں کو آخرت سے پہلے انسان کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے جن کو انسان آخرت میں اپنی کلی شکل میں دیکھے گا۔

مثالی کردار

پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22، اپریل 571ء کو عرب میں پیدا ہوئے اور 8، جون 632ء کو آپؐ کی وفات ہوئی۔ آپؐ تہایت تند رست اور طاقت و رتھے۔ بچپن سے یہ حال تھا کہ جو دیکھتا، کہہ اٹھتا: ان لہذا الغلام لشأتا۔ بڑے ہوئے تو آپؐ کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ آپؐ گود کیھنے والے آپؐ سے مرعوب ہو جاتے۔ اسی کے ساتھ اتنے نرم اور شیریں زبان تھے کہ تھوڑی دیر بھی جو شخص آپؐ کے قریب رہتا، آپؐ سے محبت کرنے لگتا۔ برداشت، سچائی، معاملہ فہمی، حسن سلوک آپؐ کے اندر کامل درجہ میں پایا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپؐ اس انسانی بلندی کی اعلیٰ ترین مثال تھے جس کو نفیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت (Balanced Personality) کہا جاتا ہے۔ داؤ دبن حصین کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ محمد بن عبد اللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپؐ اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے، حليم و بر دبار، صادق و امین، جھگڑے سے دور رہنے والے، فخش گوئی و دشام طرازی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپؐ کی قوم نے آپؐ کا نام ”الامین“ رکھا تھا (خاصص کبری، جلد ۱، صفحہ 91)

25 سال کی عمر میں جب آپؐ نے شادی کی تو اس موقع پر آپؐ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے کہا تھا: ابن اخي محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل الارجح به شرف ادب ولا فضلا ولا عقلاء، فهو والله بعد هذه الارجح عظيم و خطر جليل۔ میرے بھتیجے محمد بن عبد اللہ کا مقابلہ جس شخص سے بھی کیا جائے، وہ شرافت، نجابت، بزرگی اور عقل میں اس سے بڑھ جائے گا۔ خدا کی قسم اس کا مستقبل عظیم ہو گا، اور اس کا رتبہ بلند ہو گا۔

ابوطالب نے یہ الفاظ ان معنوں میں نہیں کہے تھے جن معنوں میں بعد کوتار تھے نے اسے سچا ثابت کیا۔ انہوں نے یہ بات تمام تر دنیوی معنوں میں کہی تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص فطرت سے وہ پُرکشش شخصیت لے کر پیدا ہوا ہو، جو محمد بن عبد اللہ میں نظر آتی ہے، وہ بہر حال قوم کے اندر معزز مقام حاصل کرتا ہے اور دنیا کے بازار میں اس کی بڑی قیمت مل کر رہتی ہے۔ ایسے شخص کی اعلیٰ صلاحیتوں اس کی ترقی اور کامیابی کی یقینی ضمانت ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لئے یہ امکانات، بلاشبہ، پوری طرح موجود تھے۔ آپؐ اپنی صلاحیتوں کی بڑی سے بڑی دنیوی قیمت وصول کر سکتے تھے۔ آپؐ مکہ کے ایک اوپنے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ آپؐ گواپنے باپ سے وراشت میں صرف ایک اونٹ اور ایک خادمہ مل تھی۔ مگر آپؐ کی شامدار پیدائشی خصوصیات نے مکہ کی سب سے امیر خاتون کو متاثر کیا۔ 25 سال کی عمر میں ان سے آپؐ کا نکاح ہو گیا۔ یہ ایک تاجر خاندان کی بیوہ تھیں۔ ان سے آپؐ گونہ صرف مال اور جانداری، بلکہ عرب میں اور عرب کے باہر تجارت کا زبردست میدان بھی ہاتھ آیا۔ اب آپؐ کے لئے ایک پرسکون اور کامیاب زندگی بنانے کے سارے موقع فراہم ہو چکے تھے۔ مگر آپؐ نے ان کو چھوڑ کر ایک اور ہی چیز کا انتخاب کیا۔ آپؐ نے جانتے بوجھتے اپنے کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جو صرف دنیا کی بربادی کی طرف لے جاتی تھی۔ خدیجہ سے نکاح سے پہلے آپؐ اپنی گزر اوقات کے لئے پچھلے معاشر کام کر لیتے تھے۔ اب وہ بھی چھوٹ گیا، اب آپؐ ہمہ تن اس تلاش میں لگ گئے جس کی جستجو آپؐ گوچپن سے تھی۔ یہ کہ سچائی کیا ہے۔ آپؐ گھنٹوں بیٹھے ہوئے زمین و آسمان پر غور کرتے رہتے۔ مکہ کے شرفاء میں اپنے تعلقات بڑھانے اور وہاں کی مجلسوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بجائے آپؐ نے یہ کیا کہ صحراؤں اور پہاڑوں کو اپنا ہم نشین بنالیا۔ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک کھوہ ہے جس کا نام حراء ہے۔ آپؐ مستوا اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے۔ پہاڑ کے سنسان ماحول میں زندگی کی حقیقت پر غور کرتے۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے

سے دعا نہیں مانگتے کہ میرے رب! تو اپنے آپ گوئی میرے اوپر ظاہر کر دے۔ سچائی کیا ہے، مجھ کو بتا دے۔ جب پانی کی مشکل خالی ہو جاتی اور ستون ختم ہو جاتے تو گھر واپس آتے تاکہ دوبارہ اسی طرح کھانے پینے کا سامان لے کر قدرت کے اس ماحول میں لوٹ جائیں جہاں صحراء اور درخت تھے۔ پہاڑ اور آسمان کی پرسکون فضا نہیں تھیں۔ آپ کی بے چین طبیعت انسانی ہنگاموں میں اپنے سوال کا جواب نہ پاسکی تھی۔ اب آپ نے قدرت کی خاموشی دنیا کو اپنا ہم نشین بنایا تھا کہ شاید وہ اس کا کچھ جواب دے سکے۔

جو انی کی طاقتیوں سے بھر پورا ایک شخص کے لئے اس قسم کی زندگی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ خوبی کے راستہ کو چھوڑ کر غم کے راستہ کو اپنانا تھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنا، تجارت کو ترقی دینا اور سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانا، یہ تمام امکانات آپ کے لئے پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ مگر آپ کی بے تاب اور متلاشی طبیعت ان چیزوں پر راضی ہونے کے لئے تیار نہ تھی۔ تمام چیزیں اس وقت تک آپ گویج معلوم ہوتی تھیں جب تک آپ زندگی کا راز معلوم نہ کر لیں۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے اوپر اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ کیا ہے۔ نفع نقصان اور آرام و تکلیف کی اصطلاحوں میں سوچنے کے بجائے آپ اس سوال کو حل کرنے میں منہمک رہتے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔

پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جس کو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے: **وَوَجَدَكَ ضَالًاً فَهَدَى (والضحى)** (ضال) کے معنی ہیں راہ بھولا ہو، سرگردان۔ (ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضلّ فی شعاب مکة و هو صغیر ثمہ رجع) یہ لفظ اس مسافر کے لئے بولا جاتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہوا اور حیران و پریشان مختلف راستوں کو دیکھ رہا ہو، اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کہاڑ جائے۔ اسی لئے اس درخت کو ضالہ کہتے ہیں جو صحراء میں اکیلا کھڑا ہوا اور اس کے آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ اسی سے کہا جاتا ہے ضل الماء فی اللبین (پانی دودھ میں کھو گیا) آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاہلیت کے

بیابان میں اکیلے درخت کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ صحراؤں اور پہاڑوں میں یہ غم لئے پھرتے تھے کہ سچائی کیا ہے جس کو میں اپناوں دنیا کے مردوجہ نقشوں میں اپنی جگہ بنانے کے بجائے حیران و تفکر ہو کر الگ تھلک جا پڑے تھے۔ سچائی سے کمتر کوئی چیز آپ کی روح کے لئے تسلیم کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ کی تلاش حق کی سرگردانی اس نوبت کو پہنچ گئی تھی کہ زندگی آپ کے لئے ایک ایسا بوجھ بن گئی جو آپ کی کمرتوڑے دے رہی تھی۔ (الم نشرح)۔

اس وقت اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے لئے ہدایت اور روشنی کے دروازے کھول دیے گئے۔ 12 فروری 610 کو جب کہ آپ صحرامیں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، خدا کا فرشتہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور خدا کی طرف سے آپ گوہ کلمات سکھائے جو قرآن کی سورہ نمبر 96 کی ابتداء میں درج ہیں۔ آپ کی تلاش نے بالآخر اپنا جواب پالیا۔

پیغمبر اسلام کی بے چین روح کا ربط رب العالمین سے قائم ہو گیا۔ خدا نے آپ گونہ صرف ہدایت دی بلکہ اپنے نماہندہ خاص کی حیثیت سے چن لیا۔ آپ کے اوپر خدا کا کلام اتر نے لگا۔ آپ کی نبوت کی یہ مدت 23 سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت میں خدا کی کتاب (قرآن) مکمل طور پر آپ کے اوپر اتاری گئی۔

پیغمبر اسلام نے اپنی مشکل زندگی کے چالیسویں سال میں سچائی دریافت کر لی۔ مگر یہ سچائی آپ کے لئے کوئی آسان سودا نہ تھی۔ اس سچائی کا مطلب یہ تھا کہ آدمی ایک عظیم تر خدا کی زد میں ہے۔ یہ اپنے عجز کے مقابلہ میں خدا کی کبریائی کی دریافت تھی یہ خدا کے اثبات کے مقابلہ میں اپنی نفی کا پتہ لگانا تھا۔ یہ اس راز کو معلوم کرنا تھا کہ اس دنیا میں بندہ مومن کی صرف ذمہ دار یا ہی ذمہ دار یاں ہیں، یہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

سچائی کی دریافت کے بعد، پیغمبر اسلام کے لئے، زندگی کے معنے کیا تھے۔ اس کا اندازہ

کرنے کے لئے یہاں صرف ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ آپؐ نے ایک بار فرمایا:

امرنی ربع بتسع: خشیة اللہ فی السر والعلانیة،
میرے رب نے مجھے نوباتوں کا حکم دیا ہے
وکلمة العدل فی الغضب والرضا،
کھلے اور پھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتار ہوں
والقصد فی الفقر والغنا،
غصہ میں ہوں یا نوشی میں، ہمیشہ انصاف کی بات کہوں
وان اصل من قطعنى،
محتاجی اور امیری دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں
واعطى من حرمنى،
جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں،
واعفوم من ظلمبى،
جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں،
وان یکون صمتمى فکرا،
جو مجھ پر ظلم کرے، میں اس کو معاف کر دوں،
ونطقى ذکرا،
اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو،
ونظری عبرة (رواه رزین)
میرا بولنا یادا ہی کا بولنا ہو،
میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔

یہ میض تقریر یا گفتگو کے الفاظ نہ تھے۔ یہ خود آپؐ کی زندگی تھی جو لفظوں کی صورت میں
ڈھل رہی تھی۔ یہ حیرت انگیز حد تک موثر کلمات اور اس قدر پیچی ہوئی تاں ایک خالی انسان
کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتیں۔ یہ الفاظ تو خود بولنے والے کا مقام بتا رہے ہیں۔ وہ کہنے
والے کے اندر وون کو انڈیل رہے ہیں۔ وہ بولنے والے کی روح کو الفاظ کے آئینہ میں بے
نقاب کر رہے ہیں۔

آپؐ کی زندگی اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اسی قسم کی تھی۔ مگر وہ تمام تر فطرت کے
زور پر تھی۔ اب سچائی کی دریافت نے اس کو شعور کا درجہ دے دیا۔ جو کردار اب تک طبعی
تفاضے کے تحت ظاہر ہوتا تھا۔ اب وہ ایک سوچے سمجھے ذہن کا ارادی جذبہ گیا۔ یہ کسی بندہ
خدا کا وہ مقام ہے جہاں دنیوی تفاضے انتہائی حد تک گھٹ کر صرف بقدر حاجت رہ جاتے

ہیں۔ آدمی کی جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کا جسم اسی ظاہری دنیا میں ہوتا ہے مگر نفسیاتی اعتبار سے وہ ایک اور دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔

ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا:

وعلى العاقل مالم ي肯 مغلوب على عقله ان تكون له ساعات ساعاته يحاسب فيها نفسه وساعة يتذكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها الحاجته من المطعم والمشرب (رواية ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد عن ابي ذر الغفارى)

عقلمند شخص کے لئے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھٹریاں گزریں ایسی گھٹری جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھٹری جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھٹری جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو۔ اور ایسی گھٹری جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے وقت نکالے۔

گویا خدا کا وفادار بندہ وہ ہے جس کے روز و شب کے لمحات اس طرح گزریں کہ کبھی اس کی بے قراریاں اس کو خدا سے اتنا قریب کر دیں کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کبھی یوم الحساب میں کھڑے ہونے کا خوف اس پر اس طرح طاری ہو کہ وہ دنیا ہی میں اپنا حساب کرنے لگے۔ کبھی کائنات میں خدا کی کاریگری کو دیکھ کر وہ اس میں اتنا محبو ہو کہ اس کے اندر اس کو خالق کے جلوے نظر آنے لگیں۔ اس طرح گویا خدا سے ملاقات، اپنے آپ سے ملاقات اور کائنات سے ملاقات میں اس کے لمحات گزر رہے ہوں۔ اور بدرجہ حاجت وہ کسی وقت کھانے پینے کے لئے بھی اپنے کوفار غ کر لیا کرے۔

یہ الفاظ دور کے کسی انسان کا تعارف نہیں ہیں۔ اس میں خود پیغمبر اسلام کی اپنی شخصیت بول رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری جسم کے اندر جو مومنانہ روح تھی اس میں ہر وقت کس قسم کے طوفان اٹھتے رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کس قسم کی ”ساعات“ کے

درمیان گزر رہی تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود ان گھٹریوں کا تجربہ کر رہا ہو، وہ کبھی اتنے اعلیٰ الفاظ میں اس بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی روح سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس نے ان کیفیات کو خود کمال درجہ میں پایا تھا جس کو وہ لفظوں کے ذریعہ دوسروں پر کھول رہا تھا۔

پیغمبر اسلام کو وحی خداوندی ملنے سے پہلے، موجودہ دنیا اپنی کمیوں اور محدودیتوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی۔ مگر جب آپ پر خدا نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کامل اور ابدی ہے اور وہی انسان کی اصلی قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کائنات دونوں آپ کے لئے بامعنی ہو گئے۔ اب آپ نے زندگی کی وہ سطح پائی جہاں آپ جی سکتے تھے، جس میں آپ اپنا دل لکا سکتے تھے۔ اب آپ ایسی حقیقت دنیا مل گئی جس سے اپنی امیدوں اور تمناؤں کو وابستہ کر سکیں جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔

یہی مطلب ہے: الدنیا مذرعة الآخرة (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) کا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رنجی زندگی (Akhirat Oriented Life) کہا جا سکتا ہے۔ ایسا آدمی، اپنے تصور حیات کے لازمی نتیجہ کے طور پر، آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں، وہ صرف راستہ ہے۔ وہ آخرت کے مستقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ جس طرح ایک دنیا پرست آدمی کی تمام سرگرمیاں دنیوی مصالح کے گرد گھومتی ہیں، اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہر معاملہ میں اس کا رویہ اس فکر کے تحت بتاتا ہے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، زبردستی کی حالت ہو یا زور آوری کی، تعریف کی جا رہی ہو یا تلقید، غصہ کا موقع ہو یا محبت کا ہر حال میں آخرت کا خیال اس کا رہنماب نہ رہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ آخرت کی فکر اس کے لاشعور کا جزو بن جاتا ہے۔ اگرچہ اب بھی وہ بشریت سے خالی نہیں ہوتا۔ مگر اس کا ذہن انہیں امور میں چلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کا

کوئی پہلو نہ ہوان سے اس کی دلچسپیاں اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اس کو کہنا پڑتا ہے:
 اتنم اعلم بامور دنیا کم (تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو)
 اس حقیقت کی حیثیت مخفی ایک علمی دریافت کی نہیں۔ اس کو پانے کے بعد آدمی کی
 جینے کی سطح بدل جاتی ہے آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلامؐ کی
 ذات ہے۔ آپؐ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک جینے کی سطح نہ بد لے، عمل
 کی سطح نہیں بدل سکتی۔

پیغمبر اسلام نے جب یہ حقیقت پائی تو وہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن
 گیا۔ جس جنت کی خبر آپؐ دوسروں کو دے رہے تھے، اس کے آپؐ خود سب سے زیادہ
 حریص بن گئے اور جس جہنم سے دوسروں کو ڈرارہے تھے، اس سے آپؐ خود سب سے زیادہ
 ڈرنے لگے۔ آپؐ کا یہ اندر وہی طوفان بار بار دعا اور استغفار کی صورت میں آپؐ کی زبان
 سے ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ آپؐ کی جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف تھی اس کا اندازہ
 چند واقعات سے ہو گا۔

عَنْ أَمِيرِ سَلِيمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَتِيهِ أَفَدَعِيٍّ وَصِيفَةً
 لِهِ اولَهَا فَالْبَطَاطَةُ فَأَسْتَبَانَ الْغَضْبُ فِي وِجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلِيمَةَ إِلَى الْحِجَابِ
 فَوَجَدَتِ الْوَصِيفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ لَوْلَا حَشْيَةَ الْقَوْدِيَّمِ الْقِيَامَةِ
 لَا وَجَعْتُكِ بِهِذَا السِّواكَ (الادب المفرد، باب قصاص العبد، صفحہ 29)

ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے آپؐ نے خادمہ کو
 بلا یا۔ اس نے آنے میں دیر کی۔ آپؐ کے چہرہ پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ ام سلمہ نے پردہ کے پاس
 جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھلیتے ہوئے پایا۔ اس وقت آپؐ کے ہاتھ میں ایک مسوک تھی۔
 آپؐ نے خادمہ کو مناٹ کرتے ہوئے فرمایا: اگر قیامت کے دن مجھے بدلہ کا ڈرنا تو
 میں تجوہ کو اس مسوک سے مارتا۔

بدر کی جگ (رمضان ۲۷ھ) کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئے، وہ آپؐ کے بدترین دشمن تھے۔ مگر آپؐ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر و تھا جو آتش بیان خطیب تھا اور تمام مجموعوں میں آپؐ کے خلاف بیہودہ تقریریں کیا کرتا تھا۔ عمر فاروقؓ نے رائے دی کہ اس کے نیچے کے دو دانت اکھڑا وادیئے جائیں تاکہ آئندہ کے لئے اس کا تقریر کا جوش ختم ہو جائے۔ آپؐ نے یہ سن کر فرمایا:

خدامیر اچھہ قیامت میں بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں

پغمبر اسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ خوشی کی بات سے آپؐ کو خوشی ہوتی تھی اور غم کی بات سے آپؐ غمگین ہوتے تھے۔ مگر آپؐ کی عبدیت آپؐ کو خدا کے مقرر کرنے ہوئے دائرہ سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔

پغمبر اسلام کی آخر عمر میں ماریہ قبطیہؓ سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا خوبصورت اور تندرست تھا۔ اس کا نام آپؐ نے اپنے بزرگ ترین جدا مجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابو رافعؓ نے جب ابراہیم کی پیدائش کی خبر دی تو آپؐ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ آپؐ ابراہیمؓ کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب قaudہ کے مطابق ابراہیمؓ کو ایک دایہ ایام برداشت المذربن زید انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ دودھ پلانگیں۔ یہ دایہ ایک ایک لوہار کی بیوی تھیں۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بھٹکی کا دھواں ہوتا ہے۔ آپؐ کے کو دیکھنے کے لئے لوہار کے گھر جاتے اور وہاں دھواں آپؐ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہتا اور آپؐ انہیاں نازک طبع ہونے کے باوجود اس کو برداشت کرتے۔ ابراہیمؓ ابھی ڈیڑھ سال کے ہوئے تھے کہ بھرت کے دسویں سال (جنوری 632) ان کا انتقال ہو گیا۔ آپؐ بیٹے کی موت کو دیکھ کر رونے لگے۔

ان واقعات میں پغمبر اسلام ایک عام انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے جذبات، ان کی حرمتیں ولیٰ ہیں جیسی ایک عام باپ کی ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود خدا کا دامن

آپؐ کے ہاتھ سے چھوٹے نہیں پاتا۔ آپؐ غم زدہ ہیں مگر زبان سے نکل رہا ہے:
 والله يا ابراہیم انا بفر اقک لمحزونون، تبکی العین ویحزن القلب ولا
 نقول ما یسخط الرب

خدا کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ رورہی ہے، دل دکھی ہے،
 مگر ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جو رب کو ناپسند ہو۔

جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گر ہن پڑا۔ قدیم زمانہ میں
 اعتقاد تھا کہ سورج گر ہن اور چاند گر ہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں۔ اس
 کے اثر سے مدینہ کے مسلمان کہنے لگے کہ یہ سورج گر ہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے
 ہوا ہے۔ آپؐ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی۔ کیوں کہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کے خلاف
 تھی۔ آپؐ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی، آپؐ نے فرمایا:

ان الشیس والقمر لا یخسفان لیوت احد من الناس دلکنهما آیتان
 من آیات الله، فاذار أیتموها فصلوا

سورج چاند میں کسی انسان کی موت سے کہیں نہیں لگتا۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو
 نشانی ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔

آپؐ کا ایک واقعہ تاریخ ان لفظوں میں بتاتی ہے:

روی انه كان في سفر و امر اصحابه باصلاح شاة، فقال رجل، يارسول
 الله على ذبحها، وقال آخر على سلخها، وقال آخر على طبخها، فقال عليه
 السلام وعلى جمع الحطب. فقالوا يارسول الله ذكفيك العمل. قال علمت
 انكم تكفونى، ولكن اكره ان اميذ عليكم، ان الله سبحانه وتعالى يكره من
 عبدالا ان يراه ممتيزا بين اصحابه

ایک بار آپؐ سفر میں تھے۔ آپؐ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم
 دیا۔ ایک شخص بولا: میں اس کو ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا۔

تیسرا نے کہا، میں اس کو پکاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لکڑی جمع کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اے خدا کے رسول، ہم سب کام کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کرلو گے۔ مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز کے ساتھ رہے۔

آپ کی عبدیت کا یہ حال تھا کہ آپ نے فرمایا:

وَاللَّهِ لَا إِدْرَى وَاللَّهِ لَا إِدْرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَفْعُلُ بِي وَلَا بِكُمْ (بخاری)
خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں۔ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔

ابوذر غفاری بتاتے ہیں۔ ایک روز میں ایک مسلمان (صحابی) کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا رنگ کا لاتھا کسی ضرورت سے میں نے ان کو خطاب کیا تو میری زبان سے نکل گیا:

يَا ابْنَ السُّودَاءِ اے کا لے رنگ والے

نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَأَلُ سُخْنَتَ نَاسِنَسِدَ كِيَا اور فرمایا:

طَفُ الصَّاعَ طَفُ الصَّاعَ پیانہ پورا بھر، پیانہ پورا بھر

یعنی سب کو ایک پیانہ سے دو۔ ایسا نہ کرو کہ کسی کو اچھے الفاظ کے ساتھ خطاب کرو اور کسی کو برے الفاظ کے ساتھ۔ انسان اور انسان کے درمیان امتیاز نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا:

لَيْسَ لَابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السُّودَاءِ فَضْلٌ

كُسی گورے کو کسی کا لے پر کوئی فضیلت نہیں۔

ابوذر غفاری کو اس تنیبیہ کے بعد فی الفور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شدت خوف سے ز میں پر لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا: قُمْ فَطَاعَ عَلَى خَذْلِي (کھڑا ہوا اور میرے چہرے کو اپنے پیروں سے مسل دے)

ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال دار مسلمان کو دیکھا کہ وہ اپنے پاس بیٹھے

ہوئے ایک غریب مسلمان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے۔
آپ نے فرمایا:

اخشیت ان یعدوں الیک فقرہ (غزالی، احیاء علوم الدین)
کیا تم کوڈر ہے کہ اس کی غربیت کو لپٹ جائے گی۔

مذہب میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ
دار اعلیٰ ہیں۔ اس زمانہ میں آپ گواہ ایک بار ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی
جس کا نام زید بن سعید تھا۔ قرض کی ادائیگی کے لئے جو مدت طے ہوئی تھی، ابھی اس میں چند
دن باقی تھے کہ یہودی تقاضا کرنے کے لئے آگیا۔ اس نے آپ کے کندھے کی چادر اتار لی
اور کرتا پکڑ کر سختی سے بولا: ”میرا قرض ادا کرو۔“ پھر کہنے لگا ”عبد المطلب کی اولاد بڑی نا
دہند ہے“،

حضرت عمر فاروقؓ اس وقت آپؓ کے ساتھ تھے۔ یہودی کی بد تیزی پر ان کو سخت
غصہ آگیا۔ انہوں نے اس کو ڈالنا۔ قریب تھا کہ اس کو مارنا شروع کر دیں۔ مگر پیغمبر اسلام
صرف مسکراتے رہے۔ یہودی سے صرف اتنا کہا: ابھی تو وعدہ میں تین دن باقی ہیں (لقد
بقی من اجلہ ثلاث) پھر عمر فاروقؓ سے فرمایا:

انا و هو كنا إلی غير هذا منك احوج يا عمر، تامرني بمحسن القضاة و تامرة
بمحسن التقاضی (رواہ البیهقی مفصلًا)

عمر! میں اور یہودی تم سے ایک اور بر تاؤ کے زیادہ ضرورت مند تھے، مجھ سے تم بہتر
ادائیگی کے لئے کہتے اور اس سے بہتر تقاضے کے لئے۔

پھر عمر فاروقؓ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص سے بھجوئیں لے کر اس کا قرض ادا کر دو۔
اور بیس صاع (تقریباً 40 کیلو) زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اسے جھٹکا تھا۔

پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ عرب سے لے کر فلسطین

تک کے علاقہ کے حکمران بن گئے۔ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپؐ کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ آپؐ ایسے لوگوں کے درمیان تھے جو آپؐ کی عقیدت و تعظیم اتنی زیادہ کرتے تھے جو کبھی کسی انسان کی نہیں کی گئی۔ حدیبیہ کی بات چیت کے موقع پر عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب آپؐ وضو کرتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ آپؐ کا غسلہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پر لے لیں اور اس کو تبرک کے طور پر جسم پر ملیں۔ انسؐ کہتے ہیں کہ انتہائی محبت کے باوجود ہم لوگ آنکھ بھر کر آپؐ گوئیں دیکھ سکتے تھے۔غیرہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی کو آپؐ کی رہائش گاہ پر دستک دینے کی ضرورت ہوتی تو وہ ناخن سے دروازہ کھکھٹانا تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھ کر چاندنی رات میں سور ہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپؐ گو، بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپؐ چاند سے زیادہ خوش نما ہیں (فَإِذَا هُوَ حَسْنٌ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ) حنین میں جب جنگ کے شروع میں مسلم فوج کو شکست ہوئی اور مخالف فوج نے آپؐ کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی تو آپؐ کے ساتھیوں نے آپؐ کو گھیرے میں لے لیا وہ سارے تیر اپنے ہاتھ اور جسم پر اس طرح روکتے رہے جیسے وہ انسان نہیں، لکڑی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ساتھیوں کا یہ حال ہوا کہ ان کے جسم پر ساہی کے کانٹے کی طرح تیر لکھنے لگے تھے۔

اس قسم کا مرتبہ اور عقیدت آدمی کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ مگر آپؐ لوگوں کے درمیان بالکل عام انسان کی طرح رہتے۔ کوئی تعلیٰ تنقید یا اشتعال انگیزو رہیا آپؐ اپؐ سے باہر کرنے والا ثابت نہ ہوتا۔ صحیحین میں حضرت انسؐ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اس نے آپؐ کی چادر کو زور سے کھینچا جس کی وجہ سے آپؐ کی گردان میں نشان پڑ گیا۔ پھر بولا: ”محمد! میرے یہ دو اونٹ ہیں۔ ان کی لاد کا سامان مجھے دو۔ کیونکہ جو مال تیرے پاس ہے، وہ نہ تیرا ہے، نہ تیرے باپ کا ہے۔“ آپؐ نے فرمایا مال

تو اللہ کا ہے اور میں اس کا عبد ہوں۔ پھر دیہاتی سے پوچھا ”جو برتا تو تم نے مجھ سے کیا، اس پر تم ڈرتے نہیں۔“ وہ بولانہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ آپ یہ سن کر نہس پڑے اور حکم دیا کہ دیہاتی کو ایک اونٹ کا بو جھ جو اور ایک کی کھجور میں دی جائیں۔

آپ پر خدا کی بیت اتنی طاری رہتی کہ آپ بالکل عجز اور بندگی کی تصویر بنے رہتے تھے۔ بہت کم بولتے، چلتے تو جھک کر چلتے، تنقید سے کبھی خفانہ ہوتے۔ کپڑا پہنہتے تو فرماتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں اما انا عبدالبس کما یلبس العبد) کھانا کھاتے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور فرماتے کہ میں بندوں طرح کھانا کھاتا ہوں: (انا اکل کھایا اکل العبد)

اس معاملہ میں آپ کے نزَاکت احساس کا عالم یتھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا: ماشاء اللہ و ما شئت (جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں) یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے درشتی کے ساتھ فرمایا: اجعلتنی لِلْهِ وَحْدَهِ (کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا) تم کو اس طرح کھانا چاہئے: ماشاء اللہ وحدہ (وہ ہو گا جو اللہ چاہے) اسی طرح ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوى
جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ راست پر ہے اور جوان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔

آپ نے یہ سن کر فرمایا: بُنْسٌ خَطِيبُ الْقَوْمِ اَنْتَ (تو قوم کا برا خطیب ہے) آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کو تشنیہ کی ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا جائے۔ پغیر اسلام کے بیہاں تین لڑکے پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ چار

صاحبزادیاں بڑی عمر کو پہنچیں۔ چاروں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ حضرت فاطمہؓ آپؓ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپؓ حضرت فاطمہؓ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی سفر سے واپس لوٹنے تو مسجد میں دور کعت نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کے گھر جاتے۔ ان کے ہاتھ اور پیشانی کو پوچھتے۔ حضرت عائشہؓ سے جعیف بن عمیر صحابی نے پوچھا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ انہوں نے جواب دیا ”فاطمہؓ“،

مگر پیغمبرؐ اسلام کی پوری زندگی آخرت میں ڈھل گئی تھی۔ اس لئے اولاد سے محبت کا مفہوم بھی آپؓ کے یہاں دوسرا تھا۔ ایک روایت جو نسائی کے سو اوس سی تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے، یہ ہے کہ علی مرضیؓ نے ایک بار ابن عبد الواحد سے فرمایا۔ میں تجھ کو فاطمہ بنت رسولؓ کی ایک بات سناؤں جو سارے کنبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ابن عبد الواحد نے کہا، ہاں۔

حضرت علیؓ نے کہا۔ فاطمہؓ کا یہ حال تھا کہ چکی پیشیں تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے۔ پانی کی مشک اٹھانے کی وجہ سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا۔ جھاڑ و دیتیں تو کپڑے میلے ہو جاتے۔ انہیں دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے فاطمہؓ سے کہا، تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور اپنے لئے ایک خادم مانگو۔ فاطمہؓ گئیں۔ مگر وہاں بھوم تھا میں نہ سکیں۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا ضرورت تھی۔ فاطمہؓ چپ ہو گئیں۔ میں نے قصہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو کھلا کر بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا:

اتمی اللہ یا فاطمۃ وادی فریضۃ ربک واعمل عمل اهلهک، وذا اخذت
مضجعک فسجی ثلثا و ثلاثین و احمدی ثلثا و ثلاثین و کبّری اربعاء ثلاثین
فذلك مائة، هی خیر الک من خادم

اے فاطمہ! خدا سے ڈرو۔ اپنے رب کے فرائض ادا کرو اپنے گھر والوں کا کام کرو۔
جب بستر پر جاؤ تو 33 بار خدا کی تسبیح کرو، 33 بار خدا کی حمد کرو۔ 34 بار خدا کی تکبیر کرو۔ یہ
پورا سو ہو گیا۔ یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔

حضرت فاطمہؓ نے یہ سن کر کہا رضیت عن اللہ و عن رسولہ (میں خدا و رسول سے اس پر خوش ہوں) حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ جواب دیا اور
فاطمہ کو خادم نہیں دیا۔ (ولم يخدهما)

پیغمبر اسلام پر جو حقیقت کھولی گئی، وہ یہ تھی کہ یہ عالم بے خدا نہیں ہے۔ اس کا ایک خدا
ہے اور وہی اس کا غالق اور مالک ہے۔ سارے انسان اس کے بندے ہیں اور اسی کے
سامنے بالآخر جواب دہ ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ دوسری دنیا میں اپنی
مستقل زندگی شروع کرنے کے لئے داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں نیک آدمیوں کے لئے جنت کا
آرام ہے اور برے لوگوں کے لئے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔

خدا نے جب آپؐ کو اس حقیقت کا علم دیا تو یہ بھی حکم دیا کہ سارے انسانوں کو اس
حقیقت سے آگاہ کر دو۔ مکہ کے کنارے صفانام کی ایک چٹان تھی جو اس زمانہ میں عوامی
اجتماعات کے لئے قدرتی استیحکام دیتی تھی۔ آپؐ نے صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا۔ لوگ جمع
ہو گئے تو آپؐ نے تقریر کی۔ آپؐ نے خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہا:

وَاللَّهُ لِتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَاهُونَ وَلِتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَلِتُحَاسِبُنَّ بِمَا
تَعْبُلُونَ وَلَنُجْزِرُنَّ بِالْحَسَانِ أَحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا وَأَنَّهَا جَنَّةٌ أَبْدًاً أَوْلَادًاً
ابدًاً (جمہرۃ خطب العرب)

خدا کی قسم تھیں مرنے ہے جس طرح تم سوتے ہو اور پھر تم کو اٹھنا ہے جس طرح تم جا گتے
ہو اور ضرور تم سے حساب لیا جائے گا جو تم کرتے ہو اور پھر اچھے کام کا اچھا بدلہ ہے اور برے کا
برابدله اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لئے باغ ہے یا ہمیشہ کے لئے آگ

زمانہ کے خلاف کسی طریقہ کو آدمی صرف ذاتی طور پر اختیار کرے، اس وقت بھی اگرچہ قدم قدم پر مشکلیں پیش آتی ہیں، تاہم یہ مشکلیں جارحانہ نوعیت کی نہیں ہوتیں۔ یہ مشکلیں آدمی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ مگر وہ آدمی کے جسم کو زخمی نہیں کرتیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کے خاموش صبر کا امتحان ہوتی ہیں۔ مگر اس وقت صورت حال بالکل بدل جاتی ہے جب آدمی زمانہ کے خلاف ایک آواز کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے، جب وہ دوسروں سے کہنے لگے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ پغمبر اسلام صرف ایک بندہ مومن نہ تھے بلکہ پیغامِ الٰہی کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن بھی آپؐ کے سپرد کیا گیا تھا۔ آپؐ کی اس دوسری حیثیت نے آپؐ کو پوری عرب قوم سے ٹکرایا۔ فاقہ سے لے کر جنگ تک سخت ترین حالات پیش آئے۔ مگر 23 سال کی پوری زندگی میں آپؐ مکمل طور پر انصاف اور تقویٰ پر قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپؐ کے اندر انسانی جذبات نہیں تھے، اصل یہ ہے کہ خدا کے خوف نے آپؐ کو پابند بنارکھا تھا۔

ہجرت کے تیسرا سال مکہ کے مخالفین نے مدینہ پر چڑھائی کی اور وہ معزکہ پیش آیا جس کو غزوہ واحد کہا جاتا ہے اس جنگ میں ابتداء مسلمانوں نے فتح پائی۔ مگر اس کے بعد آپؐ کے بعض ساتھیوں کی غلطی سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ یہ بڑا بھی انک منظر تھا۔ آپؐ کے اکثر ساتھی میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ یہاں تک کہ آپؐ مسلح دشمنوں کے زخم میں تنہا ہو گئے۔ مخالف ہجوم بھوکے بھیڑیے کی طرح آپؐ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپؐ نے اپنے ساتھیوں کو پکارنا شروع کیا اُلیٰ عباد اللہ (خدا کے بندوں میری طرف آؤ) من رجل یسخری لانا نفسمہ (کون ہے جو ہمارے لئے اپنی جان قربان کرے) کون ہے جو ان ظالموں کو مجھ سے ہٹائے، وہ جنت میں میرا رفیق ہو گا (مسلم)

وہ کیسا ہونا کہ سماں ہو گا۔ جب خدا کے رسول کی زبان سے اس قسم کے الفاظ انکل

رہے تھے۔ اگرچہ آپؐ کے ساتھیوں میں سے ایک تعداد نے آپؐ کی پکار پر لیکر کی ہی۔ مگر اس وقت اتنا انتشار کا عالم تھا کہ آپؐ کے جاں شاربھی آپؐ کو پوری طرح بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عتبہ ابن ابی وقار نے آپؐ کے اوپر ایک پتھر پھینکا۔ یہ پتھر آپؐ گواٹنے زور سے لگا کہ ہونٹ کچل گئے اور نیچے کے دانت ٹوٹ گئے۔ عبد اللہ ابن قریش کا مشہور پہلوان تھا۔ اس نے آپؐ پر شدید حملہ کیا۔ جس کے نتیجہ میں لوہے کی خودکی دوکڑیاں آپؐ کے رخسار میں گھسنیں۔ یہ کڑیاں اتنی گہراں تک گھس تھیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح نے جب ان کو نکالنے کے لئے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ابو عبیدہؓ کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ ایک اور شخص عبد اللہ بن شہاب زہری نے آپؐ کو پتھر مارا جس سے آپؐ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ مسلسل خون بہنے سے آپؐ بے حد کمزور ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپؐ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ میدان میں جب آپؐ دیر تک نظر نہیں آئے تو مشہور ہو گیا کہ آپؐ شہید ہو گئے۔ اس دوران میں آپؐ کے ایک صحابی کی نظر گڑھے کی طرف گئی وہ آپؐ کو دیکھ کر خوشی میں بول پڑے ”رسول اللہ یہاں ہیں“، آپؐ نے انگلی کے اشارے سے ان کو منع کیا کہ چپ رہو۔ دشمنوں کو میری یہاں موجودگی کا علم نہ ہونے دو۔ (فشار الیہ الرسول ان احتمت، نور الیقون فی سیرۃ سید المرسلین، محمد الحضری، صفحہ 130)

ایسے خوفناک حالات میں آپؐ کی زبان سے قریش کے بعض سرداروں (صفوان، سہیل، حارث) کے لئے بددعا کے الفاظ نکل گئے۔ آپؐ نے کہا: کیف یغلح قوم شجوانیہم (وہ قوم کیسے فلاج پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے) آپؐ کی زبان سے اتنی بات بھی اللہ کو لپسند نہیں آئی۔ اور جریل خدا کی طرف سے یہ وحی لے کر آگئے:

لَيْسَ لَكَ مِنِ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ

آل عمران۔ 128)

تم کو معاملہ کا کوئی اختیار نہیں۔ خدا یا ان کو توبہ کی توفیق دے گا یا ان کو عذاب دے گا۔

کیوں کروہ ظالم ہیں۔

خدا کی طرف سے اتنی تنبیہ کافی تھی۔ فوراً آپؐ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپؐ زخموں سے نڈھال ہیں۔ مگر ظالموں کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی ہے ہیں۔ آپؐ کے ایک ساتھی عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ”اس وقت بھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں۔ آپؐ اپنی پیشانی سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں:

رب اغفرلی قومی فانہم لایعلیوں (مسلم، غزوہ احمد، جلد 2، صفحہ 108)

خدا یا میری قوم کو معاف کر دے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے

اوپر جو واقعات نقل کئے گئے، وہ اس قسم کے ان بے شمار واقعات میں سے صرف چند ہیں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کس طرح انسانی کردار کا معیاری نمونہ تھی۔ یہ واقعات عمل کی زبان میں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اس کو ہر حال میں خدا کا بندہ بن کر رہنا چاہئے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت خدا کا اور اس کی آخرت کا طوفان برپا ہے ساری کائنات اس کے لئے یاواہی کا دستِ خوان بن جائے۔ وہ ہر واقعہ کو خدا کی نظر سے دیکھے اور ہر چیز میں خدا کا انشان پالے۔ دنیا میں کوئی معاملہ کرتے وقت وہ کبھی یہ نہ بھولے کہ بالآخر سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ جہنم کا خوف اس کو انسانوں سے توضیح اختیار کرنے پر مجبور کرے اور جنت کا شوق دنیا کو اس کی نظر میں بے حقیقت بنادے۔ خدا کی بڑائی کا خیال اس کے ذہین پر اس قدر چھا جائے کہ اپنی بڑائی کا کوئی بھی مظاہرہ اس کو مضکمہ خیز دکھائی دینے لگے۔ کوئی تنقید اس کو مشتعل نہ کرے اور کوئی تعریف اس کے ذہن کو بگاڑنے والی ثابت نہ ہو۔۔۔ یہ ہے انسانی کردار کا وہ نمونہ جو خدا کے رسولؐ نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے۔

برتر اخلاقیات

قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: انک لَعَلَیْ
خُلُقٍ عَظِيمٍ (تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو) امام عطیہ نے خلق عظیم کی تفسیر ادب عظیم سے کی
ہے (تفسیر ابن کثیر) یہ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کیا ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعض اقوال سے ہوتی ہے:

عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا أَمِمَّةً
تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَنَا وَإِنَّ أَسَأَوْلَادَنَا وَلَكُنْ وَظِلُّنَا النَّفَسُ كُمَّانَ
أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تَحْسِنُوا وَإِنْ أَسَأْوْا فَلَا تَظْلِمُوهُمْ (مشکوٰۃ باب الظلم)
(مشکوٰۃ باب الظلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امّعہ نہ بنو یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک
کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظالم
کریں گے۔ بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک
کرو اور لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ
ظَلَمَكَ وَاحْسِنْ إِلَيْكَ مِنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ
جو تم سے کئی تم اس سے جڑو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو اور جو تمہارے
ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

یہ اعلیٰ اخلاق جو حدیث میں بتایا گیا ہے اس اخلاق میں آپ بلند ترین مرتبہ پر تھے۔
عام مسلمانوں سے یہ اعلیٰ اخلاق عزیمت کے درجہ میں مطلوب ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے لئے یہ لازم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کئے

میں اس جڑوں، جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں۔ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں
 (امرني ربی بتسع۔ وان اصلی من قطعنی واعطی من حرمی واعفو عن
 ظلمینی)

اخلاق کی دو سطحیں ہیں۔ ایک معمولی سطح اور دوسری برتر سطح۔ اخلاق کی معمولی سطح یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو ”جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا“ یہ اس کا اصول ہو جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے۔ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے۔ جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لئے برا بن جائے۔

یہ عام اخلاق ہے۔ اس کے مقابلہ میں برتر اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویہ کی پروا کئے بغیر اپنا رویہ متعین کرے۔ اس کا اخلاق اصولی ہونہ کہ جوابی۔ اعلیٰ اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہو جس کو وہ ہر جگہ برترے، خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ۔ وہ مجرّنے والا ہوتی کہ اس سے بھی جو اس سے قطع تعلق کرے۔ وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے براسلوک کرے۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہوتی کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو۔

فرانس کے مشہور فلسفی واٹیر (1778-1694) نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی
 لوگوں میں ہیر نہیں ہوتا:

No one is a hero to his valet

کیوں کہ قریبی لوگوں کی نظر میں آدمی کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا۔ دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، قریب کے لوگوں کو وہ اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے قریبی لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ مگر سورن اسمتحنے نے لکھا ہے کہ یہ کلیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق

نہیں آتا، کیوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ آپ سے قریب تھا، اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی خوبیوں کا شیدائی تھا۔

زید بن حارثہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے لڑکے تھے۔ ان کی ماں سعدی بنت شعبہ تھیں جو قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی معن سے تعلق رکھتی تھیں۔ زید جب آخر ہٹ سال کے تھے، اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے لگتیں۔ وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑا و پر حملہ کیا۔ وہ جو کچھ لوٹ کر لے گئے اس میں زید بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو شیخ دیا۔ ان کو حکیم بن حرام نے خریدا جو حضرت خدیجہؓ کے بھیتی تھے۔ وہ اس بچہ کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھوپھی کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہؓ سے ہوا تو حضرت خدیجہؓ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد زیدؒ کے باپ اور پچھا کو معلوم ہوا تو وہ مکہ آئے تاکہ اپنے بچے کو حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں، ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔ آپ ہمارا بچہ ہم کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہئے۔ اگر لڑکا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جاسکتے ہو۔ آپ نے زید کو بلا یا اور کہا ان کو پہچانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے باپ اور پچھا ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ لوگ تم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اپنے گھر جاسکتے ہو۔ زیدؒ نے جواب دیا: میں آپ گوچھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر ان کے باپ اور پچھا بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا: تم آزادی کو گوچھوڑ کر غلامی کو پسند کرتے ہو اور اپنوں کو گوچھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو۔ زیدؒ نے کہا: میں نے محمدؐ کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں اس کے بعذاب میں کسی کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد زیدؒ کے باپ اور پچھا اپنے وطن کو واپس چلے گئے یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی

خصوصیت کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

فِيَمَا رَحْمَةً وَمِنَ اللَّهِ لِنُتَّلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيلَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: 159)

یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لئے نرم ہو۔ اگر تم درشت اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے

پیغمبر اسلام کا یہی اعلیٰ کردار تھا جس نے آپؐ کے اندر تحریری قوت پیدا کر دی۔ جو شخص بھی آپؐ سے قریب ہوا وہ آپؐ کی عظمتوں کو دیکھ کر مفتوح ہو کر رہ گیا۔

طاائف کی وہ شام بھی کسی قدر بھی انک تھی جب شہر کے لڑکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر شہر سے باہر لے جا رہے تھے۔ آپؐ نے پچاس میل کا پیدل سفر طے کر کے جاز کے رئیسوں کے گرامی صدر مقام پہنچے تھے تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں۔ مگر طائف کے رئیسوں نے آپؐ کے خیر خواہانہ پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپؐ کے پیچھے لگادیا۔ یہ شریر لڑکے اس وقت تک آپؐ کا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہو کر آپؐ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریکی کا پرده نہ دال دیا۔ آپؐ کا جسم زخموں سے چور تھا۔ سر سے پاؤں تک آپؐ خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپؐ نے تھک کر انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ غور کیجئے۔ کسی آدمی کے لئے کتنا نازک وقت ہوتا ہے۔ آپؐ نے خود ایک بارا پنی بیوی حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی۔ مگر آپؐ کی زبان سے اس انتہائی سُنگین موقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی بر الکملہ نہیں نکلا۔ بلکہ آپؐ نے فرمایا ”خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا، کیوں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں“، اللہ کے رسولؐ کا یہی اخلاق تھا جس نے آپؐ کے دشمنوں کو اس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپؐ کے پیغام کو قبول کر لیا۔ آپؐ کے اعلیٰ کردار کے آگے کوئی تعصباً، کوئی عداوت اور کوئی ہٹ دھرمی ٹھہر نہ سکی۔ آپؐ کی بلند سیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر

کرتی چلی گئی۔

ایک بار آپ نے فرمایا: صلمہ رحمی نہیں ہے کہ تم صلمہ رحم کرنے والوں کے ساتھ صلمہ رحم کرو۔ بلکہ صلمہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صلمہ رحم کرو (بخاری، کتاب الادب) تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار اسلام کے کچھ دشمنوں نے حضرت عائشہؓ پر بد کاری کی تھمت لگائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی تھیں۔

یہ تھمت سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی۔ اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مسطح نام کا بھی شریک تھا۔ یہ شخص حضرت ابو بکرؓ کا رشتہ دار تھا۔ اس کو ضرورت مند سمجھ کر حضرت ابو بکرؓ اس کو ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکرؓ کو معلوم ہوا کہ ان کی معصوم صاحبزادی پر جھوٹی تھمت لگانے میں مسطح بھی شریک رہا ہے تو انہوں نے مسطح کی امدادی رقم بند کر دی۔ اس پر اللہ کے رسولؐ کے پاس یہ وہی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشری اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بند نہ کرو، بلکہ اس کے جرم سے درگز رکرتے ہوئے اس کی معاشری امداد کو جاری رکھو۔

قرآن میں کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل اور کشاش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مجاہوں اور اللہ کی راہ میں طعن چھوڑنے والوں کی مدد نہ کریں گے۔ ان کو معاف کر دینا چاہئے اور درگز رکرنا چاہئے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے (نور: 22) حضرت ابو بکرؓ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپؐ کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بکرؓ پہلی بار سن کر چپ رہے۔ اس نے دوسرا بار برا بھلا کہا تو اس وقت بھی آپؐ چپ رہے۔ مگر جب اس نے تیسرا بار بذبانبی کی تو آپؐ خاموش نہ رہ سکے اور جواب میں بول اٹھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہؐ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت

ابو بکرؓ نے پوچھا: اے خدا کے رسول آپؐ کیوں اٹھ گئے۔ آپؐ نے کہا: ابو بکر! جب تک تم چپ تھے، خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم خود بول پڑے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا (سنن ابی داؤد، کتاب الادب) اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آدمی اپنی طرف سے کوئی انتقامی کا رروائی نہیں کرتا تو وہاں خدا اس کی طرف سے انتقام لینے کے لئے موجود ہوتا ہے۔ مگر جب آدمی خود انتقام لینے پر اتر آئے تو خدا اس کے معاملہ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا سے بہتر انتقام لے سکے۔

حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لئے پہنچا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ”اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے۔“ یہودی نے کہا ”جب تک تم میرا قرض ادا نہ کرو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔“ چنانچہ ظہر کے وقت سے لے کر رات تک وہ آپؐ گوگھیرے میں لے ہوئے بیٹھا رہا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب کہ مدینہ میں آپؐ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آپؐ اس کا خلاف کارروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپؐ کے ساتھیوں نے اس کوڈاٹ کر بھگانا چاہا۔ مگر آپؐ نے سب کو منع کر دیا۔ کسی نے کہا: ”اے خدا کے رسول، ایک یہودی آپؐ گوئید کہے ہوئے ہے۔“ آپؐ نے کہا کہ ہاں، مگر مجھ کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی حال میں صحح ہو گئی۔ جب اگلا دن شروع ہوا تو یہودی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپؐ قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ یہودی مدینہ کا ایک مالدار آدمی تھا۔ کل تک اس نے چند شریفوں کے لئے آپؐ کا گھر اور کرکھا تھا۔ مگر آپؐ کے اعلیٰ کردار نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپؐ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ آپؐ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں (بیہقی) عبد اللہ بن ابی الحسم ماءہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے ایک بار میں نے خرید فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ضرورت پیش آگئی۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھہرے۔ میں گھر سے واپس آتا ہوں تو بقیہ معاملہ کو مکمل کروں گا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ اپنا وعدہ بھول گیا۔ تین دن کے بعد یاد آیا تو میں اس مقام پر پہنچا۔ دیکھا کہ وہاں رسول اللہ موجود ہیں۔ آپ نے مجھ کو دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا: تم نے مجھ کو بہت تکلیف دی۔ میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں (ابوداؤد) اس طرح کا عمل اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے کہ انتہائی گڑ آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

حضرت عائشہؓ بتاتی ہیں کہ یہودی علموں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ جب وہ لوگ آپؐ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: السام علیکم (تباهی ہوتم پر) حضرت عائشہؓ نے ساتوان سے برداشت نہ ہوسکا، انہوں نے کہا ”بلکہ تم لوگ غارت ہو جاؤ اور تم پر خدا کی لعنت ہو۔“ آپؐ نے حضرت عائشہؓ کو اس قسم کے جواب سے منع فرمایا اور کہا: ”خدامہربان ہے اور وہ ہر کام میں مہربانی کو پسند کرتا ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیتنے کے لئے اس سے بڑا کوئی حر نہیں ہو سکتا کہ اس کی بذریعی کا جواب نہ ملتا تو ان سے دیا جائے۔ تھیار کے حملہ کی تاب لانا تو ممکن ہے مگر کردار کے حملہ کے مقابلہ میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہاں ہر شخص کو اپنی ہمارانی پڑتی ہے۔

براء بن عازبؔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر تین شرطوں کے ساتھ قریش سے معاہدہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے یہاں چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ مگر جو مسلمان قریش کے پاس پہنچ جائے اس کو قریش واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ ایک مسلم نوجوان ابو جندل مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچے۔ ان کو ان کے گھروں کوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اس حال میں حدیبیہ پہنچ کہ ان کا جسم

بیڑیوں کی رگڑ سے زخمی ہو رہا تھا۔ وہ فریاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ کو دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ۔ یہ بے حد نازک وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں۔ ابو جندل کے جذباتی واقعہ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہو گیا کہ معاہدہ کو توڑ کر ابو جندل کی زندگی کو بجا یا جائے دوسری طرف مکہ والوں نے کہا: ”محمد! ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اس کی تکمیل کا پہلا موقع ہے“۔ بالآخر اللہ کے رسول نے فہصلہ کیا کہ جو معاہدہ طے ہو چکا ہے اب اس سے ہم پھر نہیں سکتے۔ آپؐ کے ساتھیوں کے لئے یہ بات بے حد تکلیف کی تھی۔ مگر آپؐ نے ابو جندل کو دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کر دیا (صحیحین) بظاہر اس واقعہ کے معنی یہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے۔ مگر اس واقعہ میں اصول پسندی کا جو شان دار عملی مظاہرہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اندر سے بالکل ڈھنگئے۔ اب ان کا ابو جندل کو لے جانا اور اپنے یہاں ان کو قید میں رکھنا حاضر ایک عام واقعہ نہ رہا بلکہ ان کی طرف سے اخلاقی گراوٹ اور اسلام کے لئے اخلاقی پسندی کی ایک مثال بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مرعوب ہو گئے۔ وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ابو جندل کا وجود مکہ میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا۔ حتیٰ کہ قید و بند کی حالت میں بھی ابو جندل ان کو اپنی قومی زندگی کے لئے خطرہ معلوم ہونے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ ان کو رہا کر کے مکہ کے باہر بھیج دیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لوگوں کی طرف چند سوار بھیجے جو آپؐ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ شہریاما م کے حاکم ثما مہ بن اثاث کو راستہ میں پا گئے اور اس کو گرفتار کر لائے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ اس کے پاس آئے اور حال پوچھا۔ ثما مہ نے جواب دیا: ”اگر تم نے مجھ کو قتل کر دیا تو میری قوم تم سے میرے خون کا بدلہ لے گی۔ اور

اگر تم مجھ کو چھوڑ دو گے تو میں عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا اور اگر مال کی خواہش ہے تو جتنا مال چاہو میں دینے کے لئے تیار ہوں۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کی دنیا میں بہت عجیب تھا۔ کیوں کہ قبلی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آجائے کے بعد اس کا ایک ہی انجام تھا۔ اور وہ یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے اس کے جسم کو قتل نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاقی سلوک سے اس کی روح کو قتل کر دیا۔ چنانچہ قید سے چھوٹنے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا اور غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آیا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ دوبارہ کس لئے یہاں آیا ہے۔ مگر جب اس نے بلند آواز سے فلمہ شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لئے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد ثمامہ عمرہ کرنے کے لئے مکہ گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ثمامہ کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ”تم بے دین ہو گئے۔“ ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا۔ اس زمانہ میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں یہاں مہ ایک خاص مقام تھا۔ چنانچہ ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا کہ سن لو، محمدؐؒ کی اجازت کے بغیر اب گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا (صحیح مسلم) _____ کردار بظاہر ایک بے قیمت چیز ہے مگر اس کو دے کر آدمی ہر چیز خرید لیتا ہے۔

اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہے اس پر وہ خود عمل کرتا ہو۔ کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت و شرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جو کوئی شخص طاقت ور کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے لئے اس کے پاس جو معیار ہو وہی معیار دوسروں کے لئے بھی ہو۔ مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہٹتے۔ حتیٰ کہ دوسروں کی طرف سے پست کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی وہ اعلیٰ کردار پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق کے کمال

درجہ پر تھے۔ آپ نے کبھی اعلیٰ اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ کو اخلاق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاملہ میں جو گواہی دی ہے اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔

سعید بن ہشام تابعی نے آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہؐ کا اخلاق کیسا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: آپؐ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ گویا قرآن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جونقشہ آپؐ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا خود آپؐ اسی نقشہ میں ڈھل گئے۔ انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہؐ کی خدمت کی مگر کبھی آپؐ نے اف تک نہ کیا اور نہ کبھی میرے کسی کام کی بابت آپؐ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کی اور جو کام میں نہیں کیا، اس کی بابت بھی آپؐ نے کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کیا۔ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے (صحیحین) امام احمد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی دوسرے کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ البتہ آپؐ اللہ کی راہ میں چہاد کرتے تھے۔ جب بھی آپؐ گودو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپؐ نے آسان کو اختیار فرمایا، الیکہ وہ گناہ ہو۔ جو چیز گناہ ہوتی اس سے آپؐ تمام لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ آپؐ گو خواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہو کبھی آپؐ نے اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا، الیکہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو، اور آپؐ نے اللہ کی خاطر اس کا بدل لیا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار تھا جس نے آپؐ گوڈشمنوں کی نظر میں بھی قابلِ عزت بنادیا۔ جن لوگوں نے آپؐ کا ساتھ دیا وہ ہر طرح کی مصیبت اور نقصان کے باوجود آپؐ کے ساتھ ہڑتے رہے۔ اپنی مظلومی کے دور میں بھی آپؐ لوگوں کی نظر میں اتنے ہی محبوب تھے جتنا فتح و غلبہ کے دور میں۔ آپؐ گو دور سے دیکھنے والوں نے آپؐ کو جیسا پایا ویسا

ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپؐ کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ آپؐ کا کردار ایسا نامونہ بن گیا جیسا نامونہ تاریخ میں دوسرا نہیں پایا جاتا۔

آپؐ کا اعلیٰ کردار آپؐ کی با اصول زندگی کا ایک مستقل جز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باقی رہتا تھا جن سے آپؐ گوشکاری یا تکلیف پہنچی ہو۔

کعبہ کی دربانی (حجابہ) جاپیت کے زمانہ میں بھی نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ دربانی قدیم ترین زمانہ سے ایک خاص خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے۔ انہیں کے پاس کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں۔

بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کریں۔ آپؐ نے عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیں۔ مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپؐ گوبرا بھلا کہا۔ آپؐ نے فرمایا: اے عثمان، کسی دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اسے دوں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کہا:

لقد هلکت قریش يوم مذوق ذلت
وہ دن قریش کی تباہی اور رسولی کا دن ہوگا

آپؐ نے فرمایا: نہیں، اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔

اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مفتی ہوا اور تمام اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آگیا۔ آپؐ مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے۔ آپؐ نے کعبہ کا سات بار طواف کیا۔ اس کے بعد آپؐ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ ایک روایت کے مطابق وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے آپؐ نے ان سے کنجی لی اور دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپؐ کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں جوبت تھا

اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے باہر نکلے تو آپؐ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپؐ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ان اللہ یا مرن کم ان تو دوا الامانات الی اهلها (اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو) اس وقت آپؐ کے چچازاد بھائی اور دادا حضرت علیؓ کھڑے ہو گئے اور کہا: یا رسول اللہ اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلی اللہ علیک۔ یعنی اللہ کی رحمت آپؐ پر ہو، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے۔ اب کعبہ کی گلید برداری بھی ہمیں کو دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپؐ نے فرمایا: عثمان بن طلحہ کہا ہیں۔ ان کو بلا یا گیا۔ آپؐ نے کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا:

هاک مفتاحک یا عثمان، الیوم یوم برو وفاء۔ خذ وہا خالدة تالدة۔ لا

ینزعها منکم الاظالم (زاد المعا德 جلد اول)

اے عثمان، اپنی کنجی لو۔ آج وفا اور سلوک کا دن ہے۔ اس کو لو۔ یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی۔ ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملہ میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہئے کہ صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہوتا بھی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے۔ ادائگی حقوق سے کسی حال میں بھی تجاوز نہ کیا جائے خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو۔

دنیا پرست لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو کسی قسم کا اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابق مخالفین کو سزا دیں اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا کر اپنے عقیدت مندوں کو تمام مناصب پر بٹھا دیں۔ ہر صاحب اقتدار موافق اور مخالف کی اصطلاحوں میں سوچتا ہے۔ موافقین کو اٹھانا اور مخالفین کو کچلنا اس کی پالیسی کا سب

سے اہم جزء ہوتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں انتدرا حاصل ہوا تو آپ نے اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا۔ آپ نے معاملات کو ”موافق“ اور ”مخالف“ کے اعتبار سے نہیں دیکھا بلکہ حق پسندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا۔ اور تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رحمت اور عدل کا تقاضا تھا۔

اسباق سیرت

قرآن میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّمَّا يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ (الاحزاب: ۲۱)

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لئے مکمل نمونہ ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ نمونہ صرف اس شخص کے لئے ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو اللہ اور آخرت کا امیدوار بن چکا ہو۔

گویا رسول کی زندگی کا نمونہ، پوری طرح موجود ہونے کے باوجود، اپنے آپ ہر آدمی کے لئے نمونہ نہیں بن جائے گا۔ وہ صرف اس بندہ خدا کے لئے نمونہ بنے گا جس نے اللہ کو اتنی گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اس کی یادوں میں سما جائے۔ اللہ جس کی تمناؤں کا سرمایہ بن چکا ہو۔ جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں اتنا اہم بن جائے کہ وہ دل و جان سے اس کا آرزو مند ہو۔

رسول کے اسوہ حسنة کو پانے کے لئے یہ شرط کیوں لگائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کے ادراک کے لئے اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا شرط لازم ہے۔ خدا اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آدمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں سنجیدہ بناتا ہے۔ یہی سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو صحیح نظر سے دیکھے اور اس سے مطلوبہ سبق لے سکے۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے ایک مثال لیجئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من قتل دون مآلہ فهو شهید۔ ومن قتل دون دمه فهو شهید و من
قتل دون دینه فهو شهید۔ ومن قتل دون اهله فهو شهید (ترمذی، نسائی،
ابوداؤد)

جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے خون کی حفاظت
میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو
شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یہ حدیث ”لڑنے“ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ”مارے
جائے“ کی صورت میں مومن کے انجام کو بتانے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی مراد نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل و عیال کا مسئلہ پیش آئے تم
فوراً لڑ جاؤ، خواہ اس کے نتیجہ میں یہی کیوں نہ ہو کہ تم قتل کر دے جاؤ۔ بلکہ اصل مطلب یہ ہے
کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن کو قتل کر دے تو اس کا قتل قتل نہیں بلکہ
شہادت ہوگا۔ گویا یہ حدیث اصلاً لڑائی پر انسانے کے لئے نہیں ہے بلکہ قتل کر دے جانے کی
صورت میں شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے۔

اب جو شخص دین کے بارے میں سنبھیڈہ نہ ہو، جس کو اپنے ذاتی ذوق کے لئے رسول اللہ
کا جواز مطلوب ہو وہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لے گا اور اپنے نفسانی جھگڑوں اور قومی
لڑائیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس کو بطور دلیل پیش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اسلام
آدمی کو مرادنگی کی تعلیم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے دین و ایمان، جان و مال، زمین و جائداد،
بیوی بچوں اور خویش و اقارب کی حفاظت کے لئے لڑ جاؤ۔ اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد
پالیا۔ اگر تم ہار گئے تو تم شہید ہوئے۔ اور شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں ہی کو
ملتا ہے۔

مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کو نہایت سنبھیدہ ہو کر دیکھے گا۔ اس کی سنبھیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے وفاع میں لڑنا مننا مطلوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیں کیوں ہیں کہ آپ بہت سے موقع پر صریح ظلم کے باوجود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔

1۔ مثال کے طور پر ابن ہشام نے ابو عثمان النہدی کے حوالہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے:
 بلغنى ان صهيباً حين اراد الهجرة قال له كفار قريش اتيتنا صعلوكاً
 حقيرا فكثراً مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم ترید ان تخرج بالملك و
 نفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب ارأيتم ان جعلت لكم مالك
 اتخلون سبili. قالوا انعم. قال فاني جعلت لكم مالی. قال فبلغ ذلك
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ریج صهيب ریج صهيب. (سیرۃ النبی
 لابن ہشام، الجرا الثاني، صفحہ 89)

مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت صہیب نے جب مکہ سے بھرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے۔ پھر تمہارے پاس یہاں بہت مال ہو گیا اور تم اس درجہ کو پہنچے جس درجہ میں تم اب ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ تو خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو گا۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا، اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھ کو جانے دو گے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا پھر میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: صہیب کی تجارت کا میاب رہی، صہیب کی تجارت کا میاب رہی۔

مذکورہ حدیث میں مال کے مقابلہ میں لڑکر جان دینا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہئے تھا کہ حضرت صہیب کونا کامی کا ازام دیں نہ کہ انہیں کامیابی کا کریڈٹ عطا فرمائیں۔

2- بھرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ اس موقع پر فریقین کے درمیان صلح کی گفت و شنید ہوئی تھی کہ وہاں ابو جندل بن سہیل آگئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے مکہ والے ان کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈال دی تھیں۔ انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحاب حدیبیہ میں ہیں تو وہ کسی طرح بھاگ کر مکہ سے حدیبیہ پہنچے۔ اس وقت بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ان کا جسم خون آلو دھو رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر قریش کے سردار سہیل بن عمرو (ابو جندل کے والد) نے کہا کہ ابو جندل کو ہمیں واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے۔ مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپؐ نے ابو جندل کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم آپؐ سے کسی طرح کی کوئی صلح نہیں کریں گے۔

یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ ابو جندل بیڑیوں میں خون آلو دسانے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا: اے مسلمانو، کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، حالانکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کس قدر عذاب پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا:

یا ابا جندل اصبرو احتسب فان الله جا عل لک ولمن معك من

المستضعفين فرجا و هخرجا

اے ابو جندل، صبر کرو، اللہ تمہارے لئے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لئے گنجائش پیدا کرے گا۔ (سیرۃ النبی لابن ہشام۔الجزء الثالث، صفحہ 367)

مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہو جانا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو جندل کو صبر و رضا کی نصیحت نہ فرماتے۔ بلکہ انہیں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑ جاتے۔

3۔ اسی حدیث کا واقعہ ہے کہ قریش نے آپ گورکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ گو عمرہ کے لئے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس پر راضی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے۔ اور عمرہ کے لئے مکہ جانے پر اصرار نہیں کیا۔ حالانکہ یہ خالص دینی معاملہ تھا اور آپ خدا تعالیٰ بشارت کی بنیاد پر اپنے اصحاب کو لے کر زیارت حرم کے لئے جا رہے تھے۔ اگر مذکورہ حدیث میں دین کے لئے لڑ کر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہو تو آپ گوچا ہٹے تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کے لئے اصرار کریں، خواہ اس کے نتیجے میں عمرہ ملے یا شہادت۔

4۔ مکہ میں عمار بن یاسرا اور ان کے والدین بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بنو مخزوم کو ان کا اسلام لانا سخت ناپسند تھا۔ چنانچہ وہ ان کو عین دوپھر کے وقت صحرا میں لے جاتے اور تبیق ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے۔ حتیٰ کہ عمار کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابن ہشام اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ رہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول فیما بلغنى: صبراً آل یاسر
موعدُكم الجنة (الجز الاول صفحہ: 342)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور جیسا کہ مجھے روایت پہنچی ہے ان سے کہتے: اے خاندان یاسر، صبر کرو، تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔

مذکورہ حدیث اگر مطلق معنوں میں ہو تو ایسا کہنا، نعوذ بالله، بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا۔ پھر تو آپ گوآل یاسر سے کہنا چاہئے تھا کہ تم لوگ لڑ کر شہید ہو جاؤ اور خود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ خواہ آل یاسر کو بچا سکیں یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ

حاصل کر لیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسوہ رسول ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملہ میں آدمی ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے۔ اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے۔ یہ کہ خوف خدا نے آدمی کو حقیقت پسندی کی اس سطح پر پہنچا رکھا ہو جس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے۔

آدمی اگر فی الواقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اسوہ رسول کے بارے میں مذکورہ سوالات سے دوچار کرے گی۔ اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لینی تھی بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اسوہ نبوت کیا ہے۔ اس کا یہ ہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا۔ وہ بے آمیزہ ہن کے تحت اس مسئلہ پر غور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کو معلوم ہو گا کہ اس کا راز ہے ۔۔۔ فائدہ کی خاطر چھوٹے نقسان کو برداشت کرنا۔

اہل ایمان کے لئے سب سے اہم چیز دعویٰ مصلحت ہے نہ کہ شخصی مصلحت۔ اگر دعویٰ مصلحت اور شخصی مصلحت میں نکلا رہا ہو تو شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعویٰ مصلحت کو حاصل کیا جائے گا۔ مذکورہ واقعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یہی دعویٰ مصلحت ہے۔ دعویٰ کام کو موثر طور پر جاری رکھنے کے لئے خدا کے رسول نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کیں۔ حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے ”دین میں مداخلت“ کو بھی وقتی طور پر گوارا کر لیا۔ تاکہ دعوت کا کام جاری رہے جو اہل ایمان کے لئے ہر قسم کی کامیابیوں کا واحد ذریعہ ہے۔

جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ دوسرے تمام نقسانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو وہ ہر چیز میں الجھتا ہے۔ وہ ہر بات کے لئے دوسروں سے

لڑتا ہے۔ خواہ اس کے نتیجہ میں یہی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر اس کو زیادہ بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ داعی اس دنیا کا سب سے زیادہ با مقصد انسان ہے، اس لئے وہ ہمیشہ پہلے رویہ کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے رویہ کو۔ اس کا یہ سے مستثنی صرف وہ امور ہیں جب کہ معاملہ خالص دفاعی ہو، اس کا دعویٰ مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس تمہید کے بعد یہاں ہم مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں جن میں ہماری زندگی کے لئے زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں: اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپؐ کا یہ حال ہوا کہ جب آپؐ اپنی کسی ضرورت کے لئے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے۔ آپؐ گہکی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھوجاتے۔ ابن ہشام نے عبد اللہ بن زبیرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک مہینہ حراء پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوں میں رہتے (کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُجاوِر فی حراءٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے کچھ اشعار ابن ہشام نے نقل کئے ہیں۔ ایک مصرع میہ ہے:

وَرَاقِ لِيَرْقَى فِي حِرَّاً وَنَازِلٌ

(وہ حراء پر چڑھنے والے ہیں اور پھر اس سے اترنے والے ہیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ابھرا تو آپؐ کا یہ حال ہوا کہ انسانی بستیوں سے نکل کر آپؐ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے۔ یہ گویا ایک صالح روح

کا واقعات انسانی کا ماحول چھوڑ کر واقعات خداوندی کے ماحول میں جانا تھا۔ صحرائی جغرافیہ خصوصیت سے اس کام کے لئے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے۔

رومانیہ کے مستشرق کوستان ورثیل جارج (1916) نے اسلام کے جغرافیہ کو سمجھنے کے لئے خود عرب کا سفر کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب ”پیغمبر اسلام“ میں لکھتے ہیں:

جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرائی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے۔ عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے۔ گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوبصورت ہو۔ یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے بیول بھی خوبصوردار ہیں۔ 30 لاکھ کیلومیٹر والا مسطح جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بلا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔

دوسرے ملک ایسی عمارت کے مثل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں۔ مگر عرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی مانع نہیں جو دیدار حق کو روک سکے۔ لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں، لا محدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں خدا اور فرشتوں کی شناسائی کے لئے کوئی چیز مانع نہیں۔

2

زمانہ جاہلیت میں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور ظلم کرو کرنا تھا۔ اس معاہدہ میں شریک ہونے والوں کے نام تھے فضل بن نضال، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث۔ چنانچہ انہیں کے نام پر اس معاہدہ کا نام حلف الفضول (فضل والوں کا معاہدہ) پڑ گیا۔ یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا۔ زیر بن عبدالمطلب نے اپنے بعض

اشعار میں اس معاهدہ کا ذکر اس طرح کیا ہے (روض الانف از سہیل)

إِنَّ الْفُضُولَ تَحَالِفُوا وَتَعَاقدُوا
أَمْرٌ عَلَيْهِ تَعاهَدوْا وَتَوَثِّقُوا
فَالْجَارُ وَالْمُعَتَّرُ فِيهِمْ سَالِمٌ
فَضْلٌ نَّامٌ افْرَادٌ نَّبَاهُمْ معاَهِدَهُ كَيْا اور عَهْدَ بَانِدَهَا كَمَهْ مِنْ كُوئَيْ ظَالِمٌ نَّهَرْ بَهْنَے پَائِيَ گا
انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا۔ پس کمہ میں پڑوئی اور ضرورت سے
آنے والا سب محفوظ ہیں۔

واقعہ فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کو حرب الغبار (حرام مہینوں میں کی جانے والی جنگ) کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بد امنی بڑھ گئی۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا۔ قریش کے ایک سردار عاص بن واکل ہمی نے اس کا سامان خرید اگر اس کی مطلوبہ قیمت نہیں ادا کی۔ مذکورہ یمنی تاجرنے مکہ والوں سے فریاد کی۔ اس نے کچھ اشعار کہے اور ان کے ذریعہ عام لوگوں تک اپنی شکایت پہنچائی۔ اس واقعہ نے مکہ کے کچھ دردمند لوگوں کو پوچھنا کر دیا۔ زیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم اور بنو تمیم کے لوگ عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے تاکہ صورت حال کے بارے میں مشورہ کریں۔ انہوں نے حلف الفضول کی ازسرنو تجدید کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے باہمی عہد کے ذریعے اپنے کو پابند کیا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلا کر رہیں گے (تعاقدو ابا اللہ لیکونن مع المظلوم حتى یؤدی اليه حقه) اس عہد کے بعد وہ لوگ عاص بن واکل کے پاس گئے۔ اس سے مذکورہ شخص کا سامان چھینا اور اس کو اس کے مالک کے حوالے کیا۔

یہ معاهدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا۔ وہ اگرچہ عربوں کا ایک معاهدہ تھا مگر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں:

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لودعية في الإسلام لا
جيئ تحالفوا ان يردوا الفضول على اهلينا وان لا يعزّ ظالم مظلوماً (سيرت
ابن کثیر)

میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے معاهدہ میں شریک تھا۔ اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میں بلا یا جاتا تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا۔ انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہ آسکے گا۔ ابن ہشام نے اس ذیل میں بعض واقعات نقل کئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلف الفضول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باقی تھا۔ ولید بن عتیہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پیغام تھے۔ حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا۔ اسی زمانہ میں ولید بن عتیہ اور حضرت حسین بن علیؑ کے درمیان ایک جائز دکا جھگڑا ہوا جو کہ ذوالمرودہ نامی گاؤں میں تھی۔ ولید نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت حسین نے فرمایا:

احلف بِاللهِ لِتُنْصِفَنِي مِنْ حَقٍّ أَوْ لَا حُزْنَ سِيفِ ثَمَّ لَا قُوَّةَ مِنْ فِي مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ لَا دُعْوَةَ بِحَلْفِ الْفَضُولِ

میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو میرے حق کے معاملہ میں انصاف کرنا ہو گا ورنہ میں اپنی توارلوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر بکاروں گا۔ عبد اللہ بن زبیر جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا: میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لئے بکاریں گے تو میں اپنی توارلوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں۔ یہ بات مسیو بن مخزوم زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اسی طرح یہ بات عبدالرحمن بن عثمان تیبی کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب ولید بن عتیہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق ادا کر دیا (سیرۃ ابن ہشام، جزء اول، 164)

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ بد امنی اور فساد کے مسئلہ کے حل کے لئے اسلام کا مصدقہ طریقہ حلف الفضول کا طریقہ ہے۔ یعنی معاشرہ کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کر اپنے آپ گواں کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو وہ فوراً دوڑ کر موقع پر پہنچیں گے۔ مظلوم کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بنائیں گے۔ وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے۔

آج ہرستی میں یہ صورت حال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے۔ کوئی کسی کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کئے ہوئے ہے۔ کوئی کسی کامال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ غرض جس کو ذرا بھی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور ظالمانہ طریقہ پر دوسرے کے حقوق کو غصب کرے۔ اس قسم کے واقعات ہرستی میں اور ہر محلہ میں ہو رہے ہیں۔ مگر تمام لوگ غیر جانب دار بنے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ذمہ دار افراد بھی ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ کسی کو اگر اصلاح امت یا خدمت قوم کا شوق ہوتا ہے تو وہ جلسوں اور تقریروں کا مشغله شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل کام مظلوموں کی عملی دادرسی ہے نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا اور اس میں الفاظ کے دریا بہانا۔ مظلوموں کے نام پر جلسے کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص زخمی ہو جائے اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے ایک ”شان دار زخمی کانفرنس“ منعقد کرنے کے لئے دوڑ پڑیں۔

قبائلی نظام میں آدمی قبیلہ کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی زمانہ میں اپنے پچاaboطالب کی حمایت میں رہے جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار

تھے۔ نبوت کے دسویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قبائلی روایات کے مطابق ابو لہب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے آپؐ کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اب آپؐ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلہ کی حمایت حاصل کر کے اپنا دعویٰ کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپؐ نے طائف کا سفر فرمایا۔

طائف مکہ کے جنوب مشرق میں 65 میل کے فاصلہ پر ایک سرسبز و شاداب بستی تھی۔ وہاں آپؐ کے بعض رشتہ دار تھے۔ چنانچہ آپؐ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچ۔ اس وقت وہاں کی آبادی میں تین ممتاز سردار تھے۔ عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ آپؐ ان تینوں سے ملنے۔ مگر ہر ایک نے آپؐ کا ساتھ دینے یا آپؐ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا: خدا نے اگر تم کو رسول بنایا ہو تو میں کعبہ کا پردہ پھاڑ ڈالوں۔ دوسرے نے کہا: خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا جس کو وہ رسول بنائے کر بھیجتا۔ تیسਰے نے کہا: خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اگر تم رسول ہو تو تمہارا جواب دینا گستاخی ہے اور اگر تم جھوٹ ہو تو میرے لئے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ (فَقَالَ لَهُ أَحَدٌ هُوَ يَمْرُطُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنَّ كَانَ اللَّهُ اَرْسَلَكَ وَقَالَ الْآخَرُ أَمَا وَجَدَ اللَّهُ أَحَدًا يَرْسُلُهُ غَيْرِكَ . وَقَالَ الثَّالِثُ وَاللَّهُ لَا اَكْلِمُكَ أَبْدًاً . لَئِنْ كُنْتَ رَسُولًا مِنَ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ لَا نَتَعْظَمُ خَطَرًا مِنْ أَنْ أَرْدَدْ عَلَيْكَ الْكَلَامَ وَلَئِنْ كُنْتَ تَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِيَ أَكْلِمُكَ ،

(سیرۃ ابن ہشاجلد 2 صفحہ 29)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گین ہو کرو اپس ہوئے۔ مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپؐ کو نہ بخشنا۔ انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپؐ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیوں اور پتھروں سے آپؐ کا پیچھا کرتے رہے۔ آپؐ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمل سے آپؐ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی۔ مگر وہ آپؐ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور آپؐ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔

بستی سے کچھ دور جا کر عتبہ اور شیبہ دو بھائیوں کا انگور کا باغ تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ خدا یا میری مدفر ما مجھے تہانہ چھوڑ دے۔

عقبہ اور شیبہ دونوں مشرک تھے۔ مگر جب انہوں نے آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اوپر حرم آگیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلا یا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس سے کہا کہ ان انگوروں کے کچھ خوشے لو اور ان کو ایک برتن میں رکھ کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کھائے۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔

عداس نے آپ کے چہرہ کی طرف دیکھا اور کہا: خدا کی قسم یہ جو آپ نے کہا، اس ملک کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے عداس، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے۔ عداس نے کہا: میں نصرانی ہوں اور میں نینوا (عراق) کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: مرد صالح یونس بن متی کے شہر کا۔ عداس نے کہا: آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بن متی کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بنی تھے اور میں بھی بنی ہوں (ذالک اخی۔ کان نبیا وانا نبی) یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔

عقبہ اور شیبہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: دیکھو اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا۔ عداس جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا: عداس تمہارا برا ہو۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے۔ عداس نے کہا اے میرے آقا، زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس آدمی نے مجھ کو ایسی بات بتائی جس کو

صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ دونوں نے کہا: اے عداس، تمہارا برا ہو۔ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنہ دے۔ کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 30)

خدا کے رسول کو ایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے تین الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا:

ایک نے آپؐ کے اوپر پتھر پھینکئے
دوسرے نے آپؐ کی ضیافت کی۔
تیسਰے نے آپؐ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔

اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ سبق کہ اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ یہاں اگر چیل میدان ہیں تو وہیں سایہ دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر بरے سلوک کا تجربہ ہو تو آدمی کو ما یوس نہیں ہونا چاہئے۔ آدمی اگر خود سچائی پر فائم رہے۔ وہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائے تو ضرور اس کو خدا کی مدد حاصل ہوگی۔ ایک قسم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے لئے زرم کر دئے جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کی تو آپؐ کی شدید ترین مخالفت کی گئی۔ آپؐ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپؐ گود بانے اور ناکام کرنے کے لئے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا۔ مگر آپؐ کامش بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچی۔ وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپؐ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکہ والے بہت ستاتے تھے۔ آپؐ نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا

مدینہ میں اللہ نے تمہارے لئے کچھ بھائی اور مددگار مہیا کر دئے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ قریش کو اس منصوبہ کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے سے روکیں۔ کچھ لوگوں کو مارا، کچھ لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کر دیا۔ تاہم پیش لوگ کسی طرح مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ قریش کو اندازہ ہو گیا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے کے بعد اب پیغمبر اسلام خود بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ نبوہا شم کے سوا تمام قبائل قریش کے سردار دارالندوہ (قصی بن کلب کا مکان) میں جمع ہوئے۔ مشورہ میں مختلف تجویز سامنے آئیں۔ بالآخر اس رائے پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی تواریخ لے اور یہی وقت حملہ آور ہو کر محمدؐ قتل کر دے۔ اس طرح محمدؐ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا۔ نبوہا شم تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی رات کو تمام سرداروں نے آپؐ کا مکان گھیر لیا۔ تاکہ صحیح کو جب آپؐ گھر سے باہر نکلیں تو اچانک حملہ کر کے آپؐ کا خاتمہ کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر تھی اور آپؐ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، چنانچہ اپنے طے شدہ منصوبہ کے مطابق آپؐ اسی رات کو ابو بکر صدیقؐ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے۔ آپؐ کے سے چل کر چار میل کے فاصلہ پر جبل ثور کے ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپؐ کو اندازہ تھا کہ قریش کو جب معلوم ہو گا کہ آپؐ کے سے چلے گئے ہیں تو وہ آپؐ کی تلاش میں ادھر ادھر نکلیں گے۔ اس لئے آپؐ چاہتے تھے کہ چند دن غارثوں میں گزاریں اور جب قریش کی تلاش رکے تو مدینہ کا سفر کریں۔

اب قریش کے سوار چاروں طرف آپؐ کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک دستہ غارثوں تک بھی پہنچ گیا۔ یہ لوگ تلواریں لئے ہوئے غارثوں کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے ہیں۔

تھے۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ ابو بکر صدیقؓ نے کہا: اے خدا کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا۔ آپؓ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا (غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے) پھر اطمینان کے ساتھ فرمایا: اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیراللہ ہو۔ (یا ابا بکر ما ذنک باثنين اللہ ثالثهما)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ ذات الرقاب ہے جو 4ھ میں پیش آیا۔ اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری (کتاب المغازی) میں نقل ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔

بونواعطفان کا ایک شخص جس کا نام غورث ابن الحارث تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا میں تمہارے لئے محمدؐ کو قتل کر دوں (الا آقتل لكم محمد) انہوں نے کہا ضرور، مگر تم کیسے ان کو قتل کرو گے۔ غورث نے کہا: میں ان کو غفلت کی حالت میں پڑوں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد غورث روانہ ہوا وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پڑا وہاڑاے ہوئے تھے۔ اس مقام پر درخت اور جھاڑیاں تھیں لوگ جھاڑیوں کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار آپؓ نے درخت کی شاخ سے لٹکا دی تھی۔ اتنے میں مذکورہ اعرابی (غورث) آپؓ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے جب دیکھا کہ آپؓ سنہما لیٹے ہوئے ہیں اور آپؓ کی تلوار بھی آپؓ سے الگ درخت کے اوپر لٹک رہی ہے تو اس نے بڑھ کر آپؓ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہا: آپؓ کو کون مجھ سے بچائے گا (یا حمد من یعنیک من) آپؓ نے فرمایا اللہ

عز و جل۔ اعرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا: اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم کواس سے ڈر نہیں معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں تم سے کیوں ڈروں۔ جب کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا (یعنی اللہ منک) آپ کے پ्रاعتماد جواب کے بعد اعرابی کو اقدام کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے تلوار میان میں ڈال کر آپ گواپس کر دی (فشام الاعرابی السیف) اب آپ نے اعرابی کو بٹھایا اور لوگوں کو آواز دی۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پورا قصہ بتایا۔ اعرابی سہا ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پر چلے گی۔ مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کوئی سزا نہ دی (سیرت ابن ہشام جلد 3، تفسیر ابن کثیر جلد اول)

جو لوگ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اور طاقت و رہستی کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہے، ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلہ میں نذر بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں کسی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے۔ دشمن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کا حریف اس سے نہیں ڈرتا تو وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ خندق ہے جو شوال 5ھ میں پیش آیا۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فوجوں کا غزوہ۔ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا تھا۔ قبل قریش، قبل غطفان اور قبل یہود کے دس ہزار سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے۔ یہ حملہ کتنا شدید تھا، اس کا اندازہ قرآن کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: ”جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ آئے۔ اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیج منہ کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں

طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے (احزاب) مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بندھا۔ اس میں ساڑھے چار ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے۔

دشمنوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہو گئی۔ سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقہ کرنے لگے۔ اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور گرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا گرتا اٹھایا تو آپؐ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپؐ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت مدینہ تین طرف سے پہاڑوں، گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ شمال مغربی حصہ خالی تھا۔ طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصہ میں دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے۔ چنانچہ چھوپ دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھوکر تیار کی گئی۔ یہ خندق دشمنوں کی یلغار کروکنے کے لئے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔

سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے۔ ”ایک معمولی خندق دشمنوں کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن گئی؟“ مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً چھ کیلومیٹر لمبی تھی۔ اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً تین میٹر چوڑی تھی۔ اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لئے ایک نالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ بآسانی اس کو عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود

مسلمان دشمن فوج کی تیروں کی زد میں تھے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن معاذؓ کو تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسرا طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد و دا اور اس کے کچھ ساتھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کچھ کم چوڑی دیکھ کر وہاں ٹھہرے اور گھوڑا کدا کر خندق کے دوسرا طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد عمر و بن عبد و دا مقابلہ حضرت علی بن ابی طالبؑ سے ہوا جس میں عمر و بن عبد و دا گیا۔ تقریباً ایک مہینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہو گیا۔ آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدحواسی پیدا کی کہ ابوسفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہانکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ۔ ہزار سے زیادہ تعداد کی مسلح فوجیں خندق کو عبور کر کے مدینہ میں کیوں نہ داخل ہوئیں جہاں تین ہزار آدمیوں کا بے سرو سامان قافلہ ان کی یلغار کرو کنے کے لئے بالکل ناکافی تھا۔

اس سوال کا جواب خدا کی ایک سنت میں ملتا ہے۔ وہ سنت یہ کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تا کہ وہ مرعوب اور ہیبت زده ہو جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ”هم منکروں کے دلوں میں تمہارا رب ڈال دیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتنا ری (آل عمران: 151) اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت رب غزوہ خندق میں اور دوسرے موقع پر ظاہر ہوئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی۔ تا ہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر ایک ”نالی“ کھو دنا ضروری ہے۔ اگر وہ نالی کھو دنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکا سکیں تو خدا ان کی نالی کو خندق بنائ کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی نصرت رب غزوہ اول کے مسلمانوں کو کمال درجہ میں حاصل ہوئی وہ

بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستہ پر چلیں جس راستہ پر صحابہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے۔ کسی اور راستہ پر چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی۔ اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے کو حق کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے، وہ اپنے سر کا تاج دوسرے کے سر پر رکھ دے جیسا کہ بحیرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے کیا۔

خدا کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں یہ ہے کہ ”جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی“۔ خدا ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جب کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم خدا سے اپنے لئے چاہتے ہیں۔ ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہو تو خدا کے فرشتے ہمارے لئے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آسکتے۔ اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم نا حق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگتا ہے۔ ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود داس کی پکار پر دھیان نہ دیں تو کبھی یہ ممکن نہیں کہ خدا اس وقت ہماری پکار کو سنے جب کہ کوئی طاقت وہاں اے اوپر چڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلہ میں آدمی طاقت وہ ہوتا ہے اور کسی کے مقابلہ میں کمزور یہی صورت حال نصرت خداوندی کے معاملہ میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کوئی شخص یا قوم اپنے طاقت وروں کے مقابلہ میں خدا کی جو نصرت چاہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملہ میں دینا پڑتا ہے اگر آدمی اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقت وروں کے مقابلہ میں وہ خدا کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے، خواہ وہ کتنا ہی یوم دعا منائے۔

بدر کی لڑائی (2ھ) سے کچھ پہلے قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ساتھ آدمیوں کی سرکردگی میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں مکہ کے مردوں اور عورتوں نے اپنا تمام سرمایہ لگادیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو مکمل شکست ہوئی۔ تاہم ابوسفیان کو اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلہ کو ساحلی راستہ سے چلا کر مکہ پہنچ جائیں۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انقمام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دار افراد کا ایک اجتماع دارالندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کے شرکا صرف اپنا اصل سرمایہ لے لیں اور منافع کی رقم پوری کی پوری محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگادی جائے۔ منافع کی یہ رقم پچاس ہزار دینار تھی جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ اب قریش نے زبردست تیاری کی اور شوال 3ھ میں مکہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لئے روانہ ہوئے۔

اسی جنگ کا نام جنگ احمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپؐ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ بڑے صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ مگر نوجوان طبقہ اس کا پر جوش مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو دشمن اس کو ہماری بزدی اور کم زوری پر محمول کرے گا۔ اس لئے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہئے۔ عبد اللہ بن ابی کی رائے بھی وہی تھی جو اکابر صحابہ کی تھی۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد 3 صفحہ 7)

جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا جو ایک قدرتی حصار کا کام کرتا تھا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب میں کھجوروں کے گھنے باغات اس کثرت سے تھے کہ ادھر سے کوئی فوج بستی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصہ میں پہاڑ یاں تھیں جو کسی فوجی

پیش قدی کے لئے قدرتی روک کا کام کر رہی تھیں۔ اس لئے کوئی ڈمن صرف ایک ہی سمت سے مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اس جغرافی پوزیشن نے مدینہ کو جنگی اعتبار سے کافی محفوظ شہر بنادیا تھا۔ گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر وہ چاروں طرف سے ڈمن کی زد میں ہو جاتے تھے جب کہ مدینہ کے اندر صرف ایک طرف سے مقابلہ کا انتظام کرنا تھا۔ غزوہ احزاب میں مدینہ کے اسی جائے قوع سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کی کھلی سمت میں (شمال مغربی رخ پر) خندق کھود کر پورے شہر کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔

بڑے صحابہ کی اکثریت اور عبد اللہ بن ابی کی رائے اگرچہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی۔ مگر آپ نے نوجوان طبقہ کی رائے کا لحاظ کیا اور ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر واحد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد اللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی جو باظاً ہر حالات معقول بھی تھی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل پڑا تھا مگر دل کے اندر غصہ باقی تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر بھی مدینہ اور واحد کے درمیان تھا کہ عبد اللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو گیا۔ عبد اللہ بن ابی نے کہا:

اطاعهم و عصانی، ما ندری علام نقتل انفسنا ههنا ایها الناس
(سیرۃ ابن ہشام جلد 3 صفحہ 8)

رسول اللہ نے ان کی بات مان لی اور میری بات نہیں مانی۔ اے لوگو! ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو بیہاں کیوں ہلاک کریں۔

احد کی جنگ میں شکست نے یہ ثابت کیا کہ انہیں لوگوں کی رائے درست تھی جو مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لئے کہتے تھے اور باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد غزوہ خندق (5ھ) میں اسی رائے کو اختیار کیا گیا اور مدینہ میں رہ کر مقابلہ کی تدبیر کی گئی۔ تاہم تمام بڑے صحابہ اپنے اختلاف رائے کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری بے جگہی کے ساتھ مقابلہ کیا۔

صرف عبد اللہ بن ابی الگ ہوا اور اس کی بناء پر نئیں المنا فقین کھلا یا۔ عبد اللہ بن ابی کی رائے اصولاً درست تھی۔ تجربہ نے بھی اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی۔ مگر صحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکنا اس کے لئے گمراہی اور خدا کی ناراضی کا سبب بن گیا۔

اسلام میں مشورہ کی بے حد اہمیت ہے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا مشورہ پیش کرے۔ لیکن ہر مشورہ دینے والا اگر یہ بھی چاہے کہ اس کے مشورہ پر ضرور عمل کیا جائے تو کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مختلف رایوں میں سے کسی ایک ہی رائے کو عملًا اختیار کیا جا سکتا ہے نہ کہ ہر رائے کو۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو مشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ بھول جائیں اور ذمہ داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہواں کو اس طرح مان لیں جیسے وہی ان کی اپنی رائے تھی۔

”سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے،“ کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی واحد چیز ہے جس کے اوپر کوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دبائے کے لئے تیار ہوں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار ہوں کہ وہ اپنی رایوں کو اپنے سینہ میں چھپالیں گے اور اختلاف رائے کے باوجود اتحاد عمل کا ثبوت دیں گے۔ اس قربانی کے بغیر کسی انسانی اجتماعیت کا وجود میں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیاد میں دن ہوئے بغیر عمارت کا وجود میں آنا۔

6 ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے یہ خواب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ چھ سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی خواب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ چودہ سوا صحاب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔

غدیر اشطاط کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش آپؐ کے سفر کی خبر پا کر سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لشکر جمع کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپؐ گومکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔

کعبہ کی زیارت سے کسی کو رکنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا۔ مزید یہ کہ آپؐ اشارہ خداوندی کے تحت یہ سفر کر رہے تھے۔ مگر اس کے باوجود آپؐ اس خبر کو سن کر مشتعل نہیں ہوئے۔ آپؐ کے جاسوس نے بتایا کہ خالد بن ولید دوسو سواروں کو لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے ہیں تاکہ آپؐ کا راستہ روکیں۔ یہ خبر سن کر آپؐ نے یہ کیا کہ معروف راستہ کو چھوڑ دیا اور ایک غیر معروف اور دشوار گزار راستہ سے چل کر حدیبیہ تک پہنچ گئے تاکہ خالد سے مکراوہ کی نوبت نہ آئے۔ اس واقعہ کا ابن ہشام نے جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں:

قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها . قال
رجل أنا يارسول الله . قال فسلك بهم طريقاً وعداً أجرل بين شعاب فلما
خر جوامنه و قد شق ذلك على المسلمين وافضوا الى ارض سهلة عند
منقطع الوادي قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للناس قولوا انتغفر
الله و نتوب اليه فقالوا اذلك . فقال والله انها للحطة التي عرضت علىبني
اسرائیل فلم يقولوها (جزء 3 صفحہ 357)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون شخص ہے جو ہم کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے راستے سے مختلف ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول۔ چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر ایسے راستے پر چلا جو سخت دشوار اور پتھر بیانہ اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا۔ جب لوگ اس راستے کو طے کر چکے اور مسلمانوں کو اس پر چلنا بہت شاق گز راتھا اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہمارا زمین میں پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کہو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اسی طرح کہا۔ آپؐ نے فرمایا: خدا کی قسم یہی حطہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا۔ مگر انہوں نے نہیں کہا۔

خط کا مطلب توبہ اور بخشش ہے۔ اس صبر آزماموقع پر توبہ واستغفار کرانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابرانہ طریق کارک آدمی کو اس قدر زیادہ پابند ہونا چاہئے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا بھجھلاہٹ پیدا ہواں کو بھی آدمی گناہ سمجھے اور اس کے لئے خدا سے معافی مانگے۔ اس کو خدا کے طریقہ پر راضی رہنا چاہئے نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر خود ساختہ طریقہ نکالنے لگے۔

حدیبیہ کا مقام مکہ سے 9 میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آپ ﷺ کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حدیبیہ سے آپؐ نے خراش بن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں، جنگ کے لئے نہیں آئے ہیں۔ جب وہ مکہ پہنچنے تو اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خود حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کے لئے دوڑے۔ مگر وہ کسی طرح نجیگی کروالا پس آگئے۔ پھر آپؐ نے حضرت عثمان کو یہ پیغام لے کر مکہ بھیجا کہ تم لوگ مراجحت نہ کرو، ہم عمرہ کے مراسم ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا۔ پھر مکر زین حفص پچاس آدمیوں کو لے کر رات کے وقت حدیبیہ پہنچا اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر تیر اور پتھر بر سانے لگا۔ مکر ز کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کو بلا شرط چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح مقام تشتعیم کی طرف سے 80 آدمی صحیح سوریے آئے اور عین نماز کے وقت مسلمانوں پر چھاپے مارا۔ یہ لوگ بھی پکڑ لئے گئے۔ مگر آپؐ نے ان کو بھی غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔

اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی۔ مگر یہ صلح ظاہر بینوں کے لئے سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے ہم معنی تھی۔ مسلمان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عمرہ کرنے کے لئے مکہ جا رہے ہیں مگر جو صلح ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ عمرہ کئے بغیر

حدیبیہ سے واپس چلے جائیں۔ اگلے سال وہ عمرہ کے لئے آئیں مگر صرف تین دن مکہ میں ٹھہریں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی ذلت آمیز دفعات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لئے بالکل کافی تھیں۔ مگر آپ نے بظاہر شکست کے باوجود تمام دفعات کو منظور کر لیا۔

قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو اشتغال دلانے کے لئے کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ کو مشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام کرادیں تاکہ قریش کے لئے آپ سے لڑنے کا جواز نکل آئے۔ حرم کی زیارت سے روکنایوں بھی عرب روایات کے خلاف تھا۔ مزید یہ کہ یہ ذوقude کا مہینہ تھا جو عربوں میں حرام مہینہ شمار ہوتا تھا۔ اس میں جنگ ناجائز تھی۔ اس لئے اہل مکہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جاریت کی ذمہ داری ڈال کر ان سے جنگ کی جائے۔ مسلمان اس وقت کم تعداد میں تھے۔ ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا۔ وہ مرکز مدنیہ سے ڈھائی سو میل دور اور دشمن کے مرکز (مکہ) کی عین سرحد پر تھے۔ قریش کے لئے بہترین موقع تھا کہ آپ کے اوپر بھر پورا کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پورا کر سکیں۔ اسی لئے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح آپ مشتعل ہو کر لڑ پڑیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرارت کو نظر انداز کرتے رہے اور کسی طرح اشتغال کی نوبت نہ آنے دی۔

یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو یہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کوتوہین آمیز شرائط پر راضی کر لیا ہے۔ قرآن میں جب اس معاہدہ کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح میں ہے تو صحابہ نے کہا: کیا یہ فتح ہے۔ ایک مسلمان نے کہا: یہ کسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دئے گئے۔ ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جاسکے۔ خدا کے رسول کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا۔ ہمارے مظلوم بھائی (ابو جندل اور ابو بصیر) کو اس صلح کے تحت ظالموں کے حوالے کر دیا گیا۔

وغیرہ۔ مگر اسی ذلت آمیز صلح کے ذریعہ خدا نے فتح عظیم کا دروازہ کھول دیا۔

یہ معاهدہ بظاہر دشمن کے آگے جھک جانا تھا۔ مگر حقیقتہ وہ اپنے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا وقہ حاصل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یقین دہانی لے لی۔ یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے تبلیغ و تعمیر کا کام رکا ہوا تھا۔ آپؐ نے حدیبیہ سے لوٹ کو فوراً دعوت و تبلیغ کا کام عرب اور اطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا۔ ابتدائی زمین پہلے تیار ہو چکی تھی۔ پر امن حالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مامون ہو کر آپؐ نے خبر کے یہودیوں کے خلاف کا رروائی کی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیمانہ پر ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے صرف دوسال بعد اسلام اتنا طاقت ور ہو گیا کہ قریش نے لڑے بھڑے بغیر تھیار ڈال دئے جس مکہ سے تو ہیں آمیز واپسی پر اپنے کو راضی کر لیا گیا تھا اسی مکہ میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلہ کا راستہ نکل آیا۔

آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی ناخوش گواربات پیش آئے تو فوراً بچھرا ٹھنتے ہیں اور اس سے لڑ جاتے ہیں۔ اور جب بے فائدہ لڑائی کے نقصانات بتائے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم خود سے نہیں لڑے۔ ہمارے خلاف سازش کر کے ہم کو جنگ میں ال جھایا گیا۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ نہ لڑنا حقیقتہ اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی لڑنے نہ آئے تو آپؐ نہ لڑیں۔ نہ لڑنا یہ ہے کہ لوگ لڑنے آئیں پھر بھی آپؐ ان سے نہ لڑیں۔ لوگ آپؐ کو اشتغال دلانیں مگر آپؐ مشتعل نہ ہوں۔ لوگ آپؐ کے خلاف سازشیں کریں مگر اپنی خاموش تدبیروں

سے آپ ان کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی لئے ہوئے تب بھی آپ ان کی دشمنی کو عمل میں آنے نہ دیں۔

زندگی کا اصل راز حرف سے لڑنا نہیں ہے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑائی سے نجک کراپنے آپ گوا ننا طاقت ور بنا یا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دبدبہ سے حرفی ہتھیار ڈال دے۔ جو لوگ مشتعل ہو کر لڑنا جانیں اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانیں ان کے لئے یہاں صرف بر بادی کا انجام ہے۔ ناممکن ہے کہ خدا کی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جو کامیابی پیغمبر نے نہ لکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی اس کو ہم لکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ تم رسول خدا کے امتی ہیں اور آپ ضرور خدا کے یہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔

فتح کمکے بعد عرب کے قبائل کثرت سے مسلمان ہوئے۔ مگر یہ لوگ زیادہ تر اسلام کا سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ذہنی و فکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی لوگوں میں آیا تھا۔ اسلام کے بعض احکام، خاص طور پر زکوٰۃ ان کی آزادانہ زندگی کے لئے ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں ان کے درمیان ایسے لیڈر ابھرے جو اسلام کا ایسا تصور پیش کرتے تھے جس میں زکوٰۃ کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ان لیڈروں، مثلاً اسود اور مسیلمہ نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تاکہ جس الہامی زبان میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے اسی الہامی زبان میں اس کی فرضیت کو ساقط کیا جاسکے۔ اس قسم کی ”نبوت“ ان قبائل کی پسند کے عین مطابق ثابت ہوئی جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر ایک بوجھ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو ق در جو ق ان جھوٹے مدعا بن نبوت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔

کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان لوگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور یہ فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ مکہ، مدینہ اور طائف کے سوا تمام عرب میں بیشتر لوگ باغی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی پھیلنے لگیں کہ یہ لوگ منظم ہو کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ میں جو کام کرنے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے مقابلہ کے لئے شام کی طرف جائے جہاں اس سے پہلے موتو کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا۔ یہ لشکر روانہ ہو کر ابھی مدینہ کے باہر پہنچا تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اور وہ خلیفہ اول کے حکم کے انتظار میں وہیں ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اس لشکر کو آگے روانہ کرنا چاہا تو بیشتر صحابہ نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سارا عرب باغی ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت مدینہ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں لشکر کو مدینہ کے وفاع کے لئے بیہاں رکھنا چاہئے نہ کہ ایسے نازک موقع پر اس کو دور بھیج دیا جائے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کو ماننے سے شدت کے ساتھ انکار کر دیا۔

تمام بڑے بڑے صحابہ اسامہ بن زید کی سرداری میں مدینہ کے باہر جمع نہیں۔ اس وقت لوگوں کے اندر دو باتیں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھیں۔ ایک یہ کہ اتنے نازک موقع پر اسلامی لشکر کا مدینہ سے دور جانا حکمت کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اسامہ بن زید ایک غلام کے لڑکے تھے اس لئے بہت سے لوگوں کو ان کی سرداری پر انقباض تھا۔ نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف سترہ سال کے نوجوان ہیں اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی معمقریشی کو سردار مقرر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو۔ عمر فاروقؓ بھی ابتداءً اس لشکر میں شامل تھے، وہ لوگوں کا پیغام لے کر حضرت ابو بکرؓ

کے پاس روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے پہلی بات سب کرفرمایا: لشکر کی روانگی کے بعد اگر میں مدینہ میں تھارہ جاؤں اور درندے مجھ کو چاڑھائیں تو بھی میں ایک ایسے لشکر کی روانگی کو روک نہیں سکتا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو۔ دوسرے پیغام کو سن کر آپؐ نے فرمایا ”کیا ان کے دلوں میں ابھی تک جاہلی فخر و تبرکہ اثر باقی ہے؟ یہ کہہ کر آپؐ اٹھے اور لشکر کو خود رخصت کرنے کے لئے پیدل چل کر لشکر گاہ تک پہنچے۔ اسامہ بن زید کو ان کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، جب اسامہ اپنی سواری پر چلے تو آپؐ ان کے ساتھ ساتھ با تین کرتے ہوئے چلنے لگے۔ اسامہ نے کہا کہ یا تو آپؐ بھی سوار ہو جائیں، یا میں سواری سے اتر جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم کو سواری سے اتنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلیفہ اول کی طرف سے گویا لوگوں کے سوال کا عملی جواب تھا۔ خلیفہ کو اسامہ کی رکاب میں چلتے دیکھ کر سب کا انقباض ختم ہو گیا۔

اسامہ کی سر کردگی میں صحابہ کا لشکر روی علاقہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خبر یہ چاروں طرف پھیل گئیں۔ بہت سے مخالفین کے لئے یہ مسلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مدینہ والوں کے پاس کافی طاقت ہو گی جبھی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑا لشکر دار اسلامیت سے دور بکھر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینہ پر اقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہئے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر اقدام کرنا زیادہ مناسب ہو گا۔

اسامہ بن زیدؓ کے لشکر کو رومیوں کے خلاف مہم میں زبردست کامیابی ہوئی۔ اس مہم میں ان کو چالیس دن لگے۔ اسامہ بن زیدؓ اس مہم کی قیادت کے لئے موزوں ترین شخص تھے۔ کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہؓ کو رومیوں نے موت کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا۔

اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لشکر انتہائی بے جگری سے لڑا اور رو میوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ کافی قیدی اور مال غیمت لے کر مدینہ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اور نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر لیا گیا۔ رسول کی پیروی ان کے لئے دشمنوں پر غالبہ کا ذریعہ بن گئی۔

10

بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لئے ایک دستہ حضرت عمر و بن العاصؓ کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمر و بن العاصؓ جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کئے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ آپؐ نے مہاجرین کو بلا یا اور دوسرا دمیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپؐ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو کو اس دستہ کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حضرت عمر و بن العاصؓ سے جا کر مل جائیں۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر و بن العاصؓ نے کہا: میں تم سب کا امیر ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لئے لکھا تھا تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لئے بھیج گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہؓ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ انہوں نے حضرت عمر و بن العاصؓ سے کہا: تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہؓ ہمارے امیر ہیں (بل انت امیر اصحابک و ابو عبیدۃ امیر المهاجرین) حضرت عمر و بن العاصؓ اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت

امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لئے بھیجے گئے ہو (انما انتم امدات
بکم فانا القائد) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ^{رض} نے جب یہ حال دیکھا تو کہا:
تعلم یا عمرو، ان آخر ما عهد الٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن
قال: اذا قدمت علی صاحبک فتطا وعا دلا تختلفا، وانک واللہ ان عصیتني
لا طعتك

ایے عمر و اتم پر واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو
آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو دنوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام
کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا۔ پس خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تمہاری
اطاعت کروں گا۔

راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ^{رض} نے امارت عمر و بن العاص ^{رض} کے حوالے کر دی
اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ (فصل م Abu Ubiedah al-Amara لعمر و
بن العاص) البدایہ والنہایہ جلد 4

اگر دنوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم نہ ہوتا اور جو طاقت دشمن سے مقابلہ
کے لئے بھیجی گئی تھی وہ آپ س میں لڑ کر فنا ہو جاتی۔ ایسے اختلافی موقع پر ایک شخص کا جھکتا
پوری جماعت کو طاقت ور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو
جائی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری ابراہیم ^{رض} تھے۔ وہ ماریہ قبطیہ
کے بطن سے 9ھ میں پیدا ہوئے تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ابراہیم ^{رض} کی وفات ہو گئی۔ جس دن
ان کی وفات ہوئی اس دن سورج گر ہن تھا۔ محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق یہ 29 شوال

10ھ کی تاریخ تھی۔ قدیم زمانہ میں گرہن کے متعلق طرح طرح کے تو ہماقی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں میں سے یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ ابراہیمؐ کی وفات کے دن جب سورج گرہن پڑا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپؐ نے بتایا کہ موت کے واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابو موسیٰ اشعریؐ کی روایت کے مطابق آپؐ نے فرمایا:

هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرِسِّلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٌ وَلَا حَيَاةٌ وَلَكِنْ يَحْوِفُ
اللَّهُ بِهَا عِبَادَةٌ فِي ذَرَأِيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذَكِيرَةٍ وَدُعَا عَائِهٗ وَ
اسْتَغْفَارِهِ (متفرق عليه)

یہ شانیاں جو اللہ بھیجا ہے وہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے بلکہ ان کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرata ہے۔ پس جب تم اس قسم کی چیز دیکھو تو ڈر کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اس کو پکارو اور اس سے مغفرت مانگو۔

سورج گرہن یا چاند گرہن محض اتفاقاً نہیں ہوتے بلکہ معین فلکیاتی قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں نہایت محکم قدرتی اصول کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ اس حرکت کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین، سورج اور چاند کے درمیان آجائی ہے، اس طرح سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند، زمین اور سورج کے درمیان آجائتا ہے، اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور وہ صورت پیش آتی ہے جس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ گویا سورج گرہن کا مطلب سورج کا چاند کے اوٹ میں آ جانا ہے اور چاند گرہن یہ ہے کہ زمین کے اوٹ میں آ جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً 16 فروری 1980 کو جو سورج گرہن پڑا وہ بہت پہلے سے

فلکیات دانوں کو معلوم تھا اور نہایت صحت کے ساتھ اس کے اوقات متعین کئے جا چکے تھے اور انہیں متعین اوقات کے مطابق وہ شروع اور ختم ہوا۔ اس طرح کے گرہن برابر ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ ان کے دکھائی دینے کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہیں مکمل گرہن دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزئی گرہن۔ مکمل سورج گرہن کے وقت سورج کی روشنی تقریباً ایک ہزار گناہم ہو جاتی ہے۔

سنن یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جائے۔ یہ نماز اللہ کے آگے اپنے عجز اور بے بُسی کا اظہار ہوتا ہے۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ نے ہمارے لئے روشنی اور حرارت کا مستقل انتظام کیا ہے۔ سورج گرہن یہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ جس خدا نے اس کو روشن کیا ہے وہی اس کو ماند بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نعمت کو جب چاہے واپس لے لے۔ اس لئے جب گرہن ہو تو آدمی کو چاہئے کہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے مقابلہ میں اپنی محتاجی کا تصور کر کے اللہ کے آگے گر پڑے۔ وہ پکارا ہے کہ ”خدا یا اگر تو سورج کو بمحاجدے تو کوئی اس کو جلانے والا نہیں۔ اگر تو ہم کو روشنی اور حرارت سے محروم کر دے تو کوئی ہم کو روشنی اور حرارت دینے والا نہیں۔“

”گرہن“ کا یہ معاملہ صرف چاند اور سورج کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس قسم کے واقعات اللہ کی دوسری نعمتوں کے ساتھ بھی مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ صحت کے ساتھ یہاں کو یا جسم کا گرہن ہے اور اچھے موسم کے ساتھ خراب موسم گو یا فضا کا گرہن۔ اس طرح ایک ملی ہوئی نعمت کو تھوڑی دیر کے لئے روک کر اس کے نعمت ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ یہ سوچے کہ اگر اللہ اس کو مستقل طور پر چھین لے تو آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ انسان کو ڈرنے والا بنانے کے لئے جو اہتمام کیے گئے ہیں

ان میں سے ایک قسم کا اہتمام وہ ہے جس کو ”گرہن“ کہا جاتا ہے۔ زمین مسلسل حرکت میں ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے گولے کا اندر وہی حصہ نہایت گرم پگھلے ہوئے مادہ کی صورت میں ہے جو ہر وقت کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی سطح بالکل ٹھہری ہوئی حالت میں ہے۔ یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر عام حالت میں ہم کو اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے کبھی کبھی بھونچاں کے ذریعہ زمین کی اوپری سطح کو ہلا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ خدا نے اس کے لئے تباہ کن لاوا کو اس طرح بند کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو انسان کا کیا حال ہو۔ اسی طرح بارش ایک عجیب و غریب نعمت ہے۔ سورج کے اثر سے پانی کے بخارات کا اٹھ کر اوپر جانا، ان کا بد لیوں کی صورت میں جمع ہونا اور پھر ہوا کے ذریعہ جگہ جگہ باراں رحمت بن کر نازل ہونا اور پھر زمین کو سرسبز و شاداب کرنا، یہ سب رحمت خداوندی کے عجیب و غریب کرشے ہیں جو وہ مستقل طور پر اپنے بندوں کے لئے کرتا رہتا ہے۔ مگر خود بخود ملتے رہنے کی وجہ سے آدمی اس نعمت کی قدر بھول جاتا ہے اس لئے کبھی زمین پر خشک سالی پیدا کی جاتی ہے تاکہ آدمی کا شعور جاگے اور وہ خدا کی نعمت کی قدر کر سکے۔ ہوا کیسی عجیب و غریب نعمت ہے۔ ہوا ہر آن ہم کوتاہ آسیں جن پہنچا رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کہ جھونکے خدائی پیکھے کی طرح ہم کو فرحت جنتے رہتے ہیں۔ ہوا بارش کے نظام کو درست کرتی ہے۔ ہوا کے بے شمار فائدے ہیں۔ مگر جس طرح وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی اسی طرح اس کی اہمیت بھی ہمارے شعور سے اوچھل ہو جاتی ہے۔ اس لئے کبھی کبھی ہوا کو طوفان بنا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ ہوا کی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لئے کیسا جیران کن انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک ”گرہن“ ہے اور وہ اس لئے آتا ہے کہ آدمی کے اندر نعمت کے احساس کو جگائے۔

قرآن (واقعہ) میں ارشاد ہوا ہے: ”اس چیز کو دیکھو جس کو تم بوتے ہو تم اس سے کھیتی

اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو حکمتی بنانے والے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنانے کر کر کھدیں پھر تم بتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم قرضدار ہو گئے۔ بلکہ ہم تم بالکل محروم ہو گئے۔ پانی کو دیکھو جس کو تم پیتے ہو۔ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے۔ آگ کو دیکھو جس کو تم جلاتے ہو۔ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے۔ ہم نے ہی اس کو بنایا ہے یا دلانے کے لئے اور تمہارے برتنے کے لئے۔ پس اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے۔ ”ہماری پوری زندگی ایسی خدائی نعمتوں کے اوپر زبرہ ہے جو کسی بھی لمحہ واپس لی جاسکتی ہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بننے تاکہ وہ اپنی نعمتوں سے کبھی اس کو محروم نہ کرے۔ یہ شکر گزاری ہی آدمی کو خدا کی نعمتوں کا مستحق بناتی ہے، موجودہ دنیا میں بھی اور موت کے بعد آنے والی آخرت میں بھی۔

12

احمد اور طبرانی نے حضرت عائشہؓ کی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔ بعد کے زمانہ میں حضرت عائشہؓ نے ایک شخص کو وہ احوال بتائے جو بھرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اہل خاندان پر گزرے تھے۔ انہوں نے ایک رات ٹھوٹ کر کام کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فقلت يا ام المؤمنین على مصباح . قالـت لو كان عندنا دهن غير مصباح لا كلناه (الترغیب والترہیب، جلد ۵)

راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہؓ سے چراغ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو چراغ جلانا تو در کنارہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی جاتے۔

ہجرت کے بعد جس بستی کو مدینۃ الرسول اور مدینۃ طیبہ کا لقب ملا وہاں اس وقت ایک بھی پکا مکان نہ تھا۔ مسجد نبوی بس ایک بڑا سا چھپر تھی جس کو چاروں طرف سے مٹی اور کھجور کے پتوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ مسجد میں رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسجد نبوی میں ہجرت کے نویں سال چراغ جلا یا گیا ہے۔ پہلا شخص جس نے مدینۃ کی مسجد نبوی میں رات کو چراغ جلا یا وہ تمیم داری ہے۔ تمیم داری نے ۹ ھنر میں اسلام قبول کیا ہے اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریباً سارے عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔

جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لئے چراغ نہ تھے اور مسجد میں رات کے وقت اندھیرا رہتا تھا تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت و غلبہ حاصل تھا۔ آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں۔ ان کی مسجدیں جدید طرز کے قبموں سے جگہ گاری ہیں مگر دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں، مسلمانوں کو کہیں عزت حاصل نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت و غلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لئے اصل اہمیت انسان کی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں سب کچھ ہے مگر وہی چیز نہیں جس کو ”انسان کہا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا مردہ روحوں کا ایک عظیم قبرستان معلوم ہوتی ہے جہاں روشنیوں کی رونقیں اور درود یوار کی عظمتیں تو بہت ہیں مگر وہ انسان نہیں جو خدا کے لئے تڑپے، جو سچائی کے آگے جھک جائے، جو آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو قربان کر سکے، جو اپنی خواہشوں کو برتر اصولوں کے تابع کر دے۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے وہ انسان درکار ہیں جو کو عظمت خداوندی کے احساس نے پست کر رکھا ہو، جن کا خوف آخرت ان سے ان کی اکٹھیں لے۔ اور یہی وہ انسان ہیں جو اسلام کے بھرے ہوئے شان وار پنڈال میں آج کہیں موجود نہیں۔

قدیم عرب کے شمال اور جنوب کے زرخیز حصے اس زمانہ کی دو بڑی شہنشاہیوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے قبضہ میں تھے۔ شمال میں عمارت غساسہ اور امارت بصری

تھی۔ یہ دونوں بازنطینی سلطنت رومیوں کے ماتحت تھیں اور یہاں ان کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ رومی اثرات کے ماتحت یہاں کی اکثر آبادی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی، عرب کے جنوب میں امارت بحرین، امارت عمان، امارت یمامہ تھی۔ یہ ریاستیں ساسانی سلطنت (ایرانیوں) کے ماتحت تھیں اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں میں محبوبیت پھیلی ہوئی تھی۔

6ھ میں جب حدیبیہ میں قریش سے دس سال کا ناجگ معاهدہ ہوا اور حالات پر امن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنتوں کو دعویٰ مراسلے بھیجنے شروع کئے اس سلسلے میں ایک مراسلہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شجاع بن دھب آپؐ کا مراسلہ لے کر اس کے پاس گئے۔ اس مراسلہ میں یہ بھی تھا کہ اللہ پر ایمان لا و تمہاری حکومت باقی رہے گی (یبق لملک) اس نے مکتوب نبوی میں یہ جملہ پڑھا تو اس کو غصہ آگیا۔ اس نے خط کوز میں پر چینک دیا اور کہا: میری حکومت مجھ سے کون چھین سکتا ہے (من نیز عملکی منی)

حاکم بصری شرجیل بن عمر و غسانی نے اس سے بھی زیادہ بیہودہ سلوک کیا۔ اس رومی گورنر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی آپؐ کا خط لے کر گئے تھے، وہ سرحد شام پر قصبه موتہ میں داخل ہوئے تھے کہ حاکم بصری کے اشارہ پر ایک اعرابی نے آپؐ کے سفیر کو قتل کر دیا۔

بین اقوامی روایات کے مطابق یہ واقعہ ایک ملک پر دوسرا ملک کی جاریت کے ہم معنی تھا۔ مختلف قرآنی یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ شام کی فوجیں پیش قدی کر کے مدینہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ رومی شہنشاہیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہوا اور ترقی کرے۔

حارث بن عمیر کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینا

ضروری سمجھا۔ آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر موضع حرق میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ تین ہزار کی تعداد میں اسلامی لشکر اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس لشکر پر زید بن حارثہ کو سردار مقرر کیا اور ضروری نصیحتیں کرنے کے بعد ان کو شام کی طرف روانہ کیا۔

اسلامی لشکر نے معان (شام) پہنچ کر قیام کیا۔ دوسری طرف حاکم بصری بھی جنگ کے لئے تیار ہو گیا۔ اس کی حوصلہ افزائی اس واقعہ سے بھی ہوئی کہ اتفاق سے ہر قل اُنھیں دنوں آب (بلقاء) میں آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ مسلح فوج تھی۔ نیز اس علاقے کے عیسائی قبائل نجم، جدام، قین، بھراء، بلی بھی مسیحی حیثیت کے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بلی کے سردار مالک بن زافلہ کی قیادت میں لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس طرح شامی محاذ پر ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی۔

یہ جنگ جو جمادی الاولی 8ھ میں ہوئی، اس میں زید بن حارثہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ بھی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا جھنڈا اگر جانے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس وقت لشکر اسلام کے ایک سپاہی ثابت بن اقرم نے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور بلند آواز سے کہا: ”مسلمانو! کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر اتفاق کرلو“

مسلمان فوجیوں کی طرف سے آواز آئی (ضینا بک (هم تمہاری سرداری پر راضی ہیں) ثابت بن اقرم نے جواب دیا: ما ان بفاععل فاتفاقوا علی خالد بن الولید (میں یہ کام نہ کر سکوں گا تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا سردار بنالو) اب آواز بلند ہوئی: ہم کو خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور روی لشکر پر حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔

تاہم یہ جنگ فیصلہ کن طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ رومیوں کی مدد سے غسانہ مدینہ پر چڑھ آئیں اور اس نومولود ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ذی الحج

5ھ میں بوقریط کے خاتمہ کے بعد جب مدینہ میں بعض معاشری مسائل پیدا ہوئے اور ازدواج رسول نے اضافہ نقہ کا مطالبہ کی تو آپؐ کو بہت رنج ہوا اور آپؐ نے ایک مہینہ تک گھر کے اندر رہنے کی قسم کھالی۔ اس سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی عمرؓ فاروق سے ملے اور ان سے کہا: ”کچھ سننا آپؐ نے“ تو عمرؓ فاروق کی زبان سے فوراً نکلا: ”کیا غسانہ آگئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں غسانیوں کی طرف سے مدینے کے لئے کتنا خطرہ لاحق تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلہ کا شدید احساس تھا۔ چنانچہ اپنی عمر کے آخری ایام میں جن امور کے لئے آپؐ نے شدت سے اہتمام کیا، ان میں غسانہ یا بالفاظ دیگر روایوں سے مقابلہ کے لئے فوج کی تیاری بھی تھی۔ آپؐ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج ترتیب دی۔ اس فوج میں اگرچہ ابو بکرؓ و عمرؓ جیسے بڑے اصحاب تھے مگر آپؐ نے انتہائی داشمندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ اسامہؓ نہ صرف ایک بہادر نوجوان تھے بلکہ ان کے دل میں روایوں سے انتقام کا شدید جز بھی موجز ن تھا۔ کیونکہ موت کی جنگ میں روایوں نے ان کے والد زید بن حارثہ کو قتل کیا تھا۔

تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ عین وقت پر آپؐ کے اوپر مرض الموت کا غلبہ ہو گیا۔ آپؐ کی وفات کے بعد صدیق اکبرؓ نے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا۔

یہ روانگی بھی اسلامی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں۔ لوگوں نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ مرکز اسلام خطرہ میں پڑ گیا ہے اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس لشکر کی روانگی کو ملتی کر دیا جائے مگر صدیق اکبر کا یہ جواب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا: ”اگر مجھ کو یقین ہو کہ لشکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ نہ پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی

میں اُس لشکر کی روائی کو ملتی نہیں کر سکتا جس کو خود رسول اللہ نے ترتیب دیا ہو، صدیق اکبر کی یہ ایمانی جرات کام آئی۔ اسامہ کا لشکر نہ صرف رومیوں کے مقابلہ میں کامیاب ہوا بلکہ رومی شہنشاہیت کے مقابلہ میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی حوصلہ شکنی کی اور نسبتاً آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے۔

اس واقعہ میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی، عرب قبائل ہمیشہ سے آپ س میں لڑتے چلے آ رہے تھے شدید اندریشہ تھا کہ اپنی قوتوں کے اظہار کا دوسرا میدان نہ پا کروہ دوبارہ آپ س میں لڑنے لگیں گے۔ نبی نے اپنی وفات کے وقت عرب طاقت کو رومی شہنشاہیت سے مقاصد مکار کے اس کا جواب فراہم کر دیا۔ اب عربوں کی جنگ بوفطرت کے لئے ایک بہترین میدان مل چکا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے ہم وطنوں کی قتل دعا زنگری کے سوا کچھ نہ جانتے تھے انہوں نے ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں ایک پوری دنیا کو فتح کر دالا۔

جان بگیٹ گلب پاشا نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف محمد میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہو: ”عرب نا معلوم زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ وجدل میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تھے۔ یہ جنگ وجدل کسی خاص سبب کا نتیجہ نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ان کی طرز زندگی میں داخل تھی۔ اب جبکہ وہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے لڑے بھڑے سے روک دیئے گئے تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ فوجی ذہنیت کے قبائلی آدمیوں کو ہمیشہ کے لئے پر امن زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے؟ پیغمبر اسلام نے خود اس مہم کو وانہ کر کے جس نے موته میں شکست کھائی تھی اس سوال کا حل پیش کر دیا تھا۔

634ء کے سرما میں تین عرب کالموں نے فلسطین اور شام پر حملہ کر دیا اسی اثناء میں مشرقی عرب کے قبیلوں نے جو حیرہ کی لمحی ریاست کی ضبطی کے بعد سے ایران کے دشمن بنے ہوئے تھے، فرات کی طرف پیش قدی کر کے حیرہ پر قبضہ کر لیا۔ 26 اگست 636ء کو بازنطینی (رومی) قوت نے یرموق کے میدان میں مکمل شکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ طبریہ تک

عربوں کے قبضہ میں آگیا۔ فروری 637ء میں ایرانی فوج قادسیہ کے مقام پر جو حیرہ سے چند میل کے فاصلہ پر تھا مکمل طور پر تباہ کر دی گئی اور قدیم عراق بشمول ایرانی دارالسلطنت مدائن جود جملہ کے جنوب میں موجودہ بغداد کے قریب واقع تھا، عربوں کے زیر تسلط آگیا۔ 640ء میں مصر پر حملہ ہوا اور ایک بار پھر بازنطینی حکومت شکست یاب ہوئی اور ستمبر 642ء تک پورے مصر پر عرب قبضہ مکمل ہو گیا۔ اسی سال پچھی ایرانی فوج نہاوند کے مقام پر تباہ کر دی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور پر خاتمه ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے بعد پہلے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نے، انتہائی نازک حالات کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو رو میوں کی طرف بھیجا۔ یہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لئے ایک عظیم سبق تھا: مسلمانوں کیلئے طاقت آزمائی کا میدان خارجی دنیا ہے نہ کہ داخلی دنیا۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ اہم ترین سبق بعد کے زمانہ میں مسلمان بھول گئے۔ خاص طور پر موجودہ زمانہ میں تو یہ حال ہے کہ مسلم ممالک دو گروہوں (ترقی پسند اور قدامت پسند) میں بٹ کر ایک دوسرے کے حریف بننے ہوئے ہیں۔ ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو ”فتح“ کرنے میں مشغول ہیں، مسلم جماعتیں خود اپنے ملکوں کی حکومتوں سے نبردا آزمائیں۔ باہر کے حریفوں سے مقابلہ کے لئے ہر ایک عاجز ہے اور اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لئے ہر ایک بہادر بنا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اسلام کی توسعی و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تجھ نہ کرنا چاہئے۔

مشہور روایات کے مطابق، کعبہ کی تعمیر چار بار ہوئی ہے۔ پہلی بار جب کہ حضرت ابراہیمؐ نے اپنے صاحب زادہ اُسماعیلؐ کی مدد سے اسے بنایا۔ دوسرا بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جب کہ بارش کی کثرت سے وہ گر گیا تھا۔ اس تعمیر ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم بھی قبل از نبوت شریک تھے۔ قریش نے اس کے طول میں چھ ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جہاں اب حطیم واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تمہاری قوم اگر جلد ہی جاہلیت سے نکلی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر دو بارہ بنا ابراہیم پر تعمیر کر دیتا اور اس کے دو دروازے بنادیتا۔ ایک پورب میں، دوسرا پھمیں (جامع الاصول، جز 9 صفحہ 297)

تیسرا تعمیر 36ھ میں یزید بن معاویہ کے زمانہ میں ہوئی۔ یزید بن معاویہ کی شامی فوج نے حصین بن نمیر کی قیادت میں عبد اللہ بن الزبیر کا مکہ میں محاصرہ کیا اور کعبہ پر منجذب سے پھر پھینکنے جس کی وجہ سے کعبہ میں آگ لگ گئی اور وہ گر گیا۔ اس کے بعد عبد اللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دو بارہ بنا ابراہیم پر تعمیر کرایا اور اس میں دو دروازے کھول دئے کہ آدمی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرا دروازے سے باہر آئے۔ عبد اللہ بن زبیر کے قتل کے بعد جاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو صورت حال سے باخبر کیا۔ عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ہم عبد اللہ بن زبیر کے عمل کے پابند نہیں ہیں۔ تم کعبہ کو دو بارہ سابقہ بنیاد پر تعمیر کراؤ اور وہ دوسرے دروازہ بند کر دو جو عبد اللہ بن زبیر نے کھولا ہے۔ یہ کعبہ کی پوچھی تعمیر تھی (جامع الاصول، جز 9 صفحہ 297)

خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو پھر سے اس طرح تعمیر کرائے جس طرح عبد اللہ بن زبیر نے تعمیر کرایا تھا۔ اس وقت امام مالک بن انس نے خلیفہ سے کہا:

اَنْشِدَكُ اللَّهُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ لَا تَجْعَلْ هَذَا الْبَيْتَ مَلْعَبَةً لِلْمَلُوكِ
بَعْدَكَ، لَا يَشَاءُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَنْ يَغْيِرَهُ اَلَا غَيْرَهُ۔ فَتَذَهَّبُ هَيْبَتُهُ مِنْ قُلُوبِ
النَّاسِ فَصَرَفُهُ عَنْ رَأْيِهِ (فتح الباری)

اے امیر المؤمنین، میں آپ گو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس گھر کو اپنے بعد بادشاہوں کا

کھیل نہ بنادیجئے کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر و تبدل کرتا رہے۔ پس اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے۔ اس طرح امام مالک نے خلیفہ ہارون رشید کو اس کی رائے پر عمل کرنے سے روک دیا۔

روایات کو توڑے بغیر خاموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طریق کا رکا ایک اہم اصول ہے۔ سماجی زندگی میں روایات کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ بیشتر لوگ روایات کے سہارے چلتے ہیں۔ روایات اگر اچانک توڑ دی جائیں تو عام لوگوں کے لئے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔

کسی سماج میں روایات ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں۔ کسی نے، بجا طور پر کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت بنانے کے لئے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے:

It requires a lot of history to make a little tradition

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر مدرسی حکمت کے تحت اصلاح لے آتا ہے نہ کہ پر شور تبدیلیوں کے طریقے سے۔

سننِ رسول

سننِ عربی زبان میں طریقہ کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد خدا کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو رسول کے ذریعہ انسان کو بتایا گیا۔ قرآن میں یہ لفاظ شریعت خداوندی کے تمام طریقوں کے لئے آیا ہے۔ اسلامی معاشرت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

**يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّةَ النَّبِيِّنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنْهَا
عَلَيْكُمْ طَوَّالَهُ عَلِيهِمْ حَكِيمٌ (نساء: 62)**

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تم کو ان لوگوں کا طریقہ بتادے جو تم سے پہلے تھے اور تمہارے اوپر توجہ کرے اور اللہ جانے والا ہے۔

اللہ نے جب دنیا بنائی تو اسی وقت یہ بھی طے کر دیا کہ اس دنیا کی کارکردگی کے لئے اس کا پسندیدہ طریقہ کیا ہوگا۔ اس طریقہ کو خدا نے بقیہ دنیا میں بزور اس طرح نافذ کر دیا کہ کوئی چیز اس سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتی۔ مگر انسان کو خدا نے اس کا پابند نہیں کیا۔ انسان کو سوچنے اور کرنے کی آزادی دے کر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی آزاد مرضی سے میرے پسندیدہ طریقہ پر چلیں گے ان کے لئے میرے یہاں جنت کے باغ ہیں اور جو لوگ اس سے اخراج کریں گے ان کے لئے دوزخ کی آگ۔

خدا کے اسی پسندیدہ طریقہ کو انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے خدا کے رسول آئے۔ رسول نے زبانی بھی بتایا اور برتر کر عملًا بھی دکھادیا کہ خدا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسول کی سنن کہا جاتا ہے۔ رسول کی سنن کا تعلق مساواک اور غسل جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیر اور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات سے بھی۔ جو لوگ اللہ کے یہاں اس کے مقبول بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں رسول کی سنن کی پیروی کریں۔ اپنی

زندگی کے کسی معاملہ کو اس سے آزاد غیر متعلق نہ سمجھیں۔

رسول کی انفرادی سنتوں میں سے اہم ترین سنت دعوت الی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گھنچ و شام سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی تھی وہ یہ کہ آپ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف لے آئیں۔ اس معاملہ میں آپ اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شاید تم اس غم میں اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ (لعلک باخ نفسک ان لا یکونوا ممنین) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ مجھ میں نہیں (فمن رغب عن سنتي فليس مني) اس حدیث کا تعلق جس طرح نکاح اور اس قسم کے دوسرے معاملات سے ہے، ٹھیک اسی طرح دعوت الی اللہ سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والا وہی ہے جو دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا نے کے معاملہ میں بھی آپ کے طریقہ کی پیروی کرے۔

رسول کی اجتماعی سنتوں میں سے ایک سنت تدریج یا حقیقت پسندی ہے۔ یعنی نظریاتی معیاروں کے نفاذ میں حقیقی حالات و اتفاقات کی رعایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اصلاح کے تمام معاملات میں ہمیشہ تدریجی حکمت کے مطابق عمل کیا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ انقلابی (Revolutionary) (نہیں تھا بلکہ ارتقائی (Evolutionary) تھا۔ حضرت عائشہؓ ایک روایت میں اسی بات کو اس طرح بتاتی ہیں:

انما نزل أول مانزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثأب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول مانزل لاتشر بوا الخمر لقالو! لاندع الخمر ابدا ولو نزل لاتزنوا قالوا لاندع الزفا ابدا (بخاری باب تالیف القرآن)

قرآن میں سب سے پہلے مفصل سورتیں اتریں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔

یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہو گئے تو حرام و حلال کی آئتیں اتریں۔ اگر پہلے ہی یہ اترتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے۔ اور اگر پہلے ہی اترتا کہ زنانہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی زنانہ چھوڑیں گے۔

رمضان 8ھ میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد عرب کا مرکز قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آگیا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے متعلق شرعی احکام کا فوری نفاذ نہیں فرمایا۔ بلکہ جو کچھ کرنا تھا تدریج کے ساتھ کیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی اقتدار قائم ہونے کے باوجود 8ھ میں جو حج ہوا وہ بدستور قدیم جاہلی رواج کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد 9ھ میں اسلامی دور کا دوسرا حج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے طریقہ پرجی کیا اور مشرکین نے اپنے طریقہ پر۔ پھر جب 10ھ میں تیسرا حج آیا تو آپ کے حکم کے مطابق اس کو خالص اسلامی طریقہ پر انجام دیا گیا۔ یہی دور اسلامی کا تیسرا حج ہے جو اسلامی تاریخ میں جمۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔

طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مشرکین بیت اللہ میں آئیں اور اپنے مشرکا نہ رواج کے مطابق حج کے مراسم ادا کریں۔ مگر اقتدار حاصل ہونے کے باوجود آپ نے شریعت کے نفاذ میں جلدی نہیں کی۔ فتح مکہ کے بعد دو سال تک آپ حج کی ادائیگی کے لئے مکہ نہیں گئے۔ حج کا موسم آیا تو آپ نے فرمایا: مشرکین بیت اللہ میں آئیں گے اور ننگے ہو کر حج کریں گے۔ مجھے پسند نہیں کہ میں حج کروں جب تک یہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں (انما یحضر المشرکون فی طوفون عراة فلا احب ان حج حتی لا یکون ذلك: تفسیر ابن کثیر، سورہ توبہ)

فتح مکہ کے بعد پہلے سال (8ھ) میں مسلمانوں نے حج کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرے سال (9ھ) میں آپ نے مسلمان حاجیوں کا قافلہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں مدینہ سے مکہ روانہ کیا۔ اس کے بعد قرآن میں یہ حکم اترتا کہ

بشرکین خس ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں (توبہ: 28) چنانچہ آپؐ نے حضرت علی کو مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ حج کے اجتماع میں گھوم گھوم کر یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لئے نہ آئے اور اب سے کوئی شخص ننگی حالت میں کعبہ کا طواف نہ کرے (لا یحج بعدالعام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان) اس طرح تیرسے سال جب دھیرے شرک کا خاتمه کر دیا گیا اس وقت آپؐ نے مکہ جا کر حج ادا فرمایا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج (جنة الوداع) تھا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذ میں کس طرح تدریجی حکمت کا لحاظ فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اقتدار پر قبضہ ملنے کے باوجود آپؐ نے تدریج کے اصول کو تذکر نہیں کیا۔ خدا کے پیغمبر نے اپنے آپؐ کو روک لیا مگر بشرکین کو وقت سے پہلے روکنے کے لئے اقدام نہیں فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہی نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ ”سنت“ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے سوا بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ ان میں اس ایک سنت وہ ہے جس کو تدریج یا حقیقت پسندی کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیغمبر کی حیثیت سے 13 سال رہے مگر آپؐ نے کبھی یہ نہ کیا کہ کعبہ کی بہرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں۔ حتیٰ کہ فتح و غلبة حاصل ہونے کے بعد بھی آپؐ نے بیہودہ مراسم کے خاتمه کے لئے جلد بازی نہیں کی۔ طاقت ور ہونے کے باوجود آپؐ نے دو سال تک انتظار فرمایا اور تیرسے حج میں وہ تمام اصلاحات نافذ کیں جو آپؐ ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔

تدریجی ڈھنگ پر عمل کرنے میں بہت سے فائدے ہیں جو کسی اور طریقہ سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

۱۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلوبہ نتیجہ تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے۔ تدریجی طور پر آگے بڑھنا دوسرے لفظوں میں ایک ایک قدم کو سنبھالتے ہوئے اور مستخدم کرتے ہوئے

آگے بڑھنا ہے۔ ایسا آدمی صرف جوش کے تحت میدان میں نہیں کوڈ پڑتا بلکہ خارجی اسباب کی رعایت کرتے ہوئے حسب حالات اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے سفر میں اس حکمت کو ملحوظ رکھے وہ ضرور منزل پر پہنچ کر رہے گا۔

۲۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ نقصانات سے فیک جاتا ہے۔ جو شخص اچانک چھلانگ لگا کر مقصد تک پہنچنا چاہے اس کو غیر ضروری طور پر ایسی طاقت توں سے قبل از وقت لٹانا پڑ جاتا ہے جن سے موثر مقابلہ کے لئے وہ ابھی تیار نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جان و مال کے ایسے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں جن کی تلافی ممتوں بعد بھی نہ ہو سکے۔

حصہ دوم

پیغمبر انقلاب

اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سر بلند ہو۔ اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو۔ مگر دین کے فکری غلبہ کے لئے عالمی حالات کی موافقت ضروری ہے۔ خدا نے ہزاروں سال کے عمل سے پیغمبر آخر الزماں کے لئے موافق حالات پیدا کئے۔ آپؐ نے ان حالات کو جانا اور ان کو حکیمانہ طور پر استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا۔ اب دوبارہ چھپلے ہزار سال کے عمل کے نتیجہ میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کر دئے ہیں جن کو استعمال کر کے از سر نوا اسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جاسکے۔ اسلام کو دوبارہ وہی برتری اور سر بلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تھی۔

مگر ان امکانات کو واقعہ بنانے کے لئے ایک ایسی سنجیدہ جدوجہد درکار ہے جو وقت کے گھرے شعور پر ابھری ہو۔ جو عمل کی نفیاں سے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جانتی ہو۔ جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر کے صرف دین کی سر بلندی کے لئے کوشش کرنے والی ہو۔ جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہونہ کہ انسانی کج فہمیوں کی بیاناد پر۔ جس کا محرك خدا کی بڑائی قائم کرنا ہونہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈا الہانا۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کو سر بلند کیا تھا اور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کو سر بلند کریں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ سلطھی نعروں پر بھیڑ جمع کرنے کو کام سمجھیں، جو ہر پیش آمدہ مسئلہ پر دوڑنا شروع کر دیں، وہ صرف خدا کے پیدا کئے ہوئے امکانات کو بر باد کریں گے۔ وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت نہیں ہو سکتے۔

ایک مقابل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اسلامی انقلاب آیا اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل 1018 آدمی ہلاک ہوئے۔ اس انقلاب کی تکمیل 23 سال میں ہوئی۔ ان

23 سالوں میں جو غزوات پیش آئے ان کی تعداد 81 تائی جاتی ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 غزوات میں شریک تھے اور عملاً با قاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی۔ ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طرح ہے:

مسلمان مقتولین 259

غیر مسلم مقتولین 1018 = 789

صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ اتنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کو غیر خوبی انقلاب (Bloodless Revolution) کہا جاسکتا ہے۔

ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پر جوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے غیر اسلامی انقلابات سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف ایک ہزار آدمیوں کی جان لے کر کامیاب ہو گیا۔ جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لئے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لئے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شمار ہوتی ہے۔

یہ تقابل ہم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ہماری پُر فخر نسبیات کو تسکین ملتی ہے۔ مگر یہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرا تقابل نصیحت کا تقابل ہے اور نصیحت آدمی کے لئے ہمیشہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔

یہ دوسرا تقابل یہ ہے کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زمانہ کی مسلم تحریکیوں میں مرنے والوں سے کریں۔ بالفاظ دیگر، صدر اول کے انقلاب سے خود اپنی انقلابی کوششوں کا موازنہ کریں۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں دینی انقلاب کا تقابل غیر مسلموں کے لادینی انقلابات سے کرتے ہیں۔ اسی طرح انہیں چاہئے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کو سامنے رکھ کر خود اپنی اٹھائی ہوئی تحریکیوں کو تو لیں اور ان کے

نتانج کا جائزہ لیں۔

اگر مسلمان یہ مقابلہ کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر کی تحریک کے مقابلہ میں دوسری اقوام کی لا دینی تحریکوں کو جس مقام پر کھڑا کر کھا ہے، عین اسی مقام پر خود ان کی موجودہ زمانہ کی تحریکیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ الجزاں کے جہاد آزادی میں 25 لاکھ مسلمان مرے، ہندوستان کے جہاد آزادی میں 5 لاکھ علماء اور مسلمان شہید ہوئے، اسلامی پاکستان کو وجود میں لانے کے درمیان ایک کروڑ انسان کام آگئے۔ اسی طرح شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ اسلام کے نام پر جانیں دے رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ ان تمام قربانیوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ صدر اول کی اسلامی تحریک میں دس سو آدمی کام آئے، اور اس کے بعد ایسا دور رس انقلاب آیا جس کے اثرات ساری دنیا نے محسوس کرتے۔

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں میں مجموعی طور پر دس کروڑ آدمی ہلک اور بر باد ہو گئے۔ اس کے باوجود ذمیں کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا خط بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز نظر آتا ہو۔

پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے کوششوں کا بالکل الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ ہمارے حق میں بالکل کوہ الفاظ پورے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کہے گئے تھے۔

”اور تمہارا نجی بونا فضول ہو گا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہو گی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہو گا، اور میدان کے درخت پہلنے ہی کنہیں۔“ (احباد، باب 26)

ہماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مصدق ثابت ہو رہی ہے۔ ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دھواں دھار تحریکیں چلا کیں اور اس کی راہ میں ان گنت قربانیاں

دیں۔ مگر جب نتیجہ نکلا تو ساری مسلم دنیا بہت سی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ہم نے آزادی وطن کے لئے جہاد کیا مگر جب وطن آزاد ہوا تو عملًا وہ دوسرے فرقوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لئے قربانیاں دیں مگر جب اسلامی پاکستان بناتو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی۔ ہم نے مصر میں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لئے عظیم الشان تحریک اٹھائی مگر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ تقریباً ثلث صدی سے فلسطین کی یہودی ریاست کو مٹانے کے لئے جہاد جاری ہے اور مسلمانوں کا جان و مال بے پناہ مقدار میں تباہ ہو رہا ہے مگر عملًا صرف یہ ہوا ہے کہ یہودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آخری دردناک خبر جو بہت جلد مسلمانوں کو سننی ہو گی وہ یہ کہ ایران میں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لا لایا گیا مگر یہ اسلامی اقتدار بہت جلد ملحد طاقتوں کا اقتدار قائم کرنے کا ابتدائی زینہ بن گیا۔

یہ موجودہ زمانہ کی پتھر سے بھی زیادہ سنگین حقیقتیں ہیں۔ کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا کر اس میں جیتا رہے مگر آئندہ آنے والا مورخ یقیناً ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گا کہ فرانس اور روں کے انقلاب میں مرنے والوں کے حصہ میں پھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا موڑ دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شہنشاہی طرز فکر کے بجائے جمہوری طرز فکر رائج ہو گیا اور سرمایہ دارانہ طریق معيشت پر سو شلسٹ طریق معيشت کو فکری غلبہ حاصل ہو گیا۔ مگر اسلام کے نام پر بر باد ہونے والے اگرچہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ تنخے مگر وہ عالمی فکر پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے۔

صدر اول کا اسلامی انقلاب بتاتا ہے کہ اگر ایک ہزار آدمی بھی یہ ثبوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کی خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں تو خدا ان کی قربانی کو قبول کر

کے اسلام کو زمین پر غالب کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا مگر خدا کی نصرت ان کا ساتھ دینے کے لئے آسمان سے نہیں اتری۔ وہ اس کے باوجود مغلوب ہی بنے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہماری یہ تمام قربانیاں حقیقتہ اس صراطِ مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی پیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح میں کا وعدہ فرمایا ہے۔ (الفتح)

کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گیہوں کے بیچ زمین میں ڈالے مگر اس سے گیہوں اگنے کے بجائے جھاڑ جھنکاڑا گے تو ایسا کسان جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ خدا کی اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی گیہوں کے بیچ بوئے اور اس سے اس کے لئے جھاڑ جھنکاڑا گئے۔ یہنا ممکن ہے، یہ کروڑ بار ناممکن ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر ہوتیں جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور اپنی جانیں دیں تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کوششوں کے باوجود اس کا کوئی ثابت نتیجہ نہ نکلے۔ واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی خوش آدمی فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تو رہے۔ بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑ دے گی۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے لئے جھوٹی خوش فہمیوں کے ہندر کے سوا اور کچھ نہیں۔

نصرت خداوندی

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے قدموں کو جمادے گا (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثْبِتُ أَقْدَامَكُمْ) (حمد: 7) یہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی ایکیم کے ساتھ موافقت ہے، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لئے خدا کا جو نقشہ ہے اور اس کے لئے اس نے جو موافق حالات فراہم کئے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا، جو لوگ اس طرح خدا کی نصرت کریں ان کو جما و حاصل ہوتا ہے اور

بالآخر وہ کامیاب رہتے ہیں۔ خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبہ سے مطابقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے نہ کہ بطور خود آزادانہ عمل کر کے۔

اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک مثال بیجئے۔ ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کا بیچ بوؤں تو وہ دس سال میں پورا درخت بنے گا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھدا دیا پھر کئی آدمیوں کے ذریعہ اس کو وہاں سے اٹھوا�ا اور اس کو لا کر اپنے گھر کے سامنے لگا دیا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے دس سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی ہے، لیکن اگلے دن جب وہ صبح کو سو کر اٹھے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے پتے مر جھا چکے ہیں۔ شام تک شاخیں بھی لٹک گئیں۔ چند دن کے بعد درخت کے پتے سوکھ کر جھٹر گئے اور اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھہرہ کھڑا ہوا تھا۔

انہیں دونوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لئے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب اپنے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ ٹھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ گو غیر معمولی طور پر پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے۔ پادری صاحب نے جواب دیا۔ میں جلدی میں ہوں گر خدا جلدی نہیں چاہتا:

" I am in hurry, but God doesn't "

اس کے بعد پادری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دندانہ دار پہیوں (Cog Wheels) کے ملنے سے مشین کا چلنا۔ ایک پہیہ خدا کا ہے، دوسرا پہیہ انسان کا۔ انسان جب خدا کے پہیہ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ خدا کے پہیے کی رفتار کا لحاظ کئے بغیر چلنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ خدا کا پہیہ مضبوط ہے اور انسان کا پہیہ کمزور۔

خدانے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تباہی جس کے اوپر کوئی درخت اگے۔ سورج کے ذریعہ اوپر سے ضروری حرارت بھی۔ آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا فرمایا۔ موسموں کی تبدیلی کے ذریعہ اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ کربہ ہاکرب کی تعداد میں بیکثیر یا پیدا کئے جو درخت کی جڑوں کو ناسُر و حن کی غذا فراہم کریں۔ یہ تمام انتظام گویا خدا کا دنداہ دار پہیہ (Cog Wheel) ہے۔ اب انسان کو اس میں اپنا دنداہ دار پہیہ ملانا ہے تاکہ مذکورہ موقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کر سکیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک بیچ لے اور اس کو زمین میں دبادے۔ اگر وہ ایسا کرے تو گویا اس نے خدا کے پہیے میں اپنے پہیے کو ملا�ا۔ اس کے بعد فطرت کی مشین چلنائزروں ہو جائے گی اور وقت پر اپنا نتیجہ دھائے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنا یہ بیچ پتھر پر ڈال دے، یا بیچ کے بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے، یا وہ ایسا کرے کہ بیچ بونے کے بجائے پورا درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑا کرنا چاہے تو گویا اس نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں نہیں ملا�ا، اس نے اپنے آپ گو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا۔ ایسے آدمی کے لئے اس دنیا میں ہرے بھرے درخت کا مالک بننا مقدار نہیں۔

یہی معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے۔ وہ بھی خدا کے پیدا کردہ موقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کو دچانے سے۔ صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لئے آیا کہ خدا کے کچھ بندوں نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں ملا دیا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں ہماری تمام قربانیاں اس لئے رائگاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبہ کے ساتھ موافق تھیں کی بلکہ خود ساختہ را ہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے۔

دینِ توحید اور دینِ شرک

قرآن کے اشارات (البقرہ: 213) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ کے بعد جب

انسان زمین پر آباد ہوا تو سب کا دین توحید تھا۔ یہ صورت چند سو سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرستی کا آغاز ہوا جس کا دوسرا نام شرک ہے۔ دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز تو جہ بناانا انسان کے لئے مشکل تھا، چنانچہ اس نے عقیدۃ خدا کو مانتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنا مرکز تو جہ بنا لیا۔ یہی وہ دور ہے جب کہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش شروع ہوئی۔ پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمجھ لیا گیا۔ حتیٰ کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت و اقتدار نظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرض کر لیا گیا۔ اس طرح تقریباً ایک ہزار سال بعد وہ وقت آیا جب کہ توحید کا فکری غلبہ ختم ہو گیا۔ اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آگیا۔

ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر بھجنے شروع کئے۔ مگر ان پیغمبروں کو کبھی اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کہ دین شرک کو مٹا کر دوبارہ دین توحید کو غالب اور سر بلند کرتے۔ انسانی نسل اس زمانہ میں جن جن مقامات پر پھیلی تھی، ہر مقام پر خدا کے پیغمبر لگاتا رہا تھا (المونون: 44) ایک حدیث کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ تھی۔ مگر تمام پیغمبروں کا یہ حال ہوا کہ ان کو استہزا کا موضوع بنالیا گیا (یس: 30) جب آدمی سچائی کا انکار کرتا ہے، بلکہ اس کا مذاق اڑانے پر اتر آتا ہے تو یہ خواہ منواہ نہیں ہوتا۔ ایسا رویہ آدمی ہمیشہ کسی چیز کے بل پر اختیار کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ناز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے۔ اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فَلِمَا جاءَهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عَنْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَءُونَ (المون: 83)

جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

یہاں ”علم“ سے مراد وہ بگڑا ہوا مذہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعد ان قوموں کے نزد یک مقدس بن گیا تھا۔ اس قسم کا آبائی مذہب ہمیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ان کا پورا قومی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو لمبی روایات کے نتیجہ میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے۔

ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ مسلمہ مذہب تھا جو شرک کی بنیاد پر قائم تھا۔ دوسری طرف پیغمبر ایک ایسی توحید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی۔ اس کا داعی حق ہونا ایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے لفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس تقابل میں انہیں وقت کا پیغمبر واضح طور پر حقیر نظر آتا اور ان کا اپنا آبائی مذہب واضح طور پر عظیم۔ حضرت مسیح بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے۔ دوسری طرف یہود یوں کامذہبی سردار ہیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا۔ پھر ہیکل کے صدر نشین کے مقابلہ میں درخت کے نیچے سونے والا لوگوں کو زیادہ بر سر حق کیسے نظر آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تو میں اپنے معاصر پیغمبروں کو استہرار کا موضوع بناتی رہیں۔ اس استہزاء پر جو چیز انہیں آمادہ کرتی وہ ان کا یہ احساس تھا کہ تم تو مسلّمہ اکابر کا دامن تھا میں ہوئے ہیں، پھر ان کے مقابلہ میں اس معمولی آدمی کی کیا حیثیت۔ اکابر کی اس فہرست میں اگرچہ قدیم انبیاء تک ہوتے تھے۔ مگر ان انبیاء کی حیثیت عملًا ان کے یہاں ایک قسم کے قومی ہیروں کی تھی نہ کہ فی الواقع داعی حق کی۔

اعلام اللہ

آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے چورا ہے پر کھمبالگا ہوتا ہے جس میں ہری اور الال روشنیاں ہوتی ہیں۔ جس رخ پر ہری روشنی ہوا دھر سوار یوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔

اور جس رخ پر لال روشنی ہو رہی ہواں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سوار یاں نہ جائیں۔ اگر کوئی سواری اس نشان دہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ ٹریک قوانین کے مطابق قابل سزا قرار پاتی ہے۔

داعی حق کی حیثیت اصلًا اسی قسم کے رہنماء کھبما کی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتائے کہ وہ کہہ رہا ہے جائیں اور کہہ رہنا ہے جائیں۔ کون سارا ستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جہنم کی طرف۔ (و کذلک جعلنا کم امة و سلطان تک نوا شہداء علی الناس و يكُون الرسول علیکم شهید) ابتدائی دور توحید کے بعد غلبہ شرک کے زمانے میں خدا کی طرف سے جو رسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لئے آئے۔ ان کو خدا نے حقیقت کا صحیح علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لئے صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ ہر نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا۔ انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا اور مسلسل اتنی وضاحت کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے تمام جھٹکے کی حد تک خدا کا پیغام پہنچ گیا پھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ خدا کے نزدیک جنتی ٹھہرای جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔

تاتا ہم اللہ تعالیٰ کو حق کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ حق کا اظہار ہو۔ حق کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتادیا جائے۔ خیر خواہی اور حکمت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھوول دیا جائے کہ سننے والوں کے لئے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اسی کا نام اتمام جھٹ ہے۔

اظہار اس سے آگے کی چیز ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کا غالب فکر بن

جائے۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے افکار پست اور مغلوب ہو کر رہ جائیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اعلاءً کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اظہار دین یا اعلاءً کلمۃ اللہ سے مراد اصلاً حدود و قوانین کا نفاذ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے۔ یعنی اسی قسم کا غلبہ جیسا غلبہ موجودہ زمانہ میں جدید علوم کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے۔ مثلاً سرمایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ، شہنشاہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ اور قیاسی فلسفہ پر تجزیاتی سائنس کا فکری غلبہ۔ جدید سائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اور بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلہ میں اپنی برتری کھو دی ہے۔ اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپر مطلوب ہے۔

خدا قادر مطلق ہے۔ اس کے لئے بہت آسان تھا کہ وہ حق کو دوسری باتوں پر فالق و بر ترکردے جس طرح اس نے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زینی روشنیوں پر فالق کر کھا ہے۔ مگر موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں خدا اپنے مطلوب واقعات کو اسباب کے روپ میں ظاہر کرتا ہے نہ کہ محجزات کے روپ میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرہ میں اس مقصد کے لئے تمام ضروری حالات پیدا کئے جائیں اور اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبہ کی نسبت دی گئی ہو۔ وہ اپنے آپ گو خدا کے منصوبہ میں شامل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کر دے تاکہ خدا کے بندوں پر خدا کی نعمت کا تمام ہوا اور ان پر ان برکتوں کے دروازے کھلیں جو ان کی نادانی سے ان کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے:

يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَغْوِاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمَّنٌ نُورٌ هُوَ لَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُونَ^④
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ « وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ^⑤ (الصف: 9-8)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے

رہے گا خواہ وہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو وہادیت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے خواہ وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

ایک نئی قوم برپا کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوة ابراہیم (میں ابراہیم کی دعا ہوں) حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا تو میرے لڑکے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر (البقرہ 129) تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً ڈھائی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریائیا نے اپنی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا کئے جانے کی دعا کی تو ایک سال کے اندر ہی آپؐ کے یہاں حضرت مسیح پیدا ہو گئے (آل عمران: 39) اور حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی دعا فرمائی تو اس کی عملی قبولیت میں ڈھائی ہزار سال لگ گئے۔ اس فرق کی وجہ کیا تھی۔

اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسیح کو ایک وقت کردار ادا کرنا تھا۔ آپؐ اس لئے بھیجے گئے کہ یہود کے دینی بھرم کو کھولیں اور بالآخر ان کے ہاتھوں قتل ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہود اب اتنا بگڑ چکے ہیں کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتابِ الٰہی کا حامل بنایا جائے۔ اس کے مقابلہ میں پیغمبر اسلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر کی حیثیت دے دیں۔ اس کام کو اساب کے ڈھانچے میں انجام دینے کے لئے ایک نئی صاحح قوم اور موافق حالات درکار تھے۔ یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لانے کے لئے ڈھائی ہزار سال لگ گئے۔

ان منصوبہ کے تحت حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا کہ وہ عراق کے متعدد علاقوں سے نکلیں اور رجہاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسا دیں (ابراہیم: 37) یہ مقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھا۔ یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کر خالص فطرت کی آغوش میں ایک ایسی قوم کی تعمیر کی جا سکتی تھی جس

کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں محفوظ ہوں۔ (ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک، البقرہ: 128) قبولیت دعا میں ڈھانی ہزار سالہ تاریخ کا واضح مطلب یہ تھا کہ مخصوص ماحول میں تو الدو تسل کے ذریعہ وہ جاندار قوم وجود میں آئے جو خدا کے دین کی سچی حامل بن سکے۔ جو پورے معنوں میں ایک جان دار قوم ہوا اور ان تمام مصنوعی کمیوں سے پاک ہو جن کی وجہ سے دور اول میں خدا کے دین کے اظہار کے لئے کارآمد آدمی نہ مل سکے۔ جب منصوبہ کے مطابق مکمل استحق تیار ہو گیا اس وقت بنا ہاشم کے یہاں آمنہ بنت وہب کے پیٹ سے وہ پیغمبر غلبہ پیدا کر دیا گیا جس کی دعا حضرت ابراہیم کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔

حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیلؑ کو موجودہ مکہ کے مقام پر لا کر بسا دیا جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا اور اسماعیلؑ بیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگرچہ تم کو بڑے سخت محاذ پر کھڑا کیا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے۔ تمہارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے اور خدا ہر نازک موڑ پر تمہاری مدد کے لئے موجود رہے گا۔ اسماعیلؑ جب نوجوانی کی عمر کو پہنچ تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کو انہوں نے حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے مگر عین اس وقت جب کان کی چھری اسماعیلؑ کے گلے پر پہنچ چکی تھی خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور اس کے بد لے انہیں ایک مینڈھادیا جس کو وہ خدا کے نام پر ذبح کریں۔ یہ اس بات کا مظاہرہ تھا کہ تم سے اگرچہ ہم نے بہت بڑی قربانی مانگی ہے مگر یہ صرف جذبہ کا امتحان ہے۔ قربانی پیش تو کرنا ہو گا مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خدا تمہیں بچائے گا۔ کیونکہ اصل مقصد تم کو ایک بڑے کام کے لئے استعمال کرنا ہے نہ کہ خواہ مخواہ ہلاک کر دینا۔

حضرت اسماعیلؑ بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جو زمزم نکلنے کے بعد آ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ جو اس وقت شام میں تھے، ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس وقت گھر پر اسماعیل کہاں گے ہیں۔ بیوی موجود تھیں جو اپنے خسر کو پہچانتی نہ تھیں، حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا کہ اسماعیل نہ تھے، صرف ان کی بیوی نے کہا کہ شکار کرنے کے لئے۔ پھر پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر کیسی ہوتی ہے۔ بیوی نے معاشری تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی، اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا کہ جب اسماعیلؑ تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدلت دو (غیر عتبہ بابک) حضرت اسماعیلؑ نے واپسی کے بعد جب پورا واقعہ ستا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے اور ”چوکھٹ بدلت دو“ کا مطلب استعارے کی زبان میں یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسرا بیوی کرو، کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لئے موزوں نہیں جس کا منصوبہ خدا نے بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسرا عورت سے شادی کر لی۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیمؑ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اب بھی اسماعیلؑ گھر پر موجود نہ ملے۔ حضرت ابراہیمؑ نے دوسرا بیوی سے بھی وہی سوال کیا جو انہوں نے پہلی بیوی سے کیا تھا۔ اس بیوی نے اسماعیلؑ کی تعریف کی اور کہا کہ جو کچھ ہے بہت اچھا ہے، سب خدا کا شکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اسماعیلؑ آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو (مثبت عتبہ بابک) یعنی تمہاری یہ بیوی پیش نظر منصوبہ کے لئے بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو (تفسیر ابن کثیر)

اس طرح عرب کے الگ تھلک علاقوں میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی جس نے بالآخر اس جاندار قوم (بنو اسماعیل) کی صورت اختیار کی جو نبی آخر الزماں کا گھوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالے جو خدا اس کے سپرد کرنا

چاہتا تھا۔

یہ قوم جو عرب کے صحراؤں اور چیل بیابانوں میں تیار ہوئی، اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المرورة کہا جاسکتا ہے۔ المرورة کے لفظ میں معنی ہیں مرد اگی۔ یہ عربوں کے یہاں کسی کے جو ہر انسانیت کو بتانے کے لئے سب سے اونچا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم عربی شاعر کہتا ہے:

اذا المرء اعيته المرورة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد
(آدمی اگر اٹھتی جوانی میں مرد انگی کا مقام حاصل کرنے سے عاجز رہ جائے تو پڑھا پے
میں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے)

پروفیسر فلپ ہٹی نے عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میں صدیوں کے عمل سے جو قوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نرالی قوم تھی جو مندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درج رکھتی تھی:

Courage, endurance in time of trouble (sabr) observance of the rights and obligations of neighbourliness (jiwar) manliness (muruah) generosity and hospitality regard for women and fulfilment of solemn promises.

ہمت، مشکل کے وقت برداشت، پڑوستی کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی، مرد انگی، فیاضی اور مہمان نوازی، عورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنا۔

خیرامت

اس طرح ڈھائی ہزار سالہ عمل کے ذریعہ ایک ایسی قوم کا لگی جو اپنے انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی (کنتم خیرامة اخر جلت للناس، آل عمران: 110) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے خیرامت سے مہاجرین کا گروہ مراد لیا ہے (هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ، تفسیر ابن کثیر) مہاجرین دراصل اس گروہ کی علامت تھے۔ باعتبار حقیقت اس سے وہ پورا عرب گروہ مراد ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔

پیغمبروں کو ہر زمانہ میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے۔ ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونقیں اور درد یوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں۔ دوسری طرف وقت کا پیغمبر دلیل مجرد کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا۔ عرب میں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجرد کی سطح پر پاسکے۔ وہ اپنے آپ گو ایک ایسے حق کے حوالے کر دے جس نے ابھی ظواہر کا روپ اختیار نہیں کیا ہے۔ کھلے آسمان اور وسیع صحراءوں کے درمیان جو قوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے، وہ ایک ایسے حق کے لئے اپنا سب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے تین لفظوں میں اس طرح ادا کیا ہے: وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ وہ سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لئے چن لیا تھا (کانو افضل هذہ الامۃ ابڑھا قلوباً واعمقها علماً واقلها تکلفاً اختیار ہم اللہ لصحبة نبیہ ولا قامة دینہ)

دور شرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی، وہ تھی _____ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت۔ اب انسان حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ یہی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے کچھلے زمانہ میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔

وہ خدا کے مکنرنہ تھے مگر انہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ وہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس لئے انہوں نے نظر آنے والی چیزوں کو خدا کی پیکر فرض کر کے ان کو اپنا مرکز تو جہ بنا لیا تھا، خواہ یہ مادی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں۔ ان کی یہی کمزوری پیغمبر کی پیغمبری پر لقین کرنے میں مانع تھی۔ ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے

زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ مخفی ایک انسان ہوتا ہے۔ ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل نہیں ہوتیں جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم نے اپنی دعائیں فرمایا تھا: اے میرے رب، اس شہر (ملکہ) کو تو امن والا شہر بنادے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کر ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہانہ مانا تو بخششے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسا یا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب تا کہ وہ نماز قائم کریں (ابراہیم: 35:37)

حضرت ابراہیم کے زمانہ میں شرک کا غالبہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ عالی شان بت خانے ہر طرف قائم تھے۔ انسان کے لئے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ایک چیلی زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک محفوظ علاقہ میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو نواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے۔ چنانچہ اسی انسانی مادہ سے وہ قوم نبی جس کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں:

وَلِكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةً إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ (الحجرات: 7)

مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے لئے کفر اور فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنادیا۔ یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔

اس آیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب کہ اس کو ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے حالات میں رکھ کر دیکھیں جب کہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے دکھائی دینے

وائل خداوں کے ہجوم میں دھائی نہ دینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپنا سب کچھ بنالیا۔ عظمت کے مناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغمبر کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک دین غریب (اجنبی دین) اپنی ساری بے سروسامانی کے باوجود ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لئے مشکل نہ رہا۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی سچائی کو دیکھ لیا جو ابھی مجرد روپ میں تھی۔ جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں۔ جو ابھی قومی فخر کا نشان نہیں بناتھا۔ جس میں اپنا سب کچھ دے دینا تھا۔ مگر دنیا میں اس کے بد لے کچھ بھی پانا نہ تھا۔

اس معاملہ کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو بحیرت سے پہلے یعنی عقبہ ثانیہ کے وقت پیش آئی۔ عین اس زمانہ میں جب کہ مکہ میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے، مدینہ میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے لگا۔ حتیٰ کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت مدینہ کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی بیعت کریں اور آپؐ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت جابرؓ انصاری کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کتب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپؐ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سہے پھرتے رہیں (ثُمَّ إِنْتُرُوا جَمِيعًا فَقُلْنَا هَتَّى مَتَى نَذْرُكَ رَسُولُ اللَّهِ يَطْوِفُ وَيَطْرُدُ فِي جَبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ) رسول اللہ کا بے یار و مددگار ہونا ظاہر بینوں کے لئے اس بات کا ثبوت تھا کہ آپؐ اللہ کے رسول ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپؐ کی یہ حالت کیوں ہوتی۔ مگر اہل مدینہ نے آپؐ کے معاملہ کو حقیقت کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے یہ راز پالیا کہ آپؐ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے اور آپؐ کی مدد کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔

بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے ستر سے کچھ اوپر نمائندوں نے مکہ آ کر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وفد کے ایک رکن کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کے لئے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو حسب معمول زیارت کعبہ کے لئے جا رہا تھا اس کے ساتھ خاموشی سے حج کے نام پر شریک ہو گئے۔ مکہ کے قریب قبیلہ والوں نے پڑا ڈالا۔ رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے۔ یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ کی قرارداد کے مطابق اپنے بستروں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے، اور مقام موعود کی طرف اس طرح چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ چھپتی ہوئی چلتی ہے (تسلسل تسلیل القطا مستخفین، سیرۃ ابن ہشام، جراء ثانی، صفحہ 49)

وہ لمحہ بھی کیسا عجیب تھا جب کہ ایک دنیا پیغمبر کو درکرچکی تھی، اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے سبقت کر رہے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ پیغمبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا۔ طائف سے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا گیا تھا۔ تمام قبائل نے آپ گوپناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں مدینہ کے لوگوں نے آپ کی صداقت کو کو پہچانا اور آپ کی پکار پر لبیک کہا۔ اس وقت جب کہ انصار مدینہ بیعت کے لئے بڑھے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو۔ یہ اپنے اموال اور اپنی اولاد کو ہلاک کرنے پر بیعت کرنا ہے۔ انہوں نے کہاں ہاں۔ ہم علی نہکة الاموال والاولاد بیعت کر رہے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم نے اس عہد بیعت کو آخر تک پورا کر دیا تو ہمارے لئے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ لایے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح ایک ممتاز عہد صداقت کے حوالے کرنا، اپنا سب کچھ اس طرح ایک غیر قائم شدہ حق کو سونپ دینا اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔

غیر متعلق مسائل سے تعریض نہ کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود تھے جن کو موجودہ زمانہ میں قومی مسائل کہا جاتا ہے اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں۔ یہ مسائل ذہین افراد کو متاثر کرتے ہیں اور وہ ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام مسائل موجود تھے لیکن آپؐ نے ان سے مطلق تعریض نہیں کیا۔ اگر آپؐ ان مسائل میں الجھتے تو یہ خدا کے منصوبہ میں اپنے کوشال کرنانا ہوتا۔ وہ سارے موقع جو ڈھانی ہزار سالہ عمل کے نتیجہ میں پیدا کئے گئے تھے بر باد ہو کر رہ جاتے۔

۱۔ جش نے 525ء میں عرب کے سرحدی علاقے یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابرہہ اس زمانہ میں شاہ جش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ ابرہہ کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال (570ء) میں اس نے ہاتھیوں کی فوج سے مکہ پر حملہ کیا تاکہ کعبہ کو ڈھانے اور مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کر دے۔ 50 سالہ قبضہ کے بعد یمن پر جش کی حکومت ختم ہوئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت قائم ہو گئی جس کی طرف سے باذان یمن کا گورنر مقرر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اس کی خبر کسری (شاہ فارس) کو پہنچی تو اس نے باذان کو لکھا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ جو بجوبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کہو کہ وہ اس دعویٰ سے بازا آئے۔ اگر وہ بازنہ آئے تو اس کا سرکٹ کر میرے پاس گھیجو (والا فابعث الی براسه، سیرۃ ابن ہشام)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں ظاہر ہوئے تو اس وقت عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی قبضہ نے کیسے سنگین مسائل پیدا کر رکھے تھے۔ ان حالات میں ایک صورت یہ تھی کہ آپؐ اپنے ہم قوموں کو غیر ملکی قبضہ کے خلاف اکساتے اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے۔ اگر آپؐ ایسا کرتے تو یہ خدا کے منصوبے سے انحراف کے ہم معنی

ہوتا۔ کیونکہ خدا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ لوگوں سے غیر متعلق امور پر نکل کر اونہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے دعوت الی اللہ کا کام جاری رکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ با آخر خود باذان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن کے عیسائی باشندوں کی اکثریت نے بھی جو مقصود ایک قومی لیڈرنا کام طور پر سیاسی کارروائیوں کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ آپ نے کامیاب طور پر دعویٰ کارروائی کے ذریعہ حاصل کر لیا۔

۲۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قبائلی رسم کے مطابق بنو ہاشم کا سردار ابو لهب مقرر ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ گوکسی دوسرے حمایت قبیلہ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ حمایت کی تلاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنو شیابان بن شعبہ تھا۔ آپ اس سے ملے تو قبیلہ کے سردار شنبی بن حارثہ نے کہا کہ ہم کسری (شاہ فارس) کی مملکت کے قریب رہتے ہیں۔ وہاں ہم ایک معاهدہ کے تحت مقیم ہیں جو کسری نے ہم سے لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہ کریں گے اور نہ کسی نئی بات کرنے والے کو پناہ دیں گے۔ اور شاید بادشاہوں کو وہ بات ناپسند ہو جس کی طرف آپ بلا تے ہیں (ان لا نجدی حدیث حدیث ولا نووی حدیث)۔ ولعل هذا

لامرالذی تدعیه تکرہه الملوك) (سیرۃ ابن کثیر)

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف عرب میں یورونی سلطنتوں کے نفوذ نے جو مسائل پیدا کئے تھے وہ صرف سیاسی یا ملکی ہی نہ تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہہ کر پہلے مرحلہ ہی میں ان سے لڑائی چھیڑ دیں کہ جب تک یہ خارجی رکاوٹیں دور نہ ہوں کوئی دعویٰ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اول مرحلہ میں ان خارجی طاقتون سے لڑ جاتے تو یہ خدائی منصوبہ کے خلاف ہوتا۔ کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ روم و فارس کو آپ س میں بیس سال تک لڑا کر بالکل کمزور کر دیا جائے اور پھر خود انہیں پر جاریت کا الزام ڈال کر مسلمانوں کے لئے ان کو فتح کرنا آسان بنادیا

جائے۔ اگر مسلمان ابتدائی مرحلہ میں روم و فارس سے لڑ جاتے تو وہ نتیجہ بالکل برعکس صورت میں نکلتا جو بعد کے تصادم کے ذریعہ حیرت انگیز غیرملکی فتوحات کی صورت میں برآمد ہوا۔

خدائی منصوبہ سے مطابقت

کسان کا معاملہ قدرت کے کاگ (دنداہ) میں اپنا کاگ دینے کا معاملہ ہے۔ خدا نے ہماری زمین پر فصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کئے ہیں۔ مگر ان امکانات کو اپنے حق میں واقعہ بنانے کے لئے کسان کو ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی سطح پر زرخیزی (Soil) کی تدریجی گئی ہے جو معلوم کائنات میں کسی بھی دوسرے مقام پر نہیں۔ مگر تمام زرخیزی کے باوجود اس مٹی سے فصل اسی وقت اگتی ہے جب کہ اس میں نبی بھی ہو۔ اس نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحراء چیل بیابان بن کر رہ گئے ہیں، اس حقیقت کو قدرت لا ڈاپسکر پر اعلان کر کے نہیں بتاتی بلکہ خاموش اشارہ کی زبان میں بتاتی ہے۔ کسان کو اسے خاموش اشارہ کی زبان میں جانتا پڑتا ہے۔ چنانچہ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نہ ہونے والی زمین میں اپنی فصل بوتا ہے یا آب پاشی کے ذریعہ پہلے اس میں نبی پہنچتا ہے، پھر اپنا دانہ اس میں ڈالتا ہے۔ یہی معاملہ داعی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرب میں اگرچہ بہترین حالات پیدا کردئے گئے تھے اس کے باوجود ضروری تھا کہ آپ رباني حکمت کو لمحوظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کا منصوبہ خدائی منصوبہ کی رعایت کے بغیر چلتا تو آپ گوکبھی وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو عملًا آپ کو حاصل ہوتی۔

1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ دعوتی عمل میں ساری اہمیت مسئلہ آخرت کو دی جائے۔ مسئلہ دنیا کو کسی بھی حال میں دعوت کا اشونہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ انسان کا ابدی اور حقیقی مسئلہ ہے۔ دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کے بغیر انسان کی کامیابی بھی اتنی ہی بے معنی ہے

جتنی کہ اس کی ناکامی بے معنی۔

دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی کا تعلق افراد کے کردار سے ہے۔ اور انسان کے اندر حقیقی اور مستقل کردار صرف آخرت پر گھرے یقین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر آن خدا کی کپڑا میں ہے۔ یہ عقیدہ آدمی سے بے راہ روی کا مزاج چھین لیتا ہے اور اس کو پابند اور ذمہ دار انسان بنادیتا ہے۔ قرآن وحدیث کو اگر خالی الذہن ہو کر پڑھا جائے تو اس میں آخرت کا مسئلہ سب سے زیادہ ابھرا ہوا مسئلہ نظر آئے گا۔ دوسرے مسئللوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے مگر وہ ضمناً ہے نہ کہ اصل۔

2۔ دوسری بات یہ کہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی مادی جگہ رانہ کھڑا کیا جائے۔ مدعو کو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے۔ خواہ اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر یہ صورت حال پیدا کر دی تھی کہ مسلم گروہ اور غیر مسلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے تھے۔ تمام وقت جنگ کی باتوں اور جنگ کی تیاریوں میں گزر نے لگا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہر مطالبہ کو مانتے ہوئے ان سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ سمجھا، مگر خدا کے نزدیک وہ فتح میں (الفتح) کا دروازہ تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ جنگی مقابلہ آرائی کی فضائتم ہوتی تھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ بحال ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس معاہدہ کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے بجائے مدعو کے مقام پر آئے، ان کے درمیان دعوت حق کی آواز پھیلنے لگی۔ یہاں تک کہ صرف دوسال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دس گناہ بڑھ گئی۔ جو مکہ جنگ سے فتح ہوتا نظر نہ آتا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعہ مسخر ہو گیا۔

3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مدعو پر قابو پانے کے باوجود اس کے ساتھ فراغی کا سلوک کیا جائے۔ اس معاملہ کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ پوری طرح آپؐ کے قابو میں تھے جنہوں نے آپؐ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم کئے تھے۔ مگر آپؐ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہ دی۔ سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا۔ قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپؐ کے سامنے حاضر کئے گئے تو آپؐ نے فرمایا: اذ ھبوا فاقم الطلقاء (جاو تم سب آزاد ہو) کچھ لوگوں کے بارے میں آپؐ نے وقت طور پر قتل کئے جانے کا حکم دے دیا۔ مگر اس کے بعد ان میں سے بھی ہر اس شخص کو معاف کر دیا گیا جب کہ اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے آ کر آپؐ سے جان بخشی کی درخواست کی۔ اس قسم کے سترہ نامزد آدمیوں میں سے صرف پانچ کو قتل کیا گیا جنہوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ احد کی جنگ میں وحشی بن حرب نے حضرت حمزہؓ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہند بنت عتیہ نے آپؐ کی لاش کو لے کر اس کا مسئلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو وقتی طور پر آپؐ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے مجھے ان کے اوپر فتح دی تو میں ان کے تین آدمیوں کا مثلہ کروں گا (لئن اظہرنی اللہ علیہم لا مثن بثلا ثین رجالا منہم، تفسیر ابن کثیر، جلد ثانی، صفحہ 352) فتح مکہ کے بعد آپؐ نے جن سترہ آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا ان میں وحشی اور ہندو نوں شامل تھے۔ مگر دونوں نے جب آپؐ کی خدمت میں آ کر معافی مانگی تو دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ یہی طریقہ منصوبہ الہی کے مطابق تھا۔ یہ اصول بے حد اہم حکمت پر مبنی ہے۔ انسان پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ تو اس کے دوسرے قریبی پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ انسان زندہ معاشرہ کا ایک زندہ جزء ہے۔ جب بھی ایک انسان پر جارحانہ کا رروائی کی جاتی ہے تو اس کے قریبی لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس طرح سماج میں تخریبی

کاررو بیان حنم لیتی ہیں۔ فتح کے بعد جو وقت نئی تعمیر میں لگتا وہ تحریب کا رون کا مقابلہ کرنے میں صرف ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پچھلے مخالفین کو عمومی معافی دے کر آئندہ کے لئے ہر قسم کی تحریبی سرگرمیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ مزید یہ کہ ان کی اکثریت اسلام قبول کر کے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئی، جیسے کہ عکرمه ابن ابی جہل۔

4۔ فتح و غلبہ حاصل کرنے کے بعد اجتماعی معاملات کی اصلاح کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ صبر و تدریج کے ذریعہ اصلاحات کا نفاد کیا۔

مکہ کے قریش دین ابراہیمی کے وارث تھے۔ مگر انہوں نے اصل دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا اور اس میں بہت سی بدعتیں جاری کر دیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم نے حج کو قمری مہینوں کی بنیاد پر ذی الحجه میں قائم کیا تھا۔ قمری سال شمسی سال سے گیارہ دن کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ حج کبھی ایک موسم میں آتا اور کبھی دوسرے موسم میں۔ یہ صورت قریش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی۔ انہوں نے حج کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں رکھنے کے لئے نسی (کبیسہ) کا طریقہ اختیار کر لیا۔ وہ قمری مہینوں میں ہر سال گیارہ دن بڑھادیتے۔ اس طرح نام اگرچہ قمری مہینوں کا ہوتا مگر عملًا اس کا سال شمسی سال کے ساتھ چلتا۔ اس کی وجہ سے تاریخیں 33 سال تک کے لئے بدل جاتیں، ایک بار مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد دوبارہ 33 سال پر ایسا ہوتا کہ حج ابراہیمی طریقہ کے مطابق اصل ذی الحجه میں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے کہ وہ قریش کی بد عتوں کو ختم کر کے حج کو دوبارہ ابراہیمی طریقہ پر قائم کریں۔ فتح مکہ (رمضان 8ھ) کے بعد آپ عرب کے حکمراں بن گئے۔ آپ ایسا کر سکتے تھے کہ نسی کی بدعت کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت نسی کے 33 سالہ دور کو پورا ہونے میں صرف دو سال باقی تھے۔ آپ نے دو سال انتظار فرمایا۔ مکہ کے فتح ہونے کے

باوجود دو سال آپؐ حج کے لئے نہیں گئے۔ آپؐ نے صرف تیرے سال (10ھ) حج کی عبادت میں شرکت کی جو کہ 33 سالہ دور کو پورا کر کے ٹھیک ابرا یعنی تاریخ پر ذی الحجه میں ہو رہا تھا۔ اس وقت مشہور جمۃ الوداع میں آپؐ نے اعلان فرمادیا کہ اس سال حج جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح اب ہر سال ہوگا۔ اب نسیؐ کا اصول ہمیشہ کے لئے ختم کیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپؐ نے ان الفاظ میں ادا فرمائی:

اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ الزِّمَانَ قَدْ اسْتَدَادَ فَهُوَ الْيَوْمُ كَهْيَتِهِ يَوْمُ خَلْقِ اللَّهِ
السَّمَاوَاتِ وَالارضِ، وَانِ عَدَةُ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشْرَ شَهِيدًا

(ابن جریر وابن مردویہ)

اے لوگو زمانہ گھوم گیا۔ پس آج کے دن وہ اپنی اس بیت پر ہے جس دن کہ اللہ نے ز میں وآسمان کو پیدا کیا تھا۔ اور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزد یک 12 مہینے ہیں۔

اس تاخیر میں بہت گہری مصلحت تھی۔ کیونکہ مذہب میں جب کوئی طریقہ عرصہ تک رانچ رہے تو وہ مقدس بن جاتا ہے۔ لوگوں کے لئے اس کے خلاف سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ دو سال بعد خود یعنی حج ان تاریخوں پر آرہا تھا جو آپؐ چاہتے تھے۔ اس لئے آپؐ نے قبل از وقت اقدام کر کے غیر ضروری مسئلہ کھڑا کرنے سے پرہیز کیا۔ جب فطری رفتار سے حج اپنی اصل تاریخ پر آگیا تو آپؐ نے اعلان فرمادیا کہ یہی حج کی اصل تاریخ ہے اور آئندہ اب انہیں تاریخوں میں حج ہوتا رہے گا۔

یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں رباني حکمت کو ملحوظ رکھا۔ آپؐ نے خدا کے کاگ میں اپنا کاگ ملا یا، آپؐ نے خدائی منصوبہ سے موافقت کرتے ہوئے تمام کارروائیاں کیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ کی کوششوں کے عظیم الشان نتائج برآمد ہوئے۔

حالات سے بلند ہو کر

قدیم عرب کا تصور کیجئے۔ جنوب میں بحر عرب اور مشرق و مغرب میں خلیج فارس اور بحر احمر کے درمیان بننے والا یہ جزیرہ نما زبردست سیاسی مسائل سے دوچار تھا۔ عرب کے مشرق میں ایران تھا جہاں طاقت و رسمانی سلطنت قائم تھی۔ شمال میں رومی یا بازنطینی سلطنت تھی جو دور قدیم کی سب سے بڑی شہنشاہیت مانی جاتی ہے۔ ان دونوں سلطنتوں نے عرب جغرافیہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑہ بنارکھا تھا۔ عرب کے بہترین زرخیز علاقے براہ راست ان کے قبضے میں تھے۔ عراق پر ایرانیوں نے قبضہ کر کھا تھا۔ شام اور اردن اور فلسطین اور لبنان رومی سلطنت کا حصہ بننے ہوئے تھے۔ عرب کے مشرق و مغرب میں اگرچہ خلیج فارس اور بحر احمر کی قدرتی آبی دیواریں تھیں مگر یہ حصے بھی پڑوس کی طاقت و رشنهنشاہیتوں کی ریشه دو ایشور سے محفوظ نہ تھے۔ مشرق سے ایران کے بھری بیڑے خلیج عمان کو عبور کر کے نہایت آسانی سے عرب کے علاقے میں گھس آتے تھے۔ مغرب میں بحر احمر کے اُس پار کے دونوں ممالک۔ مصر اور حبشه رومی شہنشاہیت کے ماتحت تھے۔ اور وہ ان کے ذریعے سے ہر وقت عرب کے بظاہر اس محفوظ حصہ میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔

عرب کے اندر ورنی علاقے میں قبائلی سرداروں کی ریاستیں قائم تھیں۔ مگر رومیوں اور ایرانیوں کے عمومی تسلط کی وجہ سے ان کے لئے بھی زندگی کی صورت یہی تھی کہ ان بیرونی شہنشاہیتوں کی ماتحتی قبول کر کے اپنا سیاسی جزیرہ بنائیں۔ شمال میں شام کی سرحدوں سے ملی ہوئی امارت غساسہ عربیہ تھی جو رومی سلطنت کے تابع تھی اور بعثت نبوی کے زمانہ میں اس کا امیر حارث بن ابی شرغ نسانی تھا۔ اسی طرح امارت بصری تھی۔ وہ بھی رومی شہنشاہیت کے زیر اثر تھی۔ یہاں رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد مسیحی ہو گئی تھی۔

عراق کی سرحد پر امارت حیرہ عربیہ تھی جو ایران کے تابع تھی۔ خلیج فارس کے کنارے کنارے متعدد عرب ریاستیں تھیں۔ وہ سب ایران کے زیر اثر تھیں، مثلاً امارت بحرین، جس کا امیر مندرین ساوسی تھا۔ یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد ایرانی تہذیب کے اثر سے جوئی ہو چکی تھی۔ امارت عمان، جس کے امیر جلدی کے دوڑ کے جیفر اور عبد تھے۔ امارت یمامہ، جس کا امیر ہودہ بن علی الحنفی تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں میں سیاسی رقبہت کی وجہ سے اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً غسانیہ) روم کا ساتھ دیتی تھیں اور ایران کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً حیرہ) ایران کا۔ اس طرح ایران و روم کی بائیکیں اپنے اپنے نوبتیں میں عرب خون بھی خوب بہتا تھا۔

قدیم یمن، موجودہ یمن سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ اس میں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں۔ سب سے بڑا یمنی علاقہ وہ تھا جس کا دارالسلطنت صنعا تھا۔ نجران اسی کے اندر واقع تھا۔ یمن میں بیرونی نفوذ کا آغاز غالباً 343ء سے ہوتا ہے جب کہ سلطنت روم نے یہاں اپنے عیسائی مبلغین بھیجنے شروع کئے۔ ان عیسائی مبلغین کو نجران میں کامیابی ہوئی اور وہاں کے پیشتر لوگ عیسائی ہو گئے۔

اس مذہبی واقعہ میں روم کے حریف ایران کو سیاست کی بوجھ سوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اس طرح روی شہنشاہ عرب کے جنوبی علاقہ میں نفوذ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانوں نے اس کے توڑے کے لئے یمن کے یہودی قبائل کو ملایا جن کو روی سلطنت نے 70ء میں شام سے نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے جلاوطن ہو کر یمن میں آئیے تھے۔ عیسائیوں اور رومیوں کی ضد میں یہودی بہت جلد ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے۔ یوسف ذنواس جو ایک عرب تھا اور پھر یہودی ہو گیا تھا ایرانیوں کی مدد سے اس نے صنعا پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ ایک نیم آزاد عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی۔ یوسف ذنواس نے یمن کی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یمن سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ حتیٰ

کہ 534ء میں بحران کے بہت سے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔

اب رومیوں کی باری تھی۔ قیصر روم نے یمن میں عیسائیت کے تحفظ کے نام پر اور حقیقتہ اپنے نفوذ کو بحال کرنے کے لئے ایک تدبیر کی۔ اس کے عبشه کے باڈشاہ نجاشی کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لئے استعمال کیا۔ نجاشی مذہب ایسا تھا اور رومی حکومت کے ماتحت تھا اس نے نجاشی کو ابھارا کہ یوسف ذونواس سے بدل لے۔ نجاشی نے ایک جبشی سردار اریاط کو فوج دے کر روانہ کیا۔ اس نے مختصر جنگ کے بعد صنعا پر قبضہ کر لیا۔ ذونواس نے سمندر میں ڈوب کر خود کشی کر لی۔ کچھ دنوں بعد اریاط کی فوج کے ایک سردار ابرہہ نے بغاثت کر کے اریاط کو قتل کر ڈالا۔ اور نجاشی کو راضی کر کے صنعا کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا۔ یہی ابرہہ ہے جس نے 571ء میں کعبہ پر حملہ کیا۔ ابرہیم کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور اس کے بعد وسراء بیٹا مسروق حکمران ہوا۔

سابق ملوک یمن کی اولاد میں ایک شخص سیف بن ذی یزن تھا۔ اس کو خیال ہوا کہ اپنے مالک کو غیر عربوں کے نفوذ سے پاک کرے اور اپنی آبائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے۔ اس نے یمن میں آزادی کی تحریک (حرکۃ تحریریۃ) چلانی، صرف مقامی تعاون مقصد کے حصول کے لئے ناکافی تھا۔ چنانچہ وہ ایرانی باڈشاہ نوشیروال کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی فوج سے یمن کی تحریک آزادی کی مدد کرے۔ ایرانی شہنشاہ کے لئے یہ سنبھال موقع تھا۔ اس نے ایک ایرانی سپہ سالار دھڑکی سر کر دگی میں ایک لشکر یمن بھینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس درمیان میں سیف بن ذی یزن مر گیا۔ تاہم اس کا لڑکا معدی کرب ایرانی فوج کو یمن لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لوگ خلیج عمان کو عبور کر کے حضرموت کے ساحل پر اترے۔ وہاں سے صنعا پہنچے۔ معدی کرب نے ایرانی لشکر کی مدد سے عبشه کی فوج کو شکست دے دی اور حبشیوں کو یمن سے نکال دیا۔ اب معدی کرب صنعا کا باڈشاہ تھا تاہم ایرانی فوج بھی یہاں مقیم رہی۔ معدی کرب کے مر نے کے بعد ایرانی فوج

نے صنعت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح صنعت ایرانی سلطنت کا ایک سمندر پار صوبہ بن گیا۔ جب اسلام یمن میں پہنچا ہے تو صنعت کے ایرانی گورنر باذان تھے جو بعد کو مسلمان ہو گئے۔ مذکورہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی تو عرب کا علاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعمار کی شکار گاہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات میں ایک مصلح کے لئے بیک وقت دوراستے کھلے ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ وقت کے حالات سے متاثر ہو کر ”سامراجی طاقتوں کے خلاف سیاسی لڑائی شروع کر دے۔“ دوسرے یہ کہ خود اپنے اپنے آپ^گ کو اندر اندر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سامراج کی عمارت معمولی کوشش سے گر پڑے۔ آپ نے اپنی مہم کے لئے پہلے طریقہ کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی سورہ نمبر 105 (فیل) اور سورہ نمبر 106 (قریش) میں ابرہہ (حاکم یمن) کے مکہ کے خلاف جارحانہ منصوبہ کا ذکر ہے۔ مگر اس کے جواب میں جس عمل کی تلقین کی گئی ہے، وہ رب کعبہ کی عبادت (قریش۔ 3) ہے۔ گویا اسلامی مزاج یہ ہے کہ سیاسی چیلنج در پیش ہو تو اس کا جواب بھی عبادتی عمل کی سطح پر تلاش کیا جائے۔

پیغمبرانہ طریق کار

اسلام کا آغاز 610ء میں ہوا جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (570-632) پر پہلی وجی اتری۔ اس وقت آپ ساری دنیا میں تنہا مومن و مسلم تھے۔ 622ء میں آپؐ کے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ اور وہاں پہلی اسلامی مملکت قائم کی۔ اس وقت یہ اسلامی مملکت ایک چھوٹے سے شہر کے صرف چند حصوں پر مشتمل تھی۔ کیونکہ مدینہ کا بیشتر حصہ یہاں یا اب تک اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبضہ میں تھا۔ مگر اس کے گیارہ سال بعد جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً دس لاکھ مردیں میں (پورے عرب اور جنوبی فلسطین) پر پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد سو برس سے بھی کم عرصہ میں اسلام ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدی کی آخری حد بوداپست (ہنگری) تھی جہاں آج بھی دریائے وانوب کے کنارے ”گل بابا“ کا ترکی طرز کا مزارنشانی کا کام دے رہا ہے۔ فرانس کے بعض گرجاؤں کے مناروں میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں جن پر عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ یہ آٹھویں صدی عیسوی کی یادگار ہے جب کہ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یورپیں صوبہ تھا۔ پیغمبر عربی کی امت نے شتر بانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف دو سو برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ایران کے اصطہر، مصر کے زیس اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا فکری و تمدنی مرکز بغداد تھا۔

یہ شان دار کامیابی ایک انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعہ حاصل ہوئی جو قرآن کے لفظوں میں حسب ذیل تھا:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۝ وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنَنْ تَسْتَكْرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ (مدثر: 7-1)

اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ، لوگوں کو ڈرنا اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ اور گندی باتوں کو چھوڑ دے اور ایسا نہ کر کہ احسان کرنے اور بدله چاہے اور اپنے رب کے لئے صبر کر۔

اس پروگرام کا خلاصہ کریں تو اس کے صرف تین نکات قرار پائیں گے۔

- 1۔ ذاتی اصلاح، اس طرح کہ خدا کی عبادت کی جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر قسم کے برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔
 - 2۔ انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے اور مرنے کے بعد اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔
 - 3۔ اپنی اصلاح اور دوسروں کو آگاہی دینے کی اس جدوجہد میں جو مشکلات و مصائب پیش آئیں ان پر صبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے۔
- ### اندر ورنی طاقت

اسلامی جدوجہد اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جدوجہد ہے۔ ایک بندہ مومن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے یہاں نجات حاصل کر سکے۔ اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ کرتا ہے تو اس کے تمام جذبات اس ایک سوال پر مرکوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں حصہ دار بنے۔ وہ اپنے خیالات، عقائد، اخلاق، اعمال اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لئے فکرمند ہو جاتا ہے جو اس کو آخرت میں خدا کی کپڑ سے بچا سکیں۔ وہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے خود اول المسلمين بنتا ہے:

قُلْ إِنَّمَا إِيمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ آتَسْلَمَ (انعام: 14)

کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا بنوں۔ اول المسلمين بننا، باعتبار محرك، ایک انتہائی انفرادی واقعہ ہے۔ مگر باعتبار نتائج وہ وسیع

ترین اجتماعی واقعہ بن جاتا ہے۔ یہ گویا اپنے اندر آتش فشان کی تعمیر کرنا ہے جو بظاہر نگاہوں سے اچھل ہوتا ہے مگر جب پھٹتا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قرآن کے نزول کی یہ ترتیب کہ ابتداءً عرصہ تک وہ سورتیں اترتی رہیں جن میں اندر وہی اصلاح پر زور دیا گیا تھا، بیرونی اصلاح سے متعلق احکام بعد کو اترے، اس کی توجیہہ کرتے ہوئے محمد مار مڈیوک پکٹھال (1875-1936) نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک گہری معنویت ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر کا الہام اندر وہی چیزوں سے شروع ہو کر بیرونی چیزوں کی طرف آتا ہے:

The inspiration of the prophet progressed

from inmost things to outward things

اکثر لوگ عمل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف یورش شروع کر دی جائے۔ مگر زیادہ گہرائیل یہ ہے کہ خود اپنے اندر وہ کو تناطاقت ور بنا یا جائے کہ جب وہ پھٹے تو کوئی چیز اس کی زو سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اندر وہ کو طاقت ور بنانے سے مراد کوئی روحانی ورزش یا ”عملیات“ نہیں ہیں بلکہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح اور صبر کہا گیا ہے۔ اپنی روح اور اپنے قلب و دماغ کی گہرا سیوں میں خدائی حقیقوں کو اتنا رہا، اپنے آپ کو حسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عالم بالا سے جوڑنا، اپنے کو مکمل طور پر اس قالب میں ڈھال لینا کہ ”میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں، میری اس دنیا میں صرف ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریاں ہیں، راہ خدا میں جو کچھ پیش آئے، اس کو خاموشی سے اپنے اوپر لیتے رہنا، بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے اوپر لوٹانے کی کوشش کی جائے۔“ بس یہی وہ چیز ہیں جن کا نام اپنے اندر وہ کو طاقت ور بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا انتہائی مکمل نمونہ بن گئے یہی وجہ ہے کہ آپؐ کی شخصیت اتنی بے پناہ ہو گئی کہ جو آپؐ کی زد میں آیا مسخر ہو کر رہ گیا۔ آپؐ کا یہ اندر وہی طوفان جب پھٹا تو وہ اتنا بے پناہ ثابت ہوا کہ تقریباً

ساری آبادنیا نے اس کے اثرات محسوس کئے۔

ہندی کے ادیب سردار پورن سنگھ (1882ء-1931ء) کے مقالہ کا عنوان ہے ”بیرتا“، اس میں انہوں نے پنجاب اسلام کوتارنخ کا سب سے بڑا بیر (بہادر) بتایا ہے جو ”عرب کے ریگستان میں بارود کی طرح آگ لگا گئے۔“ گل پر تھوی بھے سے کانپ اٹھی، جو لوگ ان کے سامنے آئے وے ان کے داس بن گئے۔“ وہ بیرتا کیا ہے جو کسی کو اتنا بل والا بنا دیتی ہے، انہیں کے الفاظ میں پڑھئے:

”اپنے آپ کو ہر گھری ہر پل مہمان سے بھی مہمان بنانے کا نام بیرتا ہے، کا یہ پرش کہتے ہیں ”آگے بڑھے چلو“ بیر کہتے ہیں ”پیچھے ہٹ چلو“ کا یہ کہتے ہیں ”اٹھاؤ تلوار“ بیر کہتے ہیں ”سر آگے کرو“ بیرون کی پالیسی بل کو ہر طرح اکھٹا کرنے اور بڑھانے کی ہوتی ہے۔ بیر تو اپنے اندر ہی اندر مارچ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر دے آکاش کے کیندر میں کھڑے ہو کروے کل سنسار کو ہلا سکتے ہیں۔ بیرون بیر کیا جوٹن کے برتن کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صد یوں نیچے آگ جلتی رہے تو بھی شاید ہی بیر گرم ہو اور ہزاروں ورش برف اسی پر جمعتی رہے تو بھی کیا مجال جواس کی بانی تک ٹھنڈی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ”کام کرو، کام کرو“ پر ہمیں تو یہ باتیں نزرتھک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرنے کا بل پیدا کرو، اپنے اندر ہی اندر بر کچھ کی طرح بڑھو۔ دنیا کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کہ جس مرغ نے بانگ دی وہی سدھ ہو گیا۔ دنیا دھرم اور اُمل آدھیاتمک نیوں پر کھڑی ہے، جو اپنے آپ کو ان نیوں کے ساتھ ابھید کر کے کھڑا ہوا وہ حقی ہو گیا۔ (عبد ھچینی کا، مرتبہ مہندر پتھرویدی)

اس ”بیرتا“ یا اندر و فی طاقت کا راز پر اسرار عملیات یار و حافی و رزشیں ہیں جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں۔ ”عملیات“ کے ذریعہ جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات و حیوانات کی دنیا میں کچھ چینکار دکھا سکتی ہے۔ مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کام نہیں آتی۔ جب کہ حقیقی طاقت وہی ہے جو زندگی کے مقابلوں میں آدمی کو فاتح

اندرونی طاقت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ گونفسانی عواظف سے آزاد کر کے اس بلند تر ذہنی سطح پر پہنچا دے جہاں اس کے فیصلوں میں دوسراے اعتبارات (Considerations) کی کارفرمائی ختم ہو جائے اور حدیث کے الفاظ میں وہ ”ارنا الاشیاء کماھی“، کامقام حاصل کر لے۔ ضد، غصہ، طمع، نفرت، جاہ طلی، خویش پروری، ذاتی مفاد اور اس قسم کے دوسرے میلانات کا بالہ اس کے گرد اس کی رایوں اور اقدامات کو متاثر کرنے کے لئے باقی نہ رہے۔ ایسا شخص بے پناہ قوت تنخیر کا حامل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر جانچ میں پورا ارتتا ہے اس کے اقدامات ہر مقابلے میں لو ہے کا ہتھوڑا ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں میں مسئلہ کے تمام متوقع اور غیر متوقع پہلوؤں کی رعایت شامل ہوتی ہے۔ مخالفین اس کی صداقت اور صلاحیت کو اور زیادہ نکھارنے والی بن جاتی ہیں۔

یہاں ہم فتح مکہ کہ فوراً بعد پیش آنے والی ایک صورت حال کا ذکر کریں گے جس نے بیک وقت کئی مسئلے پیدا کئے مگر پیغمبر اسلام کی پیرتایا آپؐ کی اندرونی طاقت ہر ایک کو حل کرتی چلی گئی۔ اس اندرونی طاقت کا اظہار کہیں عفو کی صورت میں ہوا، کہیں عالی حوصلگی اور اعتماد علی اللہ کی صورت میں۔ کہیں آپؐ اس لئے کامیاب رہے کہ آپؐ گودہ نگاہ حاصل ہو گئی تھی جو ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی۔ کہیں آپؐ کے رویہ نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے کو بے غرض بنالے وہ اتنا بے پناہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔

ہجرت کے آٹھویں سال جب آپؐ نے مکہ پر قبضہ کیا تو قریش کے کچھ لوگ بھاگ کر ہوازن وثقیف کے قبائل میں پہنچے اور ان کو اسکا کرایک نئی لڑائی کے لئے آمادہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنی تمام قبائلی شاخوں کو اکھٹا کر کے 20 ہزار کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ حنین میں مقابلہ ہوا۔ جنگ کے آغاز ہی میں ہوازن کے تیر اندازوں نے جو گھاٹی میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر پر اتنی شدید تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور 12 ہزار

لشکر میں گیارہ ہزار سے بھی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بالآخر مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی کا راز پیغمبر کا وہی اندر وون تھا جو اس نازک موقع پر سکینت قلب (توبہ 26) اور اعتماد علی اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اس نے دفعتاً بازی لوٹا دی۔ آپ نے دشمنوں کے عین نرغہ میں کھڑے ہو کر یہ رجز پڑھا:

انَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبٌ
إِنَّ أَبْنَى عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

آپ نے پکار کر کہا: "اللہ عباد" (خدا کے بندو میری طرف آؤ) حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، آپ کے حکم سے انہوں نے چلا کر کہا۔ "اے شجرۃ الرضوان کے سایہ میں بیٹھ کر موت کی بیعت کرنے والو، کہاں ہو۔" جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سردار اپنی جگہ قائم ہے اور دشمنوں کی یلغار آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تو انہیں یقین ہو گیا کہ خدا کے مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وہ نئے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے۔ حتیٰ کہ جس کے اوپنے مڑنے میں دیر کی، وہ اپنی سواری سے کود کر پیدل آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ اب جنگ کا نقشہ دوسرا تھا۔ فریق مخالف کی صفوں میں بھگڑ ریج گئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں 24 ہزار اوپنے، 40 ہزار بکریاں، 4 ہزار اوقیہ چاندی اور 6 ہزار قیدی تھے۔

اس فتح کے باوجود مسئلہ نے دوبارہ نئی شرید تر شکل اختیار کر لی۔ قبیلہ ثقیف، جو قریش کے بعد عرب کا دوسرا سب سے زیادہ زور آور قبیلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مالک تھا۔ طائف میں قلعہ بند ہو گیا۔ تین ہفتہ کے محاصرہ میں انہوں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جو حنین کی جنگ میں انہیں پہنچا تھا۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لا یا۔ یہ عروہ بن مسعود ثقیقی تھے جو اپنے قبیلہ میں "کنواری لڑکیوں کی طرح محبوب" تھے۔ مگر جب وہ اسلام

قبول کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے انہیں تیر مار کر ہلاک کر دیا۔

یہاں آپؐ کی اندر ورنی طاقت ایک اور شکل میں ظاہر ہوئی۔ جب محاصرہ شدید ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپؐ طائف والوں کے لئے ہلاکت کی دعا فرمائیں۔ مگر آپؐ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آپؐ نے غصہ اور انتقام کے جذبہ کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تین ہفتہ کے بعد فوج کو حکم دیا کہ واپس چلو۔ اب آپؐ مقام جعرانہ پہنچے جہاں غزوہ حنین کا مال غنیمت جمع تھا۔ یہاں آپؐ کے لئے موقع تھا کہ ثقیف کی سرکشی کا بدلہ ان کے حلیف ہوازن سے لیں۔ مگر اس کے برعکس آپؐ نے یہ کیا کہ قبیلہ ہوازن کے بعض لوگوں کی ایک درخواست پر ان کے تمام کے نام کے تمام چھ ہزار قیدی چھوڑ دیئے اور انہیں کپڑے اور زادراہ کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کیا۔ فیاضی اور وسعت ظرف کا یہ معاملہ اپنے اثرات پیدا گئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوازن کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

اس واقعہ کا اہل طائف پر گہرا اثر پڑا۔ ہوازن اور ثقیف ایک ہی بڑے قبیلہ کی شاخیں تھیں۔ ثقیف کو جب ہوازن کے اسلام کی خبر پہنچی تو ان کے لئے یہ واقعہ محاصرہ سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دایاں بازو ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ مقابلہ آرائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

ثُمَّهُ أَنْهُمْ أُتْمَرُ وَابْيَنُهُمْ، وَرَاوَا إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لِهُمْ بِحَرْبٍ مِّنْ حَوْلِهِمْ
مِّنَ الْعَرَبِ وَقَدْ بَأْيَعُوا وَاسْلَمُوا

پھر قبیلہ ثقیف نے آپؐ سی میں مشورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اردو گرد کے عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں۔ اور وہ بیعت ہو چکے اور اسلام قبول کر چکے۔

تہذیب سیرۃ ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 107

ہجرت کے نویں سال (630) اہل طائف کا وفد مدینہ حاضر ہوا۔ انہوں نے

اسلام قبول کرنے کی پیش کش کی۔ مگر اسی کے ساتھ اپنے لئے عجیب عجیب شرطیں تجویز کیں۔ ”ان کی سرز میں کوفو جی گزر گاہ نہ بنایا جائے گا، وہ عشرہ ندیں گے۔ جہاد میں شرکت نہ کریں گے، نماز نہ پڑھیں گے، ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے گا۔“ آپ نے فرمایا تمہاری سب شرطیں منظور ہیں۔ مگر اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو (الآخر فی دین لا رکوع فيه) آپ کے اصحاب کو ان تحفظات کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا عجیب معلوم ہوا، مگر آپ کی نظریں دور تر مستقبل کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا:

بعد ذلك سيتصدقون ويجا هدون اذا اسلموا (آخر جابودا وعُذْن وَهَبْ)
جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

امام احمد نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی قبول اسلام کے لئے کسی چیز کا سوال کیا گیا۔ آپ نے ضرور اسے وہ چیز دی۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ آپ نے اس کے لئے اتنی کثیر بکریوں کے دینے کا حکم فرمایا جو دو پہاڑوں کے درمیان حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں، وہ آدمی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہا: اے میری قوم تم لوگ اسلام قبول کرلو، کیونکہ محمد انتاز یادہ دیتے ہیں کہ انہیں محتاج کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں:

فَإِن كَانَ الرَّجُلُ لِيَجِيءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يَمْسِي حَتَّى يَكُونَ دِينَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَأَعْزَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (البداية والنهاية)

آدمی آپ کے پاس آتا ہوا اور اس کا مقصود صرف دنیا ہوتی تھی۔ مگر اس پر شام نہیں گزرتی تھی کہ دین اس کے لئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے زیادہ محظوظ

ہو جاتا تھا۔

ہوازن وثقیف کا مسئلہ حل ہوا تھا کہ اسی درمیان ایک اور شدیدتر مسئلہ الٹھ کھڑا ہوا۔ ہوازن کی فتح کے بعد آپؐ گوکشیر اموال غیمت حاصل ہوئے تھے، ان کو آپؐ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکہ کے تازہ نو مسلموں میں تقسیم کیا۔ یہ چیز انصار کے بہت سے لوگوں پر شاق گزری۔ انہوں نے سمجھا کہ مکہ پہنچ کر پیغمبر کے اوپر ”قرشیت“ غالب آگئی اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کو خوش کرنے کے لئے سارا مال انہیں دے دیا۔ ایک انتہائی نازک مسئلہ تھا۔ مگر آپؐ نے جو کچھ کیا تھا، سطحی عواطف سے بلند ہو کر کیا تھا۔ اس لئے آپؐ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لئے نہایت موثر چیز موجود تھی۔

آپؐ نے انصار کے تمام لوگوں کو ایک احاطہ میں جمع کیا اور تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اے انصار یہ کیا باتیں ہیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، میرے ذریعہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تم محتاج تھے، میرے ذریعہ اللہ نے تم کو غنی بنایا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعہ تم کو متخرکیا۔“ لوگوں نے کہا ”ہاں“، آپؐ نے دوبارہ فرمایا:

وَاللَّهُ لَوْ شِئْتُمْ لِقْلَتِمْ فَصَدَقْتُمْ وَ صَدَقْتُمْ جِئْتَنَا طَرِيدًا فِي دِيْنِكُمْ
وَعَائِلًا فَاسْنِيْكُ وَخَائِفًا فَآمِنَاكُ وَمَنْدُو لَا فَنْصُرَنَاكُ اوجدتُمْ فِي
نَفُوسِكُمْ يَا مَعْشِرَ الْأَنْصَارِ فِي لِعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَالَّفَتُ بِهَا قَوْمًا أَسْلِمُوا وَ
وَكَلَّتْكُمْ إِلَى مَا قُسِّمَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا تَرْضُونَ يَا مَعْشِرَ الْأَنْصَارِ
إِنِّي زَهَبْتُ النَّاسَ إِلَى رَحْلَتِهِمْ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَ تَذَهَّبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى
رَحَالِكُمْ (رواہ احمد حدیث ابن اسحاق)

خدا کی قسم تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم کہو گے تو سچ کہو گے کہ آپؐ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپؐ گوپناہ دی۔ آپؐ محتاج آئے تھے، ہم نے آپؐ کی غم خواری

کی۔ آپ خوف زدہ آئے تھے ہم نے آپ گواہ دیا۔ آپ نے یار و مددگار آئے تھے ہم نے آپ کی مدد کی اے گروہ انصار! کیا تم دنیا کی معمولی چیز کے لئے بدل ہو گئے جس سے میں نے نو مسلموں کی تالیف قلب کی ہے اور تم کو اس چیز کا وکیل بنایا ہے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی اسلام۔ اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور سکری لے کر اپنی منزلوں کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنی منزل کی طرف جاؤ۔

یہ تقریر سن کر سارے لوگ روپڑے۔ انہوں نے چیخ کر کہا: ہم اللہ کے رسول کے ساتھ راضی ہیں۔ ”اس طرح آپ کی اندر ورنی طاقت ایک ایسی شاہ کلید بن گئی کہ جو بندرو روازہ بھی اس کے سامنے آیا، اس کا قفل اس نے کھول دیا۔ آپ کی شخصیت کے سیلاں کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہ سکی۔

خارجی انشانہ: دعوت

پیغمبر اسلام نے مکہ میں جو عملی جدوجہد شروع کی اس کی اہم بات یہ تھی کہ وہ خارجی دنیا کے خلاف ردعمل کے طور پر وجود میں نہیں آئی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بلکہ خود اپنے ثابت فکر کے تحت وضع کی گئی تھی۔ آپ کیبعثت ہوئی تو آپ کے گرد و پیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیاسی، معاشری اور سماجی تحریکوں کی بیاناد ہوا کرتے ہیں۔ مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا۔ بلکہ انہتائی یکسوئی کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کی طرف پر امن جدوجہد شروع کر دی۔

پیغمبر اسلام کیبعثت جس زمانہ میں ہوئی، آپ کا وطن وقت کی ”سامراجی طاقتوں“ کی شکارگاہ بنا ہوا تھا۔ خاص طور پر عرب کا وہ حصہ جو نسبتاً یادہ زرخیز اور مالدار حیثیت رکھتا تھا، تمام تر اغیار کے ہاتھوں میں تھا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں شام کا علاقہ پورا کا پورا روی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ اس کے اوپر روم کے ماتحت امراء عرب کی حکومت قائم تھی۔

اسی طرح جنوب میں یمن کا علاقہ ایران کے زیر اقتدار تھا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جو ایرانی گورنر مقيم تھا، اس کا نام باذان ہے۔ عربوں کے ہاتھ میں صرف حجاز، ہبامہ اور نجد کے علاقوں تھے۔ ان کے علاوہ کچھ چھیل اور بے آب و گیاہ بیابان تھے، جن میں کہیں کہیں کچھ زرخیز مکٹرے نظر آتے تھے۔ کسری (شہنشاہ فارس) نے جب آپ کے مکتب کو پھاڑ دیا اور کہایا کتب الی بہذا و هو عبدی (میرا غلام ہو کر مجھ کو اس طرح لکھتا ہے) تو اس کا محرك یہی سیاسی پس منظر تھا۔

پیغمبر اسلام کی پیدائش کے سال (570) مکہ پر ابرہہ کا حملہ بھی اسی استھصال کا ایک جزو تھا، جو عرب کے جنوبی حصہ پر قابض تھا۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ عرب کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا۔ اس میں تمام قوموں اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لئے مقدس مقام بن گیا تھا۔ تمام سال لوگ مکہ آتے رہتے تاکہ اپنے بتوں کی زیارت کریں اور نذر یہ چڑھائیں۔ اس سے مکہ کی تجارت قائم تھی۔ ابرہہ نے چاہا کہ اس تجارتی مرکزیت کو اپنی طرف منتقل کر لے۔ وہ جنوبی عرب (یمن) میں جبشی فوجوں کا سردار تھا اور حاکم جبشہ کے ماتحت تھا۔ اس نے جبشی حاکم کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن گیا۔ جبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مجبوراً اسے حاکم تسلیم کر لیا۔ ابرہہ مذہب ایسائی تھا۔ اس نے صنعت میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا۔ اس گرجا کے چند کار میگروں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب اس نے گرجا کے بارے میں پروپینڈا شروع کیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لئے آنے لگیں اور مکہ کی تجارتی اہمیت صنعت کی طرف منتقل ہو جائے۔ مگر جب ساری کوشش کے باوجود وہ زائرین کو اپنی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ مکہ کے کعبہ کو ڈھا کر ختم کر دے تاکہ لوگ مکہ کے بجائے صنعت آنے پر مجبور ہو جائیں۔ چونکہ وہ ہاتھوں کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، وہ ”ہاتھی والے“ کے نام سے مشہور ہوا۔ عرب کی تاریخ میں یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزر اعربوں نے

اس کا نام صراط افیل رکھا۔ جس چشمہ پر قیام کیا اس کو عین افیل اور جہاں سے شہر میں داخل ہوا، اس کو باب افیل کہا گیا۔ جس سال اس نے حملہ کیا تھا اس کا نام عام افیل پڑ گیا۔

ان حالات میں قیادت کے معروف تصور کا تقاضا تھا کہ آپ پڑوئی حکومتوں کی استعماری سیاست کے خلاف ایک جوابی سیاسی تحریک اٹھائیں اور وطن کو بیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لئے لوگوں کے قومی جذبات کو بیدار کریں۔ مگر آپ نے اس قسم کی کوئی تحریک اٹھانے سے مکمل پر ہیز کیا۔

اسی طرح اس وقت کی عرب دنیا ”غیر ذی زرع“ ہونے کی وجہ سے معاشیات کی کسی ذاتی بنیاد سے یکسر محروم تھی۔ یہ اس ریگستانی علاقے کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا ار نہایت آسانی سے ایک ”انتقلابی تحریک“ کا عنوان بن سکتا تھا۔ مگر آپ نے اس قسم کے کسی بھی اقتصادی نعرہ سے مکمل طور پر ہیز کیا۔ ایک بار مکہ کے شرفاء کی ایک جماعت غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے سامنے جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لئے بلا یا۔ آپ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا:

يَا حَمْدُكَ دُلْعِلْيَتْ أَنْ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا ضَيْقَ مِنَابِلْدًا وَ لَا قَلْمَاءً،
وَ لَا شَدِ عِيشَا مَنَا، فَسُلْ لَنَا رَبُكَ الَّذِي بَعْثَكَ بِمَا بَعْثَكَ بِهِ فَلِيُسِيرْ عَنَا هَذِهِ
الْجَبَالُ الَّتِي قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا وَ لِيُبَسِّطْ لَنَا بَلَادَنَا، وَ لِيَفْجُرْ لَنَا فِيهَا اِنْهَارًا كَا
نَهَارُ الشَّامِ وَ الْعَرَاقِ (تہذیب سیرۃ ابن ہشام، جلد اول، صفحہ 67)

اے محمد، آپ گوئے معلوم ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ نگاہ حال ہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ بے آب کوئی نہیں۔ ہمارے لئے زندگی نہایت مشکل ہے۔ پس اپنے رب سے کہے کہ وہ ان خشک پہاڑوں کو ہم سے ہٹا دے جنہوں نے ہمیں تنگی میں ڈال رکھا ہے اور ہمارے لئے ہمارے ملک کو کشادہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں جاری کر دے۔

مکہ کے سرداروں کی یہ تقریر اس پس منظر میں تھی کہ نجد و حجاز کے پہاڑوں نے اس علاقے کو سمندری ہواوں سے روک رکھا ہے جس کے نتیجے میں یہاں شام و عراق کی طرح بارشیں نہیں ہوتیں اور سارا علاقہ خشک پڑا رہتا ہے۔ اس طرح یہ اقتصادی ابتلاء آپؐ کو زبردست موقع دے رہا تھا کہ آپؐ اقتصادی مشن لے کر اٹھیں اور آنا فانا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں۔ مگر آپؐ نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی بلکہ اپنے آپؐ کو تمام تر کلمہ توحید کی تبلیغ کے لئے وقف کر دیا۔ اگرچہ بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ دعویٰ میں ہر قسم کے سیاسی اور اقتصادی امکانات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مگر وہ بالواسطہ نتیجے کے طور پر آتے ہیں نہ کہ براہ راست جدوجہد کے طور پر۔

پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی تھی۔ نبوت ملی تو آپؐ نے دوسری تمام باتوں کو چھوڑ کر ساری توجہ دعوت پر مرکوز کر دی۔ آپؐ نے اپنے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے خدا نے اپنی پیغام رسانی کے کام پر مقرر کیا ہے، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ آپؐ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدد کیا۔ یہ تقریباً چالیس مرد تھے جن میں سے تیس افراد جمع ہوئے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپؐ نے تقریر کی مگر کوئی آپؐ کا ساتھ دینے کے لئے نہ اٹھا:

يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلُوبِ! إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَ إِلَى النَّاسِ عَامَةً فَمِنْ يُضْمِنُ عَنِي وَ مَوْاعِيدِي وَ يُكَوِّنُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَ يُكَوِّنُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِ الْفَاءِ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْطَقَ فَقَالَ عَلَىٰ: إِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ انْتَ يَا عَلِيٌّ انْتَ يَا عَلِيٌّ (رواه البزار)

اے بنو عبد المطلب! میں تم لوگوں کی طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، پس تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کی ذمہ داری میری طرف سے لیتا ہے اور میرے اہل میں میرا قائم مقام بتتا ہے اور وہ جنت میں میرے

ساتھ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی بات کو دہرا�ا تو حضرت علی (جو اس وقت نوجوان تھے) نے کہا ”میں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: تم اے علی!

تم اے علی! ایک بار ابو جہل نے آپ گوپتھر کھینچ کر مارا جس سے خون بہنے لگا۔ یہ جرأ پ کے چچا عباس کو پہنچی، وہ اگر چہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ مگر خاندانی عصیت جو شیخ میں آئی، ابو جہل کے یہاں جا کر اس کو مارا اور پھر آپ کے پاس آ کر بولے ”بھتیجے! میں نے تمہارا بدلہ لے لیا“، آپ نے فرمایا ”چچا! مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے، قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا:

یا ابا طالب! ان ابن اخیک یا تینا فی افنيتنا و فی نادينا فی سمعنا ما یو
ذینا به فان رأیت ان تکفه عن افعال

اے ابو طالب! تمہارا بھتیجا ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آتا ہے اور ہم کو وہ بتیں سناتا ہے جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو۔

ابو طالب نے اپنے لڑکے عقیل کے ذریعہ آپ گو بلا یا اور ان سے قریش کی بات کہی:
فَلَقَ بِيَصْرَةَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِأَقْدَرُ إِنْ أَدْعُ مَا بَعْثَتْ بِهِ مِنْ
اَن يَشْعُلَ أَحَدًا كَمْ مِنْ هَذَا الشَّيْسِ شَعْلَةً مِنْ نَارٍ (البداية والنهاية)
آپ نے اپنی ٹنگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر قادر نہیں کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں، جیسے تم میں سے کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ سورج سے آگ کا ایک شعلہ جلائے۔

یہ کہہ کر آپ روپڑے (تمہے استعبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکی)

آپ کے خاندان بناہشم کو چونکہ میں ہر قسم کی سیادت حاصل تھی، ابتداءً لوگوں کو شہبہ

ہوا کہ یہ ”باجوصلہ نوجوان“ شاید بادشاہ تینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ مگر آپ کے مسلسل عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی پیغام رسانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو جہل کو دعوت دی تو اس نے کہا:

یا محمد اهل انت منته عن سب آلهتنا هل ترید الا ان نشهدا انک قد بلغت فخ نشهدا انک قد بلغت (البداية والنهائية)

اے محمد! کیا تم ہمارے معبدوں کو برا کہنے سے رک جاؤ گے تم یہی تو چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے پہنچا دیا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے پہنچا دیا۔

شعب ابی طالب کی پناہ گزینی کے زمانہ میں حرام مہینوں میں پابندی ختم ہو جاتی تھی، آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کو خرید فروخت میں استعمال کرتے تھے۔ وہ قربانی کے جانوروں کے گوشت جمع کرتے تاکہ ان کو سکھا کر کھلیں اور سال کے بقیہ مہینوں میں کھاتے رہیں۔ مگر آپ اس فرصت کے موقع پر قبل کی قیام گاہوں کی طرف نکل جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے۔ ہجرت کا سفر انتہائی نازک سفر تھا۔ مگر اس سفر میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ جاری رکھی۔ سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں متعدد واقعات کا ذکر ہے۔ مثلاً مقام غمیم پر بریدہ بن حصیب کو دعوت دینا جس کے نتیجہ میں وہ اور ان کے 80 گھروں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح رکوبہ گھٹائی پر آپ کی ملاقات دوآدمیوں سے ہوئی۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کی اور وہ ایمان لائے۔ آپ نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم قبیلہ اسلم کے لوگ ہیں۔ ہمارا پیشہ ڈاک زنی تھا۔ اس لئے ہم کو مہمانان (دوذلیل آدمی) کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

بل انتما المکمان (مند احمد بن ابن سعد)
نہیں تم دو باعزت آدمی ہو۔

آپ نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا بڑی چیز

نہیں۔ بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔
غزوہ خیبر میں جب آپ نے حضرت علیؓ کو جہنڈ اعطایا تو ان سے فرمایا:

انفذ على رسليك حتى تنزل بسا حتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخیر
هم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لان يهدى الله باك رجلا
واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم (تفقیف علیہ)

زمی کے ساتھ جاؤ۔ جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو، اور
ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک شخص کو
بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

آپؐ کی زندگی میں یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اس کا کوئی ایک عنوان دینا ہوتا وہ
”دعوت“ کے سوا کچھ اور انہیں ہو سکتا۔ آپؐ نے عام رواج کے مطابق سیاسی، معاشی، تمنی
مسائل کو شانہ نہیں بنایا، بلکہ ساری توجہ دعوت الی اللہ پر مرکوز کر دی۔ ابتداء میں بظاہر یہ ایک
کام نظر آتا تھا، مگر جب آخری نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ سرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ آجائے
تو بقیہ چیزیں خود بخود ہاتھ آتی چلی جاتی ہیں۔

صبر واستقامت

اب صبر کو لیجئے۔ صبر کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ کسی چیز میں
اثر پذیری کے بجائے جماوہ کی کیفیت بتانا مقصود ہو۔ مثلاً صبارۃ سخت بخرز میں کو کہتے ہیں جو
نچ کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح بہادر کو صبور کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ خارجی دباوہ کا مقابلہ کرتے
ہوئے اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے۔

یہ صبراں انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندر اسلام ایک مقصد بن کر شامل ہو
گیا ہو۔ اسلام اس کے اندر ایسی حرارت پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد وہ مست نہیں پڑتا۔ وہ
کمزوری نہیں دکھاتا۔ وہ عاجزی ظاہر نہیں کرتا۔ (آل عمران: 146)

ایمان و اسلام کا مطلب خدا پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص خدا پر اعتماد کر لے وہ اتحاہ طاقت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی مرحلہ پر بے صبری کا کوئی سوال نہیں رہتا۔

۱۔ ایک شخص جب اسلام کا علم بردار بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود تو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود قیود میں بندھا ہوا ہے، جب کہ دوسرا فریق آزاد ہے کہ جو طریقہ چاہے اپنی کامیابی کے لئے اختیار کرے۔ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ساری قوت دعوت و تبلیغ کی مہم پر صرف کرے، جب کہ دوسرے لوگ سیاسی کارروائیوں اور اقتصادی تدبیروں سے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنارہے ہیں۔ اس کو ہر حال میں اخلاقی حدود میں رہنے کا پابند کیا گیا ہے، جب کہ دوسرے لوگ اس قسم کی تمام بندشوں سے آزاد ہیں۔ اس طرح کی باتیں داعی اسلام کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ وہ اسلامی طریق کا روہاکا سمجھنے لگے اور اس کے دل میں یہ خیال پر ورش پانے لگے کہ اسے بھی وہی طریقے اختیار کرنے چاہئیں جو دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں ”صبر“ اس کے لئے رکاوٹ بتتا ہے۔ صبراں کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اپنے طریقہ عمل کو ہلاکا اور بے اثر سمجھنے لگے:

فَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخَفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ^④ (روم: 60)

اے نبی صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور نہ سبک کریں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔

2۔ اسلام کی راہ میں صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کی طرف سے جو مصیبتیں ڈالی جائیں، ان کو مکمل طور پر برداشت کیا جائے:

وَلَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا أَذَّيْتُمُونَا^۵ (ابراهیم: 12)

(نبیوں نے کہا) ہم صبر کریں گے اس پر جو ایذ اتم ہم کو دیتے ہو۔

یہ صبر بذات خود دعوت حق کا ایک جزء ہے کیونکہ داعی اگر مدعو کی جوابی کارروائیوں سے گھبرا لٹھے یا جزع فرع کرنے لگے تو یہ بات مشتبہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں سنجیدہ ہے اور

واقعیۃ اللہ کی رضا جوئی کے لئے لوگوں کو حق کا پیغام دینے اٹھا ہے۔ یہ مصائب تو درحقیقت اس کی سنجیدگی کا امتحان ہیں اور کسی کے لئے اس دعوت اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جب کہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ ہمکمل طور پر سنجیدہ ثابت کر دے۔

3۔ مخالف کی طرف سے جب کوئی چیز ڈالی جائے تو آدمی عام طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اُس کو خود مخالف کے اوپر لوٹا دے۔ اس کے مقابلہ میں صبر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو اپنے اوپر لے لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی اہل اسلام کو مدعوقوم کی طرف سے اس اقتصادی تعصب کا سامنا پیش آئے کہ یکساں لیاقت رکھتے ہوئے ان کی جگہ دوسرا کے انتخاب کیا جانے لگے تو یہ مطالبہ لے کر اٹھنا صبر کے خلاف ہو گا کہ ”ہمارے ساتھ مساویانہ سلوک کرو“، اس کے بر عکس انہیں یہ کرنا چاہئے کہ اس دارکو اپنے اوپر لے لیں۔ یعنی اگر ماحول مساوی لیاقت کی بنیاد پر انہیں ان کا حق دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو امتیازی لیاقت پیدا کر کے اسے حاصل کریں۔ مگر دور میں ہجرت جب شہ ایک اعتبار سے اسی قسم کا ایک عمل تھا۔ مکہ کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے لئے مکہ میں تجارت کے دروازے بند کر دیئے تو انہوں نے پڑوستی ملک میں محنت مزدوری کر کے اپنی معاش حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایمان داری اور محنت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ شاہ جوش (نجاشی) نے منادی کے ذریعہ اعلان کرایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ستائے، وہ اس کے بد لے اس مسلمان کو 8 درہم تاوان دے۔

صبر بظاہر ایک سلبی چیز معلوم ہوتی ہے۔ مگر اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ ایک اعلیٰ ترین ایجادی عمل ہے جس میں آدمی اپنے حریف کے مقابلہ میں فوری جوابی کارروائی کرنے کے بجائے دور تر عوامل پر اعتماد کرتا ہے۔ جب آپ عکسی ظلم یا اشتغال انجیزی کے جواب میں فوری اقدام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کارروائی ایک متاثر ذہن سے نکلی ہوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کا نقشہ آدمی کے ابلتے ہوئے جذبات کے زور پر بنتا ہے۔ بجائے اس کے کخارجی حقائق و امکانات کا بے لال جائزہ لے کر اس کے مطابق گھری منصوبہ بندی کی جائے، جس کا دوسرا نام صبر ہے۔

صبر کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کو فوری طور پر خود جواب دینے کے بجائے خدا کے ابدی قوانین کو اس کے خلاف کا فرما ہونے کا موقع دیا جائے۔

جب آدمی بے صبری کے ساتھ حرفیں کے مقابلہ میں دوڑ پڑتا ہے تو اس وقت اس کے رہنمای سفلی جذبات اور سطحی حرکات ہوتے ہیں۔ وہ لازماً ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔ اس کے بر عکس جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کی وہ ربانی قوت اپنا عمل کرنے کے لئے بیدار ہو جاتی ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ انسان کی عقل ایک حیرت انگیز قوت ہے۔ وہ دیوار کے اُس پار بیکھتی ہے اور مستقبل میں جھانک کر اس میں چھپے ہوئے حقائق کو معلوم کر لیتی ہے جن کے ہاتھ آجائے کے بعد حرفیں کے تمام اطراف و جوانب اس طرح قابو میں آجاتے ہیں جیسے کوئی شکار کسی مضبوط جال میں پھنس جائے اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکاری کی گرفت کو مضبوط کرنے والی ثابت ہو۔

ہجرت کا واقعہ اسی قسم کی ایک مثال ہے۔ جب قریش نے فیصلہ کر لیا کہ آپؐ کو قتل کر دیں تو ایک صورت یہ تھی کہ آپؐ ان کی تلوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بر عکس آپؐ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ دوسرا لفظوں میں اپنا مقام عمل تبدیل کر دیں۔ حضرت عائشہ بنتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپؐ روزانہ میرے والد (ابو بکرؓ) کے مکان پر آتے اور آئندہ اقدام کے بارے میں مشورہ کرتے۔ چھ مہینے تک نہایت رازداری کے ساتھ ساری تیاریاں مکمل کی گئیں۔ اس کے بعد ایک سوچ سمجھے منصوبہ کے تحت آپؐ ایک معتقد رہنمایوں کے لئے روانہ ہو گئے۔ ایک پر جوش قائد جو حرفیں سے لڑ کر شہادت کی یادگار قائم کرنے کو سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے، اس کے نقطہ نظر سے دیکھئے تو ہجرت ایک قسم کا فرار معلوم ہو گی۔ مگر تائج کے اعتبار سے دیکھئے تو یہ واحد عظیم واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موزڈیا۔

اسی طرح صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اقدام سے رک کر فطرت کو کام کرنے کا موقع دے۔ انسانی فطرت ایک دائیٰ حقیقت ہے اور اگر خارجی پر دے ہٹادے جائیں تو وہ انسانی زندگی میں انتہائی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ فطرت کے اندر ہمیشہ اس آدمی کے لئے زم گوشہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں چپ رہ گیا ہو۔ فطرت اپنی اندر ورنی آواز کے تحت مجبور ہے کہ ظالم کے بجائے مظلوم کو حق پر سمجھے۔ فطرت کی دنیا میں محرومیوں سے استحقاق پیدا ہوتا ہے اور ضبط و استقامت سے اس کا برسیر حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیغمبر اسلام اور آپؐ کے

خاندان کا مقاطعہ ہے جو نبوت کے ساتویں سال پیش آیا اور جس کے نتیجہ میں ابوہب کو چھوڑ کر سارے بنوہاشم کو ایک پہاڑی درہ (شعب ابی طالب) میں محصور ہونا پڑا۔ ایک مقصد کی خاطر نہایت خاموشی کے ساتھ بدترین ظلم کو سہتے رہنا فطرت انسانی میں اپنی بازگشت پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ تین سال گزرے تھے کہ خود دشمنوں کے اندر ابوالجھری، ہشام بن عمرو، زیر بن امیہ، زمعہ بن الاسود اور مطعم بن عدی جیسے متعدد لوگ پیدا ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے لیڈروں سے لڑ کر معادہ کو چاک کر ڈالا اور بنوہاشم کو اس ظالمانہ مقاطعہ سے نجات مل گئی۔

صبر کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس سے نصرت الہی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص صحیح مقصد کی خاطر صبر کرتا ہے تو وہ اپنے مسائل کے لئے مالک کائنات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک صحیح مقصد کے لئے مالک کائنات پر بھروسہ کرے اور وہ اس کے بھروسہ کو پورا نہ کرے۔

اس نصرت کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی شخص نہ ان کو جان سکتا اور نہ ان کا احاطہ کر سکتا۔ تاہم اسلام اور غیر اسلام کے مقابلہ میں آنے والی ایک خاص نصرت یہ ہے کہ مادی حالات میں موافق کی بیشی پیدا کر دی جائے۔ اور اہل ایمان کے دل میں اعتماد کی کیفیت ڈال دی جائے اور مخالفین کے دل میں رب عرب:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ دَفَّارَ سَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا (احزاب: 9)

اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر بیاد کرو جب تم پروفیل چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر بھیجی آندھی اور ایسا لشکر جس کو تم نہیں دیکھا۔

یہ آیت غزوہ احزاب (627) سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد پر دو چیزیں بھیجی تھیں۔ ہوا، اور فرشتوں کی فوج۔ ہوا کوئی انوکھی چیز نہیں۔ وہ ایک دبیز غلاف کی شکل میں ہر وقت کرہ ارض کے چاروں طرف لپٹی ہوئی موجود ہے۔ مگر ایک خاص وقت میں ایک مقام پر اس کے اندر تیزی پیدا کر دی گئی۔ جس کے نتیجہ میں وہ اہل ایمان کے

لئے نصرت بن گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ماڈی واقعات میں شدت پیدا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں کامیابی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

فرشتوں کی فوج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تلوار چلاتے تھے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کی نفسیاتی مدد تھی نہ کہ عام معنوں میں حربی مدد۔ وہ اس لئے آتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں ثبات اور دوسرا طرف مخالفین اسلام کے دلوں میں رعب پیدا کریں (انفال: 12) وہ مسلمانوں کی نظر میں مخالفین اسلام کی فوج کو کم کر کے دکھاتے تھے اور مخالفین اسلام کی نظر میں مسلمانوں کی فوج کو بہت زیادہ کر دیتے تھے (انفال: 44)

عہد فاروقی میں سعد بن ابی وقار اسلامی لشکر کو لے کر قادریہ میں اترے جو عربوں کے نزدیک ایران کا دروازہ تھا۔ یہاں زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑا اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ حضرت سعد نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ کہیں سے بکریاں اور گائیں تلاش کر کے لائیں۔ انہیں ایک ایرانی ملا جس سے انہوں نے بکریوں اور گائیوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ حالاں کہ وہ خود ایک چڑواہا تھا اور اس نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر اپنے مویشیوں کو قریب کے گھنے جنگل میں چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ میں یہ ہے:

فصاح ثور منها كذب الراعي، ها نحن في هذه الاجمة

ایک بیل چلا یا، چڑواہا جھوٹا ہے۔ ہم یہاں اس جھاڑی میں موجود ہیں۔ آوازن کروہ لوگ جنگل میں گھس گئے اور کچھ مویشیوں کو ہاتھتے ہوئے حضرت سعد کے پاس لے گئے۔ اسلامی لشکر کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو خدا کی ایک کھلی ہوئی امداد سمجھا۔ مگر، جیسا کہ مورخ ابن لطقطقی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ

بیل نے یہ عربی جملہ کہا کہ ”ہم یہاں ہیں“ بلکہ یہ اس کی عام آواز میں ایک ڈکار تھی۔ اور اس ڈکار سے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہاں مویشی موجود ہیں۔ (الفخری: صفحہ 79)

اللہ پر بھروسہ

”اگر دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بلاشبہ وہ خوب سنتا اور جانتا ہے، اگر وہ تم کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے (انفال: 61-62) قرآن کا یہ حکم اسلامی طریق کارکا خلاصہ ہے۔ اسلام کا طریقہ اصلاً غیر حرbi طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ فریق مخالف کی طرف سے دھوکہ کا اندیشہ ہوتا بھی اہل اسلام کو خدا کے بھروسہ پر مصالحت کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

اس حکم کا مدعایہ ہے کہ غیر حرbi میدان، بالفاظ دیگروہ میدان جہاں دوسروں سے ٹکراؤ پیدا کرنے بغیر تم اپنے لئے موقع کا رپار ہے ہو، وہاں اپنی قوتوں کو لگا دو۔ اور اس کے علاوہ عمل کے جو دوسرے دائرے ہیں، وہاں قدرت کی طاقتیوں کو برروئے کار آنے کا موقع دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی دو فریق متصادم ہوں تو وہاں تیسرا زیادہ طاقت و فریق موجود ہوتا ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنی قوتوں کو اپنے ممکن دائرہ میں محدود رکھیں تو بقیہ دائرہ میں خدا ہمارے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل شدہ دائرہ عمل کو چھوڑ کر دوسروں کے دائرہ عمل میں چھلانگ لگانا گویا خدا کے دائرہ سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ ایسا آغاز صرف غصب الہی کو بھڑکاتا ہے۔ وہ کسی کے لئے خدا کی رحمت و نصرت کو کھینچنے والا نہیں بن سکتا۔

پیغمبرِ مکہ میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں۔ ایک کوئی دور کہا جاتا ہے، دوسرے کو مدنی دور۔ مکہ اور مدینہ دو شہروں کے نام ہیں۔ ان الفاظ کو آپ لغت میں دیکھیں تو ان کے یہی معنی آپ گوہاں لکھے ہوئے ملیں گے۔ مگر کچھ معانی وہ ہیں جو تاریخ کسی لفظ میں شامل کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ابتدائی معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ دو شہروں کے نام ہیں۔ مگر تاریخ کے اعتبار سے وہ اسلامی عمل کے دو پہلوؤں کی علامت بن گئے ہیں۔ مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کے علامت۔ مکی دور اسلام کی دعوتی قوت کی حیثیت سے اٹھانے کا نام ہے اور مدنی دور اس کو ماحول میں غالب اور سر بلند کرنے کا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

ﷺ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْتَهُمْ
 تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي
 وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذِلِّكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيدِ وَمَثَلُهُمْ فِي
 الْإِنْجِيلِ كَرْزِعَ أَخْرَجَ شَطَئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ
 يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيَظَ إِلَيْهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا④

محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکرین پر سخت ہیں اور آپ س میں نرم دل ہیں۔ تم ان کو دیکھتے ہو رکوع اور سجدہ میں۔ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر نشان ہے سجدہ کے اثر سے، یہ مثال ان کی تورات میں ہے۔ اور ان کی مثال ان بھیل میں یہ ہے جیسے کھیتی نے اپنا اکھواں کا لاپھراں کو مضبوط کیا۔ پھر وہ موٹا ہوا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اپنے تنہ پر۔ وہ اچھا لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ منکروں کا دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا

ہے معانی اور اجر عظیم کا ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔

مذکورہ آیت میں تورات کے حوالہ سے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے انفرادی اوصاف کا ذکر ہے اور اس کے بعد انخلیل کے حوالہ سے ان کے اجتماعی ارتقا کا۔ پہلے جزء کی تربیت مکہ میں ہوئی اور دوسرا جزء کی تکمیل مدینہ میں۔

پیغمبر اسلام کی جو سیرتیں لکھی گئی ہیں، ان کا انداز عام طور پر یہ ہوتا ہے گویا آمنہ کے پیٹ سے ایک پُر ججو ب شخصیت نکلی اور اس نے پُر اسرار طریقوں سے پورے عرب کو مسخر کر ڈالا۔ سیرت کی کتابیں انسانی تاریخ سے زیادہ کرامات و مجزات کی ایک طسماتی داستان نظر آتی ہیں۔ یہ ذوق اتنا بڑھا کہ جن واقعات میں کوئی مجرما تی پہلو نہ تھا وہاں بھی لوگوں نے اپنے قوت تخلیل سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ نکالی۔ مثال کے طور پر صہیب بن سنانؓ کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آگے بڑھ کر روکا۔ صہیب نے کہا، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ چند وقایہ سونا جو صہیب کے پاس تھا، وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ یہیقی کی ایک روایت میں ان کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے:

فَلَمَّا آتَى قَالٌ: يَا أَبَا يَحْيَى رَبِيعُ الْبَيْعِ فَقَلَتْ يَارَسُولُ اللَّهِ مَا سَبَقْتِي إِلَيْكَ

اَحْدُو مَا اَخْبَرْتُكَ الْاجْبَرَ اَيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت صہیب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ میں دیکھا تو فرمایا: اے بویجی تھماری یہ تجارت بڑی نفع بخش رہی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے آپ تک مکہ سے کوئی نہیں آیا یہ خبر یقیناً آپ گوجر میں فرشتہ نے دی ہے۔

مگر یہی واقعہ ابن مردویہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں:

فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ رَبِيعٌ صَهِيْبٌ رَبِيعٌ صَهِيْبٌ

میں قریش کے لوگوں کو اپنامال دے کر مکہ روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: صحیب کی تجارت نفع بخش رہی، صحیب کی تجارت نفع بخش رہی۔

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے اور اسی لئے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے۔ آپ گوراستہ چلتے ہوئے اسی طرح ٹھوکر لگی جس طرح عام انسان کو لگتی ہے (بخاری) آپ کے مخاطبین اولین کو آپ کا صاحب الہام ہونا اس لئے ناقبل فہم نظر آیا کہ آپ انہیں بظاہرا پنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے تھے:

فَإِنَّكَ تَقُومُ بِالْأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ كَمَا نَلَمْتَ مَسْهَهُ (البداية والنهاية)
آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقعہ ہونے میں ہے نہ کہ پراسرار مجرا تی داستان ہونے میں۔ آپ کی کامیابی نصرت الٰہی کے تحت ہوئی، اس لحاظ سے بلاشبہ وہ مجرہ تھی۔ مگر اس مجرا کا ظہور ”بُشْرُ رَسُولٌ“ کی سطح پر ہوانہ کہ کراماتی شخصیت کی سطح پر۔

قرآن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر دی گئی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی یہی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی۔

آغاز دعوت

اپنی زندگی کے چالیسویں سال جب آپ گوغارہ میں پہلی وحی ملتی ہے تو آپ پڑھیک وہی عمل ہوتا ہے جو ایک ”انسان“ پر ہونا چاہئے۔ آپ ٹھوف زدہ حالت میں گھروپاپیں آتے ہیں۔ یہاں آپ کی بیوی خدیجہ ہیں۔ وہ خود واقعوں سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھیں کہ اس کے بارے میں غیر متاثر رائے قائم کر سکیں۔ چنانچہ وہ آپ سے کہتی ہیں:

کل او اللہ ما یخزیک اللہ ابنا، انک التصل الرحم و تحمل الكل و تکسب
 المعدم و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق (صحیح عائشہ)
 ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ آپؐ کو بھی رسوانہ کرے گا۔ آپؐ رشتہ داروں کے حقوق ادا
 کرتے ہیں۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بے روزگاروں کو کمانے کے قبل بناتے
 ہیں مہماں نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
 دعوت کی جدوجہد کے سلسلہ میں آپؐ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی
 نئے ماحول میں ایک داعی کو پیش آتی ہے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ اولاً پوشیدہ طور پر کام کیا
 جائے:

ذکر ابن اسحاق ان علی بن ابی طالب جاءء و همایصلیان۔ فقال علی: يا
 محمد ما هذا، قال: دین الله الذي اصطلح لنفسه وبعث به رسلاه فادعوك الى
 الله وحدة لا شريك له والى عبادته وان تکفر باللات والعزى، فقال علی :
 هذا امر لم اسمع به قبل اليوم فلست بقاض امراحتي احث به ابا طالب
 فکرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان یغشی علیہ سرہ قبل ان یستعلن
 امرہ. فقال لله: يا علی، اذلم تسلم فاكتم، فمکث على تلك الليلة ثم ان الله
 اوقع في قلب على الاسلام فاصبح غاديا إلى رسول الله صلی الله علیہ وسلم حتى
 جاءه فقال: ما عرضت على يا محمد فقال لله رسول الله صلی الله علیہ وسلم:
 تشهد ان لا إله الا الله وحدة لا شريك له وتكفر باللات والعزى وتبر امن
 الانداد، ففعل على واسلم . ومکث یا تیه على خوف من ابی طالب وکتم
 على اسلامه ولم یظهره (البداية والنهاية ج 3. ص 24)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب آپؐ کے گھر میں آئے، اس وقت آپؐ اور
 حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے محمد! یہ کیا ہے۔ آپؐ نے جواب
 دیا: اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لئے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لئے اپنے رسول بھیجے۔

میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلا تا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کی تلقین
کرتا ہوں۔ اور یہ کہ تم لات و عزیٰ کو مانا چھوڑ دو۔ علی بن ابی طالب نے کہا، یہ ایسی بات ہے
جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنًا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ
ابو طالب سے اس کی بابت بات نہ کروں۔ آپؐ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز
کھل جائے۔ آپؐ نے کہا اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو۔ علی بن
ابی طالب اس رات رکنے رہے پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ اگلے روز صبح وہ
رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد! کل آپؐ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔
آپؐ نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اور لات و عزیٰ کو نہ مانو، اور جن کو خدا کا شریک و سہیم بنایا جاتا ہے، ان سے اظہار بیزاری
کرو۔ علیؑ نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے آپؐ کے
پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور علیؑ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اس کو ظاہرنہ کیا۔

(اوہ خرزج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ
بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعویٰ کام کرتے (فر جعوا الی قو حشم يد عصم سرا، طبرانی)
آپؐ نے اپنی پوری زندگی میں شدت سے اس کا احتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت
سے پہلے نہ کیا جائے جب کہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 38 صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے آپؐ سے ”ظہور“ کے
لئے اصرار کیا۔ یعنی اب ہم لوگ سامنے آ جائیں اور کھلم کھلائیں کریں۔ مگر آپؐ کا جواب تھا: یا
ابا بکر! اناقلیل (اے ابو بکر! ابھی ہم تھوڑے ہیں) اسی طرح نبوت کے چھٹے سال جب
حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپؐ سے کہا ”اے خدا کے رسول! ہم کیوں اپنے دین کو
چھپائیں جب کہ ہم حق پر ہیں۔ اس کے برعکس دوسروں کا دین نمایاں رہے، حالاں کہ وہ
باطل پر ہیں، آپؐ نے انہیں بھی یہی جواب دیا: یا عمر! اناقلیل۔ آپؐ کا یہی انداز مسلسل

جاری رہا۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر اس کے استیصال کے لئے آگئے، اس وقت مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپؐ کے اصحاب نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو نبی صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا تھا: هذَا يَوْمَ لِهِ مَا بَعْدَ۔ گویا اہل اسلام کے لئے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جب کہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لئے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں۔ اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپؐ گودعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپؐ کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لئے ہمہ تن مصروف ہونا ضروری ہے۔ آپؐ نے چاہا کہ آپؐ کے خاندان کے لوگ آپؐ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپؐ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپؐ اس کام کو بخوبی طور پر انجام دے سکیں۔ آپؐ نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھے۔ ایک روایت کے مطابق 30 آدمی جمع ہوئے۔ آپؐ نے ان کو بتایا کہ خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے تم لوگ میرے ساتھ تعالیٰ کروتا کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں:

يَا بُنَىٰ عَبْدَ الْمَطْلَبِ! إِنِّي بَعْثَتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَإِيْكُمْ يَبْعَنُ عَلَىٰ إِنِّي كُوْنُ أَخِي وَصَاحِبِي - مَنْ يَضْمِنْ عَنِي دِينِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي الْأَهْلِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ كَنْتَ بِحَرَامِنْ يَقْدِمُ بِهَذَا (آخر جامع عن عائشہ)

اے خاندان عبد المطلب! میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں پھر تم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہو گا۔ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھروں کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔ ایک شخص بولا،

اے محمد، آپ تو ایک سمندر ہیں۔ کون اس ذمہ داری کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے۔

آپ کا خاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہوا۔ عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے۔ وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں۔ مگر وہ بھی خاموش رہے (فَسَكَتَ الْعَبَّاسُ خَشِيَةً أَنْ يُحِيطَ ذَلِكَ بِمَا لَهُ) مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی۔ اولاً آپ کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلدا اور اس کے بعد ابو بکر صدیقؓ کا مال کی زندگی میں آپؓ کا اقتصادی سہارا بنا رہا۔

لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لئے آپؓ بچوں کی طرح حریص تھے۔ ابن جریر نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کہہ کے ممتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور آپؓ کو بات چیت کے لئے بلا یا (بَعْثُوا إِلَيْهِ أَنْ أَشْرَفَ قَوْمًا قَدْ اجْتَمَعُوا إِلَيْكُمْ وَكُمْ) اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعًا وَهُوَ يَظْنُ أَنَّهُ قَدْ بَدَدَ الْهَمَّ فِي أَمْرِهِ بَدْءًا وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُّ رَشْدَهُمْ وَيُعِزُّ عَلَيْهِمْ عَنْتَهُمْ (ابن جریر عن ابن عباس)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے۔ آپؓ گوخيال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچھ میلان ہو گیا ہے اور آپؓ قریش کی ہدایت کے لئے بے حد حریص تھے اور ان کی ہلاکت آپؓ پر بہت گراں گزرتی تھی۔

مگر بلانے والوں نے آپؓ کو محض بحث مباحثہ کے لئے بلا یا تھا نہ کہ بات مانے کے لئے۔ چنانچہ طویل گفتگو کے بعد آپؓ غمگین واپس لوٹے:

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ حَزِينًاً آسِفًا لِمَا فَاتَهُ هَمَا كَانَ يَطْمَعُ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دُعَوا وَلِمَا رَأَى مِنْ مَبَاعِدِهِمْ إِيَّاهُ (تهذیب سیرۃ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 68)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے اس کو نہ پایا۔ وہ لوگ اس سے بہت دور تھے۔

اسی طرح ابوطالب کے مرض الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے (فخذ لnamnہ و خذله منا لیگ عنا و لنکف عنہ) ابوطالب نے آپؐ کو بلا یا اور پوچھا کہ قوم سے آپؐ کیا چاہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: تقولون لا إله الا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه۔ مگر قوم اس کو ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابوطالب نے کہا، بھتیجے! خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبه نہیں کیا۔ (وَاللَّهُ يَا أَبْنَاءَ إِخْرَاجَكُمْ مِّنَ الْمَدِينَةِ وَإِنَّكُمْ مُّنْهَىٰ إِلَيْنَا هُنَّ الظَّالِمُونَ) ابوطالب کی زبان سے یہ جملہ سن کر آپؐ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی: قال، فطبع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فیہ فجعل یقول لَهُ ای یہ افانت فقل لها استحل لك بها الشفاعة يوم القيمة (البداية والنهاية)

راوی کہتے ہیں، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی اور آپؐ ان سے کہنے لگے، اے چچا پھر آپؐ ہی اس کلمہ کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لئے آپؐ کی سفارش کرنا حال حال ہو جائے۔

آپؐ مدعو کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ہند بنت عتبہ بن ربعہ آپؐ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی۔ آپؐ نے بیعت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے حسب معمول جب یہ فرمایا: تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کر دیگی، تو ہند فوراً ابو لی:

دھل تر کت لنا اولاد نقتلهم (ابن کثیر)
(جنگ کے بعد) کیا آپؐ نے ہمارے لئے کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں۔

مگر آپ نے اس کے طنزیہ جملہ کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس کو خوشی کے ساتھ بیعت کر لیا۔ اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جسم و دماغ کی ساری طاقت لگادی۔ بلکہ اپنا سارا اثاثہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبوت سے پہلے مکہ کی ایک دولت مند خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مال دار ہو گئے تھے۔ مکہ کہ ابتدائی دور میں ایک بار سردار ان قریش نے عتبہ بن ربعیہ کو اپنا نامہ سننہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لئے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مرعوب ہو گیا:

ولم يخرج الى اهله واحتبس عنهم فقال ابو جهل: والله يا معشر قريش! ما زلت عتبة الاصباء الى محمد واعجبه طعامه وماذاك الامن حاجة اصابته، انطلقو ابنا اليه فاتوه. فقال ابو جهل: والله يا عتبة ماجئنا الا ان صبوت الى محمد واعجبك امره فان كان بك حاجة جمعنا لك من اموالنا ما يغنىك عن طعام محمد، فغضب واقسم بـا لله لا يكلم محمد ابدا (البدایہ والنہایہ جلد ۳)

اور عتبہ اس کے بعد گھر بیٹھ رہا اور لوگوں کے پاس نہ گیا۔ ابو جہل نے کہا اے برادران قریش، خدا کی قسم، میرا خیال ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا اور اسے محمد کا کھانا پسند آگیا اور یقیناً اسے کسی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑتا۔ آئہم عتبہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ وہ گئے۔ ابو جہل نے کہا اے عتبہ: خدا کی قسم ہم کو اس لئے آنا پڑتا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے اور ان کا معاملہ تم کو پسند آگیا۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں جو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دے، عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہ کروں گا۔

اسی طرح عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو قرآن سنایا۔ قرآن کے ادب نے اس کو شدید طور پر ممتاز کیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا، لوگوں کا ارادہ ہے کہ تمہارے لئے مال جمع کریں۔ کیوں کہ تم کو محمد کے مال کی خواہش ہو گئی ہے۔

اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے بیوت کا آغاز کیا۔ مگر تیرھیوں سال جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے قرض لے کر سامان سفر درست کیا۔

دعوت کی زبان

دعوت اسلامی کے بنیادی نکات، منطقی طور پر، اگرچہ اتنے معین ہیں کہ وہ انتہائی یکسانیت کے ساتھ شمار کئے جاسکتے ہیں۔ مگر دعوت کے کلمات جب داعی کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے، اور وہ داعی کی اپنی ذات ہے۔ یہ اضافہ دعوت کو ایک معین مضمون کی رویارڈ نگ کے بجائے اس کو ایک ایسا زندہ عمل بنادیتا ہے۔ جو باعتبار حقیقت ایک ہونے کے باوجود اتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست نہیں بنائی جاسکتی۔ داعی کے سینے میں خوف خدا سے لرتتا ہوا دل، مدعو کے ایمان کے لئے بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا، یہ جذبہ کہ اگر میں خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کر سکوں تو خدا مجھ سے خوش ہو جائے گا، یہ چیزیں نہ صرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کو باعتبار ظاہر انتہائی متنوع بھی بنادیتی ہیں۔ کیوں کہ مدعو کو متاثر کرنے کا پُر شوق جذبہ اس کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھے۔

پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیز کامل درجہ میں نظر آتی ہے۔ آپ شب و روز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے تھے۔ مگر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ مقرر الفاظ کو ہر ایک کے سامنے دھرا دیا کریں، بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے۔

مکہ کے ابتدائی زمانہ میں ایک بار آپ نے ابوسفیان اور ان کی بیوی ہند کو دعوت دی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ نے حسب ذیل الفاظ کہے:

یا ابا سفیان بن حرب و یا ہند بنت عتبہ! وَاللَّهُ لِتَمُوتُنْ ثُمَّ لِتَبْعَثُنَ ثُمَّ
لِي دخُلَنَ الْجَنَّةَ وَالْمَسَئِي النَّارَ وَإِنَا قُولُ لِكُمْ بِحَقٍّ
اے ابوسفیان اور اے ہند! خدا کی قسم تم کو ضرور مرنा ہے۔ اس کے بعد تم دو بارہ
اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا اور میں
جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔

ان خزینہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ایک بزرگ حصین سے آپؐ کی گفتگو اس طرح ہوئی:
قال یا حصین! کم تعبد من الله، قال سبعاعی الارض و واحد افی
السماء، قال فاذاصابك الضر من تدعوه، قال الذي في السماء، قال فاذا هلك
المال من تدعوه، قال الذي في السماء، قال: فيستجيب لك وحدة و تشرکه
معهم (الاصابه، جلد 1)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حصین! کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ حصین
نے کہا سات کی زمین میں اور ایک جو آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جب مصیبت آئے تو
کس کو پکارتے ہو۔ حصین نے کہا آسمان والے کو۔ آپؐ نے فرمایا جب مال پر تباہی آئے تو
کس کو پکارتے ہو۔ حصین نے کہا آسمان والے کو۔ آپؐ نے فرمایا وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد
رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔

امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قبیلہ کا آدمی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور دریافت کیا کہ خدا نے آپؐ کو کیا چیز لے کر بھیجا ہے (بماذ ارسلک) آپؐ نے فرمایا:
بَأَنْ تَوَصِّلَ الْأَرْحَامَ وَ تَحْقِنَ الدَّمَاءَ وَ تَوْمَنَ السَّبِيلَ وَ تَكْسِرَ الْأَوْثَانَ وَ
يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشَرِّيكَ بِهِ شَيْءٌ

یہ کہ صلح رحمی کی جائے۔ قتل ناحق سے بچا جائے۔ راستوں میں امن رکھا جائے۔ بتوں
کو توڑا جائے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔

مدینہ پہنچنے کے بعد اہل نجراں کو آپ نے دعویٰ مکتوب روانہ کیا تو اس کے الفاظ یہ تھے
انی ادعو کم الی عبادۃ اللہ من عبادۃ العباد وادعو کم الی ولایۃ اللہ
من ولایۃ العباد

میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ بندوں کی ولایت
سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں۔

ایک مستقل اور اہم ترین ذریعہ تبلیغ کا خود قرآن تھا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ملتا تو اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے۔ روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں : ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَتَلَاقَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ . فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ۔ قرآن کی کشش عربوں کے لئے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کڑخانفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے مکان کے پاس آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کر اسے سنتے۔ قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر منتاثر کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے۔ اس سے وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں (وانہ لیعلو ولا يعلی وانہ لیحطم ما تحتہ) تبلیغ اسلام کے لئے قرآن سنانا اس زمانہ میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا۔ مصعب بن عمير جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیج گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن سناتے (یحذلہم ویقص علیہم القرآن) قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا۔ (وکان یدیع المقری، حلیۃ الاولیاء جلد اول)

مکہ میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور علمی انداز میں قرآن کے اعلیٰ ادب کے زیر سایہ چل رہی تھی۔ دوسری طرف مخالفین کے پاس سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ

مکہ کے سنبھیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے مخالفین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ مکہ کے اعیان و اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ گوبلار آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کی وجہاں جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری الذمہ ہو جائیں (ابعثو الی محمد فکلموا و خاصموہ حتی تعدلوا فیہ، ابن جریر)

عربوں کی صلاحیت

جہاں تک دعوت کی قبولیت کا تعلق ہے، اس کا معاملہ صرف دعوت کی سچائی یا داعی کی جدوجہد پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ وہ مدعو کے اپنے حالات پر موقوف ہوتا ہے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عصر جمع تھا، وہ اس لحاظ سے انتہائی قبیلی تھا، اس کی ظاہری جہالت اور اکھڑپن کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی۔

30 لاکھ کیلومیٹر رقبہ والا مسٹھ اور گرم ملک اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیئے ہوئے تھا۔ ایک عرب اپنے اونٹ کو جو اس کی معاش کا واحد ذریعہ تھا، ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی کے نخیمہ میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں توار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا۔ مخالفین جب تک نخیمہ والے کو قتل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو نخیمہ سے نہیں لے جاسکتے تھے، حتیٰ کہ لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلہ کی عورتوں کے قبیلی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے اور نہ انہیں چھوکتے تھے، وہ اپنے لئے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں۔ جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتیں، حملہ کرنے والے اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے۔

یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ عرب بادیہ بالکل سیدھے سادے ”کم فہم“ لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت باشمور تھے اور بہت جلد باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔

ایک قبیلہ کے سات نو مسلم آپؐ کے پاس آئے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے پانچ چیزیں سیکھی ہیں۔ ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپؐ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں:

قالَ وَمَا الْحُصَالُ الَّتِي تَخْلَقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهْلِيَّةِ، قُلْنَا: الشَّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ
وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالصَّدْقَ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ وَالرَّضَا مِنْ الْقَضَاءِ وَتَرْكُ
الشَّيَّاتَةِ بِالْمُصَبِّبَةِ إِذَا حَلَّتْ مَالًا عَدَاءً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَهَّ أَدْبَاءَ كَادُوا إِنْبِيَاءَ مِنْ خَصَالٍ مَا اشْرَفُهَا .
(کنز العمال ج 1، صفحہ 69)

آپؐ نے فرمایا وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں۔ آنے والوں نے جواب دیا: خوش حالی میں شکر کرنا۔ مصیبت میں صبر کرنا، مذکور کے وقت سچا ثابت ہونا۔ تقدیر پر راضی رہنا۔ کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، خواہ وہ دشمن پر کیوں نہ ہو۔ یہ سن کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں۔ ان کے اندر انبیاء کی شان ہے۔ کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں۔

ضماد، قبیلہ از دشنهو کے ایک شخص تھے۔ وہ بھوت پریت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے۔ ایک بار کہ آئے تلوگوں نے آپؐ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان پر جن کا اثر ہو گیا ہے۔ ضماد اس خیال سے آپؐ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعہ آپؐ علاج کریں۔ مگر جب آپؐ کی باتیں سنیں تو کہا: ”خدا کی قسم میں نے کاہنوں اور ساحروں کی باتیں سنی ہیں اور شعراء کے کلام دیکھے ہیں۔ مگر ایسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کرلوں۔“ حسب عادت پیغمبر اسلام نے اس موقع پر کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی، بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا:

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمِدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ يَهْدِهَا اللَّهُ فَلَا مُضْلَلُ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ

فلا هادی لہ اشہد ان لا اللہ الا اللہ وحده لا شریک له
 سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا
 ہوں جس کو اللہ ہدایت دے۔ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی
 اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے
 کوئی اس کا شریک نہیں۔

مگر انہیں منقصر کلمات میں انہوں نے معانی کا خزانہ پالیا:

فقائل ضماد، اعد علیٰ کلماتك هولاً فلقد بلغن قاموس البحر

(البداية والنهاية ج 3 ص 36)

ضمام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہئے۔ یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اتر ہوئے ہیں۔

ایک عرب کے لئے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہ تھا۔ وہ خوب بھی قول و فعل میں سچ تھے اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ جیسے ہی اس کی سمجھ میں بات آجائی، وہ فوراً اسے مان لیتا۔ ابن اسحاق نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی سعد نے ضمام بن شعلہ کو اپنا نام استندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ مدینہ آئے، اپنی اوثنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور اس کو باندھا۔ اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ آپؐ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ضمام ایک بہادر اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے آپؐ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا: تم میں سے کون ابن عبد المطلب ہے (اکیم ابن عبد المطلب) آپؐ نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ ضمام نے کہا، اے محمد! آپؐ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اے ابن عبد المطلب میں آپؐ سے کچھ پوچھوں گا اور پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپؐ اس کو محسوس نہ کریں۔ آپؐ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا۔ جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ ضمام نے کہا، میں آپؐ کو قسم دیتا ہوں

آپ کے معبدوں کے معبدوں کے معبدوں کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبدوں کے معبدوں کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ گورسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے (اللہ بعثک الینار رسول) آپ نے فرمایا خدا یا ہاں۔ خمام نے کہا میں آپ گو قسم دیتا ہوں آپ کے معبدوں کے معبدوں کے معبدوں کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبدوں کے معبدوں کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کو حکم دیں کہ ہم تہا اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا یا ہاں۔ خمام نے کہا میں آپ گو قسم دیتا ہوں آپ کے معبدوں کے معبدوں کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبدوں کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ وقتیں کی نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے زکوہ، روزہ، حج اور تمام احکام اسلام کا ذکر کیا۔ ہر فریضہ کو مندرجہ بالاطریقہ پر قسم دے کر پوچھتے، یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے تو کہا:

فَإِنِّي أَشْهُدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَسَاؤْدِي هَذَا
الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه ثم لا ازيد ولا انقص

(البداية والنهاية جلد 5)

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ کوئی زیادتی۔

پھر اپنی اونٹی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے اور اپنی قوم میں پہنچ کر انہیں کر پوری بات بتائی۔ ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مردوں عورت مسلمان ہو گئے۔

ان کے اندر نفاق نہ تھا۔ اقرار اور انکار کے درمیان وہ کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے۔

جب وہ کسی کو ایک قول دے دیتے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے، خواہ اس کی خاطر جان و مال کی کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ عرب کراذر کی یہ جھلک یثرب کے قبائل (اویں و خزر) کی ان تقریروں میں ملتی ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پران کے نماندوں نے کی تھی:

ان القوم لما اجتمعوا البيعة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال
العباس بن عبادۃ بن نضلۃ اخوبنی سالم بن عوف: يا معاشر الخزرج! هل تد
رون علام تبأیعون هذا الرجل، قالو! نعم، قال انکم تبأیعونه على حرب
الاحمر والا سود من الناس، فان كنتم ترون انکم اذا انهكت اموالکم
مصيبۃ واشر افکم قتلا اسلمتبوہ فمن الان فهو والله ان فعلتهم خزی
الدنيا والآخرة وان كنتم ترون انکم وافون بما دعوه اليه على نھکة
الاموال وقتل الاشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالو افا نانا
خذله على مصيبة الاموال وقتل الاشراف، فما لنا بذاك يا رسول الله ان
نحن وفيينا، قال الجنة، قالو: ابسط يدك، فبسط يده فبایعواه۔

(البدایہ والنہایہ، جلد ۳ صفحہ: 162)

یثرب کے لوگ جب آپؐ سے بیعت کے لئے جمع ہوئے تو عباس بن عبادہ نے کہا:
اے گروہ خزر! کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر ان کے ہاتھ بیعت کر رہے ہو۔ انہوں نے
کہا ہاں۔ عباس بن عبادہ نے کہا، تم سرخ و سفید سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ
خیال ہو کہ جب تمہارا مال ضائع ہو اور تمہارے اشراف قتل کئے جائیں تو محمد (صلی اللہ علیہ
 وسلم) کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے تو ابھی ایسا کرلو۔ کیونکہ بعد کو تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم
وہ دنیا و آخرت کی رسائی ہو گی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا
کرو گے، خواہ تمہارے مال ضائع ہوں اور تمہارے اشراف قتل کئے جائیں، تو ان کو اپنے
ساتھ لے جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا و آخرت کی بھلانی ہے۔

انہوں نے کہا، ہم آپؐ کو لیتے ہیں خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کرنے جائیں۔ اے اللہ کے رسول اس کے بد لے میں ہمارے لئے کیا ہے۔ اگر ہم اس قول کو پورا کر دیں۔ آپؐ نے فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا پھر اپنا پاتھ بڑھائیے، آپؐ نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بیعت کر لی۔

واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ م Hispan تقریر نہ تھی بلکہ انہوں نے لفظ بلطف اپنے اس عہد کو پورا کیا۔ حتیٰ کہ جب اسلام غالب ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ اپنی قربانیوں کے لئے کسی سیاسی معاوضہ کے طالب نہ ہوئے بلکہ خلافت کو مہاجرین کے حوالے کر کے اس پر راضی ہو گئے اور اسی حال میں ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔

دعوت کی ہمہ گیری

ابن اسحاق نے عبد اللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب جیسے لیدر شامل تھے۔ ابوطالب کی معرفت ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپؐ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپؐ نے کہا:

کلمة واحدة تعطونيهَا تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

(المبدإ و النهاية جلد 2 صفحہ 123)

میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور مجھم تھما راطبع فرمان ہو گا۔

تو حید کا کلمہ بظاہر صرف ایک اعتقادی کلمہ ہے۔ مگر اس کے اندر ہر قسم کی انسانی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، اس لئے وہ انسانی تفییسات کی انتہائی گہرائیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اکثر خود مخالفین کے اندر اپنے حامی پیدا کر لیتا ہے۔ خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے۔ مگر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے

قلب میں ان کا پچھا کئے ہوئے تھی۔ اسلام کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بہت پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ حق قریش کی طرف نہیں بلکہ محمدؐ کی طرف ہے، اور مجھے آپؐ کے ساتھ مل جانا چاہئے:

قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم فليس في
موطن اشهد إلا انصرف و أنا أرى في نفسى أنى موضع فى غير شئ.

(البداية والنهاية، جلد 4)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا مگر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں اور یہ خیال لے کرو اپس نہ آیا ہوں کہ میں صحیح جگہ نہیں کھڑا ہوں۔

اسی طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے دل میں بہت پہلے سے اسلام کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ مثلاً خالد بن سعید بن العاص نے اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی انہیں دھکا دے کر اس میں گرانا چاہتا ہے۔ اتنے میں پیغمبر اسلام آئے اور انہوں نے آپؐ کو آگ میں گرنے سے بچالیا۔

دعوتی عمل بظاہر اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مگر بالواسطہ طور پر وہ زبردست اقتصادی عمل ہے۔ کیونکہ دعوت کے نتیجہ میں جب ایک شخص اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع بھی خود بخود اسلام کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں خدیجہؓ کی دولت اسلام کے کام آتی رہی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ ایمان لائے جنہوں نے تجارت سے چالیس ہزار درہم کمائے تھے ان کا سرمایہ اسلامی تحریک کا اقتصادی سہارا بنا۔ ہجرت کے موقع پر وہ چھ ہزار درہم لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے جس سے سفر کے تمام اخراجات پورے کئے گئے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمانؓ نے دس ہزار دینار دیئے جس سے لشکر کی

ضروریات کا تہائی حصہ ادا کیا گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے صرف ایک موقع پر پانچ سو گھوڑے جہاد کے لئے دیئے۔ اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی جان کے ساتھ ان کا مال بھی اسلام کے خزانہ کا ایک جز بن جاتا تھا۔

توحید کا نظریہ واحد نظریہ ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقاتی امتیاز کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے جب اس نظریہ کی بنیاد کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ عوام کو حیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے۔ کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید کے زیر سایہ وہ مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پاسکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے تو درباریوں پر ان کی تقریر کارڈ عمل ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھا:

فقالت السفلة، صدق والله العربي وقالت الدهاقين، والله لقد رحمي
 بكلام لا يزال عبيداً ينزعون إليه، قاتل الله أولينا ما كان أحمقهم حين
 كانوا يصغرون أمر هذه الامة (تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 36)

یونچے کے لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، اس عربی نے یونچ بات کہی۔ سرداروں نے کہا، خدا کی قسم اس نے ایسی بات پھینکی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے چائیں گے خدا ہمارے پہلوں کو غارت کرے، وہ کس قدر احمد تھے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملہ کو ہلاکا سمجھا۔

نبوت کے تیرھویں سال پیغمبر اسلام حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ مدینہ پہنچ تو یہاں کی آبادی کے تقریباً 500 آدمی آپؐ کے استقبال کے لئے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا:

الظلقاً آمنين مطاعين (البدايه والنهايه جلد 3)

آئیے، آپؐ یہاں محفوظ ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔

مدینہ کی یہ سرداری آپؐ کو کس طرح حاصل ہوئی، جواب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعہ۔ مدینہ (یثرب) کا پہلا شخص جس کو اپنے نے اسلام کی دعوت دی، غالباً سوید بن صامت خزر جی

ہے۔ اس سے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس نے کہا ”شاید آپ کے پاس دی ہے جو میرے پاس ہے“ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ وہ بولا ”حکمت لقمان“۔ آپ نے فرمایا: بیان کرو، اس نے کچھ اشعار سنائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس قرآن ہے جو اس سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو قرآن سنایا وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یثرب والپس ہو کر جب اس نے اپنے قبیلہ کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (تاریخ طبری: 232)

اس کے بعد یثرب کے ایک سردار ابو حسیم انس بن رافع مکہ آئے، ان کے ساتھ بني عبد الاشہل کے جوانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ لوگ اس لئے مکہ آئے تھے کہ قبیلہ خزر ج کی حمایت کے لئے حمایت کے لئے قریش سے معاہدہ کریں۔ آپ گواں کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا: ”تم لوگ جس کام کے لئے آئے ہو کیا اس سے زیادہ بھلی بات میں تم کونہ بتاؤ۔“ اس کے بعد آپ نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ ان کے ایک نوجوان ایساں بن معاذ بولے: ”اے قوم! خدا کی قسم یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو۔“ مگر وند کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا: دعنا منک قد جعنالغیرهذا۔ (چھوڑو، ہم دوسرے کام کے لئے آئے ہیں) وہ یثرب والپس گئے اور اس کے جلد ہی بعد اوس اور خزر ج کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو بعاثت کے نام سے مشہور ہے۔

خوبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ یثرب کے دو شخص سعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس مکہ آئے اور عتبہ بن ربیعہ کے یہاں ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام کا تذکرہ سنا تو آپ سے ملنے کے لئے آئے۔ آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنے میزبان عتبہ بن ربیعہ کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ کے یہاں سے سیدھے یثرب والپس چلے گئے۔ یہاں پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے

اہل یثرب تک اولًا اسلام پہنچایا۔ یہ نبوت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔
 نبوت کے گیارہوں سال حج کے موقع پر یثرب سے قبیلہ خزرج کے چھ آدمی آئے۔
 انہوں نے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس جا کر اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔
 اگلے سال 12 نبوی (بارہ آدمیوں نے آکر بیعت کی جو اسلام کی تاریخ میں عقبہ والی
 (621) کے نام سے مشہور ہے۔ نبوت کے تیرھویں سال اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور
 یثرب کے 75 لوگ مکہ حاضر ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ وجود میں آیا۔

مکہ کے برعکس یثرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلہ میں وہاں کے ممتاز
 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا (اسلم اشرافهم) چوں کہ یہ قبائلی دور رخا اور قبائل میں یہ
 رواج تھا کہ سردار قبیلہ کا جو مذہب ہوتا تھا، ہی پورے قبیلہ کا مذہب ہوتا تھا۔ اس لئے یثرب
 میں بہت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ حتیٰ کہ کوئی گھرنہ بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو
 (حتیٰ لہ تبقی دار من دور الانصار الا وفیها رهط من المسلمين) اس
 طرح جب یثرب کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تو فطری طور پر وہی بستی میں سب
 سے زیادہ با اثر ہو گئے۔

فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَعْزَاجَاهُمْ وَصَلَحَ امْرُهُمْ

(اخراج الطبراني عن عروة)

پس مسلمان مدینہ کے سب سے زیادہ با اثر گروہ بن گنے اور ان کا معاملہ درست
 ہو گیا۔

دعوت کے مصالح

ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمانہ کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی
 فطرت کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرب معاشرہ میں بھی فطری سادگی اور ملت
 ابراہیمی کے بقایا کے نتیجہ میں ایسے متعدد لوگ تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے اور بت پرستی کو نا

پسند کرتے تھے۔ عرف عام میں ان کو حنفی کہا جاتا تھا۔ مثلاً قس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل وغیرہ۔ ایسے ہی ایک حنفی جنبد بن عمر والدوی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے: ان لخلق خالقالکنی ما ادری من هو (ابن عبدالبرنی الاستیعاب، ج 2)

یقیناً خلق کا کوئی خالق ہے۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔

جب انہیں آپؐ کی بعثت کی خبر ملی تو وہ اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ابوذر غفاری بھی اسی قسم کے متلاشیوں میں سے تھے۔ انہیں آپؐ کے بارے میں علم ہوا تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ آپؐ کی خبر لے کر آئے۔ بھائی نے واپس جا کر آپؐ کے بارے میں جو رپورٹ دی اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا:

رأیت (جلاء مسمیہ الناس الصابی) هو اشبیه الناس بک

(آخرہ مسلم من طریق عبداللہ بن اصامت)

میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو لوگ بد دین کہتے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔

ایسے لوگوں کو آپؐ کی دعوت سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی۔

جب کسی معاشرہ میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ایسے مقامات پر پڑتا ہے جس کا اندازہ خود داعی کو بھی نہیں ہوتا۔

عرب میں جو لوگ ”دیر“ سے اسلام لائے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان پر بالکل اچانک اسلام مکشوف ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی زندگی، آپؐ کا شب و روز دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنا، مخالفتوں کی وجہ سے آپؐ کا اور آپؐ کے پیغام کا مستقل چرچا جس کی وجہ سے ہر ایک کے لئے آپؐ کا وجود ایک سوالیہ شان بن گیا تھا۔ ان چیزوں نے بے شمار عربوں کے ذہن میں اسلام کے نجع ڈال دیئے تھے۔ قبلی عصوبیت اور اسلاف پرستی کی وجہ سے ایک شخص بظاہر ضد اور عناد میں بنتا ہوتا۔ مگر اندر اندر اسلام کی

خاموش پرورش کو بھی وہ روک نہ سکتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اسلام کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ اچانک ایک واقعہ آپؐ کے اسلام کا سبب بن گیا۔ آخری مرحلہ میں آپؐ کے اسلام کا محرك بلاشبہ یہی واقعہ تھا۔ مگر اس کے ابتدائی نئے آپؐ کے دل میں بہت پہلے پڑھ کے تھے: اخرج ابن اسحاق عن عبد العزیز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن امه ام عبد الله بنت ابی حشیة اضی اللہ عنہا قالت: وَاللّهِ إِنَّا لَنَا تِرْحِلٌ إِلَى أَرْضِ الْحَبْشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا، إِذَا قِيلَ عُمَرٌ، فَوَقَفَ عَلَى وَهُوَ عَلَى شَرِكَهُ، فَقَالَتْ وَكَنَا نَلْقَى مِنْهُ أَذى لَنَا وَشَدَّةَ عَلَيْنَا، قَالَتْ فَقَالَ: إِنَّهُ إِلَّا نَطْلَاقٌ يَا إِمَّا عَبْدُ اللّٰهِ قَلْتُ نَعَمْ، وَاللّٰهُ لِنَخْرُجُ جُنُّ فِي أَرْضِ مِنْ أَرْضِ اللّٰهِ إِذَا ذَهَبْتُمْ مَا حَتَّى يَبْعَدَ اللّٰهُ لَنَا خَرْجًا، قَالَتْ فَقَالَ: صَبَّكُمُ اللّٰهُ، وَرَأَيْتُ لَهُ رُقَّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا ثُمَّ انْصَرَفْ وَقَدْ أَحْزَنَهُ فِيمَا أَرَى خَرْوَجَنَا (البداية والنهاية جلد 3 صفحہ 79) اکن ارا هاشم انصرف و قد احزنه فیما اری خروجنما

ام عبد اللہ بنت ابی حشیہ کہتی ہیں، خدا کی قسم ہم لوگ ملک جہش کی طرف کوچ کر رہے تھے اور نیرے شوہر عامر اپنی بعض ضروریات کے لئے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر بن الخطاب آگئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، وہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ ہم لوگوں کو ان سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں پہنچی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے ام عبد اللہ! کوچ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے کسی زمین میں چلے جائیں گے۔ اس لئے کہ تم لوگ ہمیں ستاتے ہو اور ہمارے اوپر زیادیتیاں کرتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے لئے کوئی نکایتی کی جگہ پیدا کر دے۔ ام عبد اللہ کہتی ہیں۔ عمر نے کہا خدا تمہارا ساتھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رقت پیدا ہو گئی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کو ہمارے کم سے جانے کا بہت ملاں تھا۔

ہر زمانہ میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو عمومی ذہنوں میں جڑ پکڑ جاتے ہیں۔ جب تک خیالات کی یہ دیوار نہ ٹوٹے کوئی آواز مجھ پر اپنی فلسفیۃ صداقت کی بنیاد پر ان کے اندر

قویت حاصل نہیں کر سکتی۔ ابتدائی زمانہ میں اہل عرب کی طرف سے جس اختلاف کا مظاہرہ ہوا، ہو محض ہٹ دھرمی یا مصلحت پرستی کی بنانے تھا۔ بلکہ اس لئے تھا کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کعبہ کے متولیوں کے سوابھی کسی کا دین صحیح اور برحق ہو سکتا ہے۔ جو عرب قبائل یہود کے پڑوں میں بسے ہوئے تھے وہ نسبتاً اس قسم کی اعتقادی پیچیدگی سے محفوظ تھے، کیوں کہ یہود سے وہ سنت رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک نبی کاظم ہوگا:

فلمَا سمعوا أقوله، انصتوا واطمأنوا نفسيهم إلی دعوته وعرفوا ما كانوا
ا يسمعون من أهل الكتاب من ذكر هم ایا بصفته وما يد عوهم اليه
صدقواه وآمنوا به۔ (طبرانی)

انصار کے لوگوں نے جب آپؐ کلام سناتو وہ چپ ہو گئے، ان کا دل آپؐ کی دعوت پر مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے اہل کتاب سے آپؐ کے جو اوصاف سنے تھے اور جس چیز کی طرف آپؐ نے ان کو بلا یا تھا، ان کو پہچانا۔ انہوں نے آپؐ کی تصدیق کی اور آپؐ پر ایمان لائے۔

عکاظ کے میلے میں جب آپؐ بنو کندہ کے خمیوں میں گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی تو ایک نوجوان بول اٹھا:

يَا قوم! اسِيقُوا إلٰي هذَا الرَّجُلُ قَبْلَ إِنْ تَسْبِقُوا إلٰيْهِ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَهْلَ
الْكِتَابَ لِيَحْدِثُونَ إِنَّ نَبِيًّا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرْمَنَ قَدَا ظَلِيلَ زَمَانَهُ۔ (ابن عجمٰن فِي الدَّلَالَلِ)
اے قوم، اس آدمی کا ساتھ دینے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ اور لوگ اس کی طرف سبقت کریں۔ خدا کی قسم، اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ حرم سے ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

مدینہ کے عرب قبائل، اوس اور خزر ج کے ایمان لانے میں پیش قدمی کرنے کی وجہ ان کا یہی ذہنی پس منظر تھا۔ تاہم مکہ کے لوگوں اور بیشتر عرب قبائل کے لئے صداقت کا معیار

کعبہ کا اقتدار تھا۔ قدیم عرب میں کعبہ کی حیثیت وہی تھی جو بادشاہی نظام میں ”تاج“ کی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ تاج کے ساتھ صرف سیاسی اقتدار کا تصور وابستہ ہوتا ہے، جب کہ کعبہ کے ساتھ اقتدار کے علاوہ تقدس کی روایات بھی کامل درجہ میں شامل تھیں۔ عام عرب اپنے سادہ ذہن کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ جو کعبہ پر قابض ہو جائے وہی صداقت کا حامل ہے۔ بنو عامر کے ذوالجوشن الضبائی بتاتے ہیں:

قال يَا ذَذِلْجُوشُنَ! إِلَّا تَسْلِمُ فَتَكُونُ مِنْ أَوْلَى الْأَمْرِ، فَقَلَّتْ لَا، قَالَ لَمْ؟ قَالَ قَلَّتْ، رَأَيْتَ قَوْمَكَ قَدْ وَلَعَوْبَكَ قَالَ: كَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرٍ قَلَّتْ قَدْ بَلَغَنِي، قَالَ فَإِنَّا نَهَدَى لِكَ قَلَّتْ أَنْ تَغْلِبَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقْطُنَهَا قَالَ لِعَلَكَ أَنْ عَشَّتْ تَرَى ذَلِكَ... قَالَ فَوَاللَّهِ إِنِّي بِأَهْلِ الْغَورِ إِذَا أَقْبَلَ رَاكِبَ فَقَلَّتْ مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالَ: وَاللَّهِ قَدْ غَلَبَ مُحَمَّدًا عَلَى الْكَعْبَةِ وَقَطَنَهَا، قَلَّتْ هَبْلَتْنِي إِمْرَى وَلَوْ! اسْلَمَتْ يَوْمَئِذِ ثُمَّ اسْأَلَهُ الْحِيَرَةَ لَا قَطْعَنِيهَا۔ (طبرانی)

آپ نے فرمایا اے ذوالجوشن تم اسلام کیوں نہیں لاتے کہ تمہارا شمارا لوگوں میں ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بدمریں ان کی شکست کے بارے میں تم نے کیا سننا۔ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کو تو تمہیں ہدایت کی بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بشرطیکہ آپ گلوب کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جائیں، آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھ لو گے اس کے بعد ایک روز میں اپنے وطن غور میں تھا کہ ایک سوار آیا۔ میں نے پوچھا لوگوں کا کیا ہوا۔ اس نے کہا خدا کی قسم محمد نے کعبہ کو فتح کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم کرے، اگر میں نے اسی دن اسلام قبول کر لیا ہوتا اور پھر محمد سے جیرہ مانگتا تو وہ ضرور دے دیتے یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جو حق درجوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ (نصر-2)

دعوت کا رد عمل

آپ نے اپنی دعویٰ مہم کا آغاز کیا، تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی معاشرہ میں نئی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ عبد بن حمید نے اپنی مند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار عتبہ بن ربعہ کو اپنا نامائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی، جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا فَرَغْتُ، اس نے کہا ہاں۔ آپ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کہا اور حم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتیں پڑھ کر اسے سنا گئیں۔ عتبہ نے سن کر کہا بس، اس کے سوا اور کچھ تمہارے پاس نہیں (حسبک! ما عندك غير هذا) آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

نرجع الی قریش فقالوا اما وراءك قال ماتر كت شيئاً ارى انكم تكلمونه الا كلمته قالوا افهل اجابك فقال نعم ثم قال لا والذى نصبهما بيئنة ما فهمت شيئاً ما قال غير انه انذركم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال قال لا والله ما نهيت شيئاً مما قال غير زكر الصاعقة (بیہقی)

پھر عتبہ قریش کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ عتبہ نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ کہتے وہ سب میں نے کہہ ڈالا۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا۔ عتبہ نے کہا ہاں۔ پھر بولا خدا کی قسم اس نے جو دلیل دی، اس سے میں کچھ نہیں سمجھا، سوا اس کے کہ تم کو دعا و ثمود جیسے کڑکے سے ڈرایا ہے۔ قریش نے کہا تمہارا برا ہوا یک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے اور تم نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کہا۔ عتبہ نے کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کڑک کے سوا کچھ نہیں سمجھا۔

کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے،

انہیں آپ کی دعوت میں اسلاف کی تحریر کی بونظر آئی۔ ابو نعیم نے دلائل النبوة میں نیز نسائی اور بغولی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت خدامکہ آئے تا کہ عمرہ کریں۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربعہ اور امية بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا:

هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه احلامنا واضل من مات مناد عاب آلہتنا، فقال امية الرجل هچنون غير شک۔ (الاصابة جلد 2 صفحہ 210)

اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا۔ ہم سب کو یقوق باتایا۔ ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا۔ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ امية بولا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

عمرو بن مرہ جہنی نے اپنے قبیلہ جہینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا: **يَا عُمَرُ وَبْنُ مَرَّةٍ! أَمْرَ اللَّهِ عِيشَكَ أَتَأْمِنُكَ بِرَفْضِ آلِهَتِنَا وَإِنْ نَفَرْقَ جَمِيعَنَا وَإِنْ نَخَالِفَ دِينَ آبَائِنَا الشَّيْمَ الْعُلَى إِلَى مَا يَدِعُونَا إِلَيْهِ هَذَا لِقَرْشِيْ مِنْ أَهْلِ تَهَامَةِ لَاحِبَا وَلَا كَرَامَةً (البداية والنهاية جلد: 2)**

اے عمرو بن مرہ! خدا تیری زندگی تنخ کر دے کیا تو ہم کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی جمیعتیہ کو منتشر کر دیں، اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو اخلاق عالیہ کے مالک تھے۔ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی طرف بلا تباہ ہے اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت۔

اس کے بعد اس نے تین شعر پڑھے۔ آخری شعر یہ تھا:

**لِيَسْفَهُ الْأَشْيَاخُ مِنْ قَدْمَضِي مِنْ رَامِ ذَلِكَ لَا اصَابَ فَلَاحَا
وَهُمَارَے گزرے ہوئے اسلاف کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا رادہ ہو وہ
کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔**

کچھ لوگوں کے لئے حسد مانع ہو گیا۔ کیوں کہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہے تھے۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے اور انسان کے لئے ہمیشہ یہ مشکل ترین امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ اعتراف کرے کہ خدا نے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے جو خود اسے نہ مل سکا۔ یہیقی نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے کہ ابو جہل بن ہشام نے ایک روز ان سے علیحدگی میں کہا:

وَاللَّهُ أَفِي لَا عِلْمَ أَنْ مَا يَقُولُ حَقٌّ وَلَكِنْ يَمْنَعُنِي شَيْءٌ إِنَّ نَبِيَّ قَصْدِي قَالُوا :
فَيْنَا الْحِجَابَةُ فَقَلَنَا نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا السَّقَايَةُ فَقَلَنَا نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا النَّدْوَةُ فَقَلَنَا نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا اللَّوَاءُ فَقَلَنَا نَعَمْ حَتَّى قَالُوا مَنَا بْنِي، وَاللَّهُ لَا فَاعْلَمْ، (الْبَدَأُ وَالنَّهَايَةُ جلد 3)

خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، حق ہے مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانع ہے۔ نبی قصی نے کہا کہ کعبہ کی دربانی ہماری ہے۔ ہم نے کہا ہاں، پھر نبی قصی نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر نبی قصی نے کہا کہ دارالندوہ میں ہمارا حق ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے۔ پس خدا کی قسم میں ہر گز اس کو نہیں مانوں گا۔

کچھ لوگ آپ کے اس لئے مخالف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں اپنا اقتصادی خطرہ نظر آتا تھا۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں تمام مذاہب کے بت رکھے ہوئے تھے حتیٰ کہ اس میں مسجد اور مریم کی بھی تصویریں تھیں۔ اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا۔ چار رام مہینوں کی غرض بھی یہی تھی۔ کیوں کہ اس زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے۔ اگر توں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لئے نہ آتا اور مکہ کا بازار جو چار مہینوں تک لگا رہتا تھا، بند ہو جاتا۔ اس لئے مکہ کے باشندے آپ کی دعوت کو اپنے لئے خطرہ محسوس

کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر توحید کا دین فروع پا گیا تو یہ غیر ذمی زرع علاقہ بالکل تباہ ہو جائے گا نیز کعبہ کی تولیت نے قریش کو مختلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا۔ ایک سورخ لکھتے ہیں:

كانت أموالها وتجارتها تسافر في الشرق والغرب في ظلال معاهدات
تجارية بينها وبين اهم وثانية مثلها كفارس وأمم مسيحية كاجشة و
كمثل بيذ نطة وكانت قريش تتصور ان تأييد ها لرسالة محمد انما يعني
شيئاً واحداً هون ان تتحلل الامم المجاورة لهابل وقبائل العرب نفسها
المقيمة على الوثنية من تعهداتها بجهاية تجارة قد يعيش وقوافلها وآذا حدث
ذلك فهذا يعني موت قريش تجارياً واقتصادياً وانتهاء عصر سيادتها على
العرب.

قریش کے اموال اور ان کی تجارتیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھیں۔ یہ سفر تجارتی معابر دوں کے تحت ہوتا تھا جو انہوں نے دوسری قوموں سے کر رکھا تھا۔ مثلاً فارس، جبشہ اور بیزنطینی سلطنت۔ قریش کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے رسالت محمدی کی تائید کی تو اس کا مطلب صرف ایک ہو گا، وہ یہ کہ پڑو سی قومیں اور عرب کے بت پرست قبائل معاهدات ختم کر دیں گے جو انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کر رکھے ہیں اور جب ایسا ہو گا تو یہ قریش کی تجارتی موت کے ہم معنی ہو گا اور عرب پران کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ واقعہ کی آیت (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنْكُمْ تُكَذِّبُونَ) کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام کی دعوت توحید کا انکار کر کے تم اپنی اقتصادیات اور اموال کو محفوظ رکھو گے۔

آپؐ کی دعوت کے نتیجہ میں آپؐ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا کیا یہی وہ ہیں (اہو هو، ابو یعلی):

ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون اليه بلا صابع (احمد،روايت جابر)
آپ صفا فلوں کے درمیان چلتے تو لوگ انگلیوں سے آپ کی طرف اشارہ کرتے۔

اب کوئی مکہ آتا تو واپس جا کر اپنے ساتھی کو دوسرا باتوں کے ساتھ یہ خبر بھی دیتا کہ
محمد بن عبد اللہ تنسیا و قد تبعه ابن ابی قحافة (محمد بن عبد اللہ نے نبوت کا دعویٰ
کیا ہے اور ابن ابی قحافة ان کا ساتھ دے رہے ہیں) قریش نے آپ کا نام محمد کے بجائے
沫م رکھ دیا۔ وہ آپ پر تحقیق اسلام اور تسفیہ آباء کا الزام لگاتے۔ آپ کے راستہ میں رات
کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے۔ ایک بار آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا: یا بني عبد
مناف، ای جوار هذا، تہذیب سیرۃ ابن ہشام، 86 (اے گروہ قریش یہ کیسا پڑوسن ہے)
ابو طالب کی زندگی تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کا روایی کرنے کی ہمت نہ
کر سکے۔ کیونکہ قبلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبلیہ بنی ہاشم سے جنگ
کرنے کے ہم معنی تھا۔ عمر بن الخطاب جب اسلام سے پہلے ایک بار تواریخ کر آپ کے قتل
کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کافی تھا:
کیف قامن من بني هاشم اذا قتلت محمدًا . جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف
جارحانہ ارادہ کرتا تو فوراً یہ سوال اس کے سامنے آ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو جارحانہ
مخاللم ہوئے وہ زیادہ تر غلاموں اور لوئندیوں کے خلاف ہوئے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے
حضرت عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں سات افراد نے مکہ میں اسلام کا
اعلان کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمارة، سعید، صہیب، بلال اور مقداد:

فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعینه واما ابو بکر منعه
الله بقومه واما سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم ادرع الحدید
وشهروهم في الشمسم۔ (احمد،روايت ابن مسعود)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے پچھا کے ذریعہ محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکرؓ کی

حفاظت ان کی قوم کے ذریعہ کرائی۔ بقیہ مسلمانوں کو مشرکین نے پکڑا۔ ان کو لو ہے کی زر ہیں پہننا نکیں اور سخت دھوپ میں انہیں تپایا۔

امام یقینی نے حضرت عبد اللہ بن جعفرؑ سے روایت کیا ہے کہ جب بن ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بد تیز شخص نے آپؐ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ آپؐ گھر واپس آئے تو آپؐ کی ایک لڑکی نے مٹی جھاڑی۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا: مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے:

لیامات ابو طالب تجھمیوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا عم اما اسرع ما وجدت فقدك (ابنیم فی الحلیة، ج 8)

ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش مکہ نے آپؐ کے ساتھ نہایت سختی کا برداشت کیا، آپؐ نے فرمایا: پچھا، آپؐ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنی جلد ہو گیا۔

ابو طالب کی وفات کے بعد قریش میں آپؐ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ ابو جہل کا آپؐ کے سر میں اوجھڈانا اور عقبہ بن معیط کا آپؐ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا اسی دور کے واقعات ہیں جب کہ گلا گھونٹ کر آپؐ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بظاہر آپؐ کے خلاف جارحانہ کارروائی کے لئے راستہ صاف ہو گیا تھا تاہم ایک قسم کی جھجک اس لئے باقی تھی کہ یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ خود مشرکین میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کے تحت آپؐ کی حمایت کرتے تھے۔ مثلاً ابو جہل نے جب پہلی بار آپؐ کے سر اور گردن میں اوجھڈا کر آپؐ کا گلا گھونٹنا چاہا تو ابو انخری کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا، جہاں ابو جہل فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تحقیق کے بعد جب واقعہ صحیح نکلا تو اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔

مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک، اپنے خلاف تقید سننے کے لئے، ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ پھر قدیم زمانہ میں چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی اس لئے اس شدت کے حق میں سیاسی اساب بھی جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے ماحول میں توحید کی دعوت آپؐ کے لئے انہائی صبر آزماثابت ہوئی۔ ابتدائی تین سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپؐ پر ایمان نہ لاسکا۔ دو مرلبع کیلو میٹر میں آباد مکہ میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا۔ اسی طرح وہ آپؐ کے ساتھیوں اور طرفداروں سے بھی خالی تھا۔ بستی میں صرف چار آدمی تھے جو آپؐ کے قریب ہو سکتے تھے: خدیجہؓ، علیؓ، زیدؓ اور ابو بکرؓ۔ اگر حضرت ابو بکرؓ کی بیچی عائشہؓ کو بھی شامل کر لیا جائے، جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھیں، تو آپؐ کے حامیوں کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔

تین سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، اس وقت یہ حال تھا کہ آپؐ گھر سے باہر نکلتے تو دیوانوں کی طرح آپؐ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپؐ گوگالیاں دے رہی تھی اور آپؐ گوبرا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا۔ مکہ کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اس کو ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپؐ کے پچھا جمزہ کے یہاں گیا ”آپؐ کی غیرت کو کیا ہوا“، اس نے کہا ”لوگ آپؐ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپؐ ان کی مدد نہیں کرتے“، حمزہ بن عبدالمطلب کی عرب غیرت جوش میں آئی، اسی وقت ابو جہل کے یہاں پہنچے اور اپنی لو ہے کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا کہ ”آن سے میں بھی محمدؐ کا دین قبول کرتا ہوں، تم کو جو کرنا ہو کرو“۔ (دینی دین محمد، فامنعوا فی ذلك ان کنتم صادقین، طبرانی)

حمزہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ اس وقت مکہ میں دو انہائی با اثر افراد تھے۔ ایک عمر بن الخطاب، دوسراے ابو جہل بن ہشام۔ آپؐ نے دعا فرمائی کہ خدا یا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ

اسلام کو طاقت پہنچا (اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن هشام) آپ کی یہ پکار اول الذکر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمرؓ کا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمان ابن ارقم کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں دار ارقم میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے۔

مگر جو لوگ مروجہ نظام کے زیر سایہ عمل کر رہے ہوں، ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عارضی وقہ کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آپؐ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپؐ قتل نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق کسی قبیلہ کے ایک فرد کو قتل کرنا پورے قبیلہ سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا۔ یہی مسئلہ تھا جس کی بنا پر حضرت شعیبؓ کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے قبیلہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے (ہود۔ 91) قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپؐ کے چچا ابوطالب بن عبد العزیز سے مطالبہ کیا کہ وہ آپؐ کو قبیلہ سے خارج کر دیں تاکہ قریش کے لئے آپؐ قتل کرنا ممکن ہو جائے۔ مگر ابوطالب کی غیرت اس کے لئے تیار نہ ہوئی۔ ایک بار قریش کی شکایت پر جب ابوطالب نے آپؐ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پر ترقی کرنا چھوڑ دو تو آپؐ کو اندیشہ ہوا کہ وہ آپؐ کو قریش کے حوالے کر دیں گے (فظن انه قد بدال عبده فيه و انه مسلميہ) مگر ابوطالب نے فوراً یہ کہا کہ آپؐ گو مطمئن کر دیا: وَاللَّهِ لَا إِسْلَمَكَ لِشَعِيْبَ ابْدَا (تمہذیب سیرۃ ابن ہشام، جلد اول، صفحہ 60) اب قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کا ساتواں سال تھا، اس کے بعد ابوطالب آپؐ کو اور آپؐ کے خاندان کو لے کر مکہ کے باہر نکل گئے اور ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کو شعبہ ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگلی درختوں کے سوا اور کوئی چیز نہ

تھی۔ آپ تین سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارہ کرتے، اس سے مستثنی صرف وہ چار ہر ام مہینے تھے جب کہ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اور اس کو سکھا کر رکھ لیتے جو عرصہ تک غذا کا کام دیتا تھا۔

تین سال بعد نبوت کے دسویں برس معاهدہ ختم ہو گیا مگر اس کی شدت ابوطالب کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابوطالب کے انتقال (620) کے بعد قبیلہ کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبد العزی (ابولہب) بن ہاشم کا سردار بن گیا۔ اب دشمن خود نج کی کرسی پر تھا۔ اس نے آپ قبیلہ سے خارج کئے جانے کا اعلان کر دیا۔

قبیلہ سے اخراج

عرب کی صحرائی زندگی میں کسی شخصی کا قبیلہ سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے۔ کیوں کہ قبائلی نظام میں، جب کہ کوئی ذمہ دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص کسی قبیلہ کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا۔ منی کی قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ قبیلہ نے ماننے سے انکار کیا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروق عبسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے:

فطیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی میسرۃ فکلمہ، فقل میسرۃ:
ما احسن کلامک و انورہ ولکن قوہی یخالفونی و انما الرجل بقومہ (البدایہ
والنهایہ، جلد ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ سے امید ہوئی۔ آپ نے ان سے بات کی، میسرہ نے جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے۔ مگر میری قوم خالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔

ان حالات میں قبیلہ سے اخراج آپ کے لئے انتہائی سنگین واقعہ تھا۔ اب اپنے دلن میں آپ کے لئے کوئی سایہ نہ تھا۔ آپ کے لئے واحد صورت یہ تھی کہ اپنے لئے کوئی دوسرا حمایتی قبیلہ تلاش کریں۔ مکہ سے نکل کر طائف جانا اس سلسلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی۔ حضرت عائشہؓ سے اس سفر کی رواداد بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا: اذ عرضت نفسی علی ابن عبدیا لیل بن عبد کلال (جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبدیا لیل کے سامنے پیش کیا) عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں:

ومات ابو طالب وا زداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم
شدّة فعمد الى ثقيف يرجوان يو و و كونصر و و (ابن عيم دلائل النبوة)

ابو طالب کی وفات کے بعد آپؐ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں۔ اس وقت آپؐ نے قبیلہ ثقیف (طائف) کا رخ کیا۔ اس امید میں کہ وہ آپؐ کو پناہ دیں گے اور آپؐ کی مدد کریں گے۔

مگر وہاں کے لوگوں نے آپؐ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا، اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت آپؐ کے لہلہاں چہرہ سے نکلی تھی:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوكُ اضْعُفْ قُوَّتِيْ وَ قَلْهَ حِيلَتِيْ وَ هُوَ أَنْجَىْ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (البداية والنهاية، جلد 3)

خدا یا میں تھجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

طائف سے لوٹنے ہوئے آپؐ نے ان سے کہا: تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی خبر مکہ تک نہ پہنچ ورنہ انہیں مزید جسارت ہو جائے گی۔ (تہذیب سیرۃ ابن ہشام، 98) طائف سے واپس ہو کر دوبارہ آپؐ مکہ کے باہر مقیم ہوئے اور شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کر کوئی آپؐ کو اپنی شخصی حمایت میں لے لے تو مکہ میں آ کر رہ سکیں۔ بالآخر

مطعم بن عدی نے آپؐ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سایہ میں آپؐ دوبارہ
مکہ میں داخل ہوئے۔

اب آپؐ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف میلیوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکہ
آتے ہیں، ان میں جائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ آپؐ گواپنی حمایت میں لے لیں۔ آپؐ
نے اپنے چچا عباس سے کہا:

لا اری لی عندک ولا عند اخیک منعہ فهل انت مخرجی الی السوق غدا
حتی نقری منازل قبائل الناس (البدایہ والنہایہ، جلد ۳)

تمہارے اور تمہارے اقربا کے یہاں میرے لئے حفاظت نہیں۔ کیا آپؐ گل مجھے
بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہریں اور ان سے بات کریں۔

آپؐ ایک ایک قبیلہ کی قیام گاہ پر جاتے اور اس سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے یہاں
حفاظت کا کیا انتظام ہے (کیف المنعہ فیکم)۔ ان کے سامنے اپنے آپؐ کو پیش
کرتے (یعرض عليهم نفسہ) ان سے کہتے کہ میرے قبیلہ نے مجھ کو نکال دیا ہے
(کذبی و طروی) تم مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لوتا کہ میں تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام
دے سکوں (یمنعوني ویؤوونی حتى ابلغ عن الله عز و جل ما ارسلني به،
(77) مورخین نے اس سلسلے میں پندرہ قبیلوں کے نام لکھے ہیں جن سے آپؐ غرداً فرداً ملے۔

مگر قبائل کو معلوم تھا کہ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرناک
ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے آپؐ گواپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلہ کے کچھ لوگوں
میں آپؐ کی بابت نری پیدا ہوئی تو اس کے ایک بزرگ نے کہا:

اخرجته عشیرته و تزوونه انتم تحملون حرب العرب (ابونعیم فی دلائل النبوة)
اس کے قبیلہ نے اس کو نکال دیا ہے اور تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو کیا تم تمام
عرب سے اڑائی مول لینا چاہتے ہو۔

وہ جانتے تھے کہ کسی قبیلہ سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا اس قبیلہ سے اعلان جنگ کے ہم معنے ہے اور جب کہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے ملک پر سیاست حاصل ہوتا مسئلہ اور بھی زیادہ سُکلین ہو جاتا ہے۔ عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے۔ عرب تاریخ میں یہ پہلا نامایاں واقعہ تھا کہ آپؐ کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے، مگر کوئی آپؐ کو پناہ دینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل۔ اس کی وجہ آپؐ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپؐ کا ”طرد“ کرنے والے قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم معنی تھا۔ یہی پس منظر تھا جس کی بنی پرانصار سے بیعت کے وقت ابوہیثم بن التیہانؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

فَاعْلَمُوا اَنَّهُ اَنْتُ خَرْجُوْهُ رَمْتُكُمْ لِعَرَبٍ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ (طبرانی)
جان لو، اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنالیں گے۔

اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے، ان کے پڑوں کی غیر عرب حکومتوں سے معاهدات تھے، وہ ڈرتے تھے کہ آپؐ جیسی ایک تنازعہ شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ البدایہ و النہایہ میں ہے کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلہ میں گئے وہاں بنو شیبان بن ثعلبہ کے سرداروں سے آپؐ کی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے آپؐ کے پیغام کی تحسین کی۔ مگر آخر میں ہانی بن قبیصہ نے کہا کہ ہم کسری (شاہ فارس) کی مملکت کی سرحد پر بے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معاهدے ہیں:

وَلَعَلَ هَذَا لِمَرِ الَّذِي تَدْعُوا إِلَيْهِ تَكْرِهُ الْمُلُوكُ (البدایہ و النہایہ)

اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں میں بلاتے ہیں شاید وہ بادشا ہوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس زمانہ میں آپ پر جو بے لسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلہ میں روایات میں آئے ہیں۔ ایک بار آپ ایک قبیلہ میں گئے جس کو بنو عبد اللہ کہا جاتا تھا: فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتى انه ليقول :يابني عبد الله ! ان الله قد احسن اسم ابيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم (البداية والنهاية) ان کو آپ نے خدا کی طرف بلا یا اور اپنے آپ گوان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ گو اپنی حمایت میں لے لیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ہے بنو عبد اللہ ! اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔

اس طرح مکی زندگی کے آخری تقریباً تین سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے میں گزر گئے۔ مگر ہر قسم کی جدوجہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپؐ کی حمایت کے لئے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ بعض قبائل کہہ اٹھے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپؐ ہم سے مایوس ہو جائیں (اما آن لک ان تیاس منا) بالآخر اللہ تعالیٰ نے یثرب (مدینہ) کے قبائل اوس اور خزرجنگ کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اوس اور خزرجنگ کی اس آمادگی کا ایک خاص نفیاً پس منظر بھی تھا۔ قبائل یہود کے پڑوں میں بے ہوئے تھے۔ خبر کے یہودی اس علاقہ کی بہترین زمینوں پر قابض تھے، تجارتیں بھی انہیں کے قبضہ میں تھیں۔ چنانچہ یثرب کے عربوں (اویں خزرجنگ) کی معاشریات کا بڑا ذریعہ خبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا۔ بھرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد بنوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپؐ کی زبان پر یہ شعر تھا (البدایہ والنہایہ)

هذا الحال لا مجال خيير
هذا ابرٰ بنا واطهر
(یہ مزدوری ہے مگر خیر کی مزدوری کی طرح نہیں۔ ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت
بہتر اور بھلی ہے)

یہودیوں کے اقتصادی غلبہ اور استھصال کی وجہ سے ان میں اور اوس و خزر ج میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ ان سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نئی ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کرم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیں گے۔ یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، (البقرة: 89) اوس و خزر ج کے لوگوں نے آپؐ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا ”بندا ہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ بہود سبقت کریں ہمیں آپؐ پر ایمان لا کر آپؐ کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہئے۔“ اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اوس و خزر ج کے لئے آپؐ کی بات کو سمجھنا اور اس کو مان لینا دیگر عرب قبائل کے مقابلہ میں آسان ہو گیا اور انہوں نے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

اب وہ وقت آگیا تھا جس کے آپؐ برسوں سے منتظر تھے۔ آپؐ گوایک ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں قبائلی حمایت کے تحت اپنی جدو جہد کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنادیں۔ اہل یشرب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکھٹا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جدو جہد کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھا جاسکے۔ چنانچہ اوس و خزر ج نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ:

قال: فلم يلبث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا یسیر احتی خرج
إلى اصحابه فقال لهم: احمدوا اللہ کثیرا فقد ظفرتاليوم ابناء ربیعة باهل

فارس، (البدایہ والنهایہ، جلد 3، صفحہ 145)

آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا۔ خدا کا شکر کرو، اللہ نے آج

کے دن ربیعہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ دے دیا۔

آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کے انتہائی اخفا کے باوجود قریش کو بھی خبریں مل رہی تھیں۔ طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے:

ان مشر کی قریش اجمعوا امرهم ومکرهم حسین ظنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج و علیبوا ان اللہ قد جعل لة بالمدینۃ ما وی و منعہ و بلغهم اسلام الانصار و من خرج الیہم من البها جرین، فاجعوا امرهم علی ان يأخذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما ان يقتلوه واما ان يسجنوه واما ان يوثقوه واما ان يخرجوه (اخراج الطبرانی عن عروہ مرسلا)

مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لئے مدینہ میں ٹھکانا اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے اور انہوں نے سنا کہ الانصار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ گور فتا کر لیں اور اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں۔

اوہ خزرج کے ایمان کے بعد آپ نے چھ مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔

اہل شریب کا اسلام

قدیمی شریب (مدینہ) میں دو عرب قبیلے اوس اور خزر ج آباد تھے۔ اسی کے ساتھ وہاں چند یہودی قبیلے بھی تھے۔ یہود نے اوس و خزر ج کو باہم لڑا کھا تھا تاکہ وہ یہود کے مقابلہ میں کمزور رہیں اور ان کی مضبوط جمعیت بننے نہ پائے اور اس طرح یہود کی بالا اتری ان کے اوپر قائم رہے۔ ہجرت نبوی سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قبیلہ خزر ج یہود یوں کے ابھارنے سے اوس کے خلاف آمادہ جنگ ہو گیا۔ قبیلہ اوس کے ایک سردار ابو الحسیر انس بن رافع چند آدمیوں کو لے کر مکہ آئے تاکہ اپنے حریف کے مقابلہ میں قریش کی مدد حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔

ان کے وفد کے ایک نوجوان ایاس بن معاذ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو (هذَا وَاللهُ خَيْرٌ مَا جَعَلْتُمْ بِهِ) مگر ان کے ساتھیوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آسکی۔ ابو الحسیر انس بن رافع اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر ایاس بن معاذ کے چہرہ پر چھکنگی اور کہا: ان باتوں کو رہنے دو، میری زندگی کی قسم ہم تو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے آئے ہیں (دُعَنَا مِنْكَ فَلِعُمرِي لَقَدْ جَعَنَالغَيْرِ هذَا)

اوہ کا وفد اسلام قبول کئے بغیر شریب واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اوس اور خزر ج کے درمیان وہ جنگ ہوئی جو جنگ بُعاث کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ دوسرے قبیلے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے۔ اس جنگ میں پہلے خزر ج نے اوس کو شکست دی۔ اس کے بعد اوس نے اپنے سردار ابو اسید کی قیادت میں خزر ج کو شکست دی۔ دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو

زبردست نقصانات پہنچائے۔ حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کے باغات اور مکانات جلاڑا لے۔ دونوں عرب قبیلے خود ہی اپنے ہاتھوں کمزور ہو کر رہ گئے۔

اس جنگ کا فائدہ براہ راست یہود کو پہنچا۔ انہوں نے یثرب میں برتری کا مقام حاصل کر لیا۔ جب جذبات ٹھنڈے ہوئے تو دونوں قبائل کے سنجیدہ لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اپنے کو خود اپنے ہاتھوں ہلاک کر کے دشمن کو موقع دے دیا کہ وہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لے۔ دونوں قبیلوں کے باشورو لوگوں نے طے کیا کہ وہ اپنے اختلافات کو بھول جائیں اور مشترکہ طور پر اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیں جو ان کے معاملات کا نظم کرے۔ اس کے لئے عبد اللہ بن ابی خزر جی کا انتخاب ہوا جو ایک صاحب شخصیت آدمی تھا اور اپنے اندر قائدانہ اوصاف رکھتا تھا۔ عین اسی زمانہ میں یہ واقعہ ہوا کہ قبیلہ خزر ج کے کچھ لوگوں نے کعبہ کی زیارت کے ارادہ سے مکہ کا سفر کیا۔ یہاں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے ان کو بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تم لوگ میری دعوت کو قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد معاً ان کو یاد آیا کہ یہود بہت دونوں سے ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی غلبہ والا ظاہر ہونے والا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہو کر تم کو شکست دیں گے اور تمہارے اوپر غلبہ قائم کریں گے۔ یثرب والوں نے کہا: اے لوگو، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہیں جن کی خبر تم کو یہود دیتے تھے۔ دیکھو، وہ تم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کرنے پائیں۔

چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے مزید کہا: ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان میں جتنا شروع دعاوت ہے اتنا کسی اور قوم میں نہیں۔ شاید اللہ آپ کے ذریعہ ان کو متحکم کر دے۔ ہم واپس جا کر اس دین کو ان کے سامنے پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو اس دین پر جمع کر دیا تو آپ سے زیادہ اس ملک میں کوئی طاقت ورنہ ہو گا (سیرۃ ابن ہشام، جز ثانی، صفحہ 38)

تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد یثرب کے لوگ جو ق در جو ق اسلام لائے۔ وہ اسلام کے انصار (مدگار) بن گئے۔ ان کی قربانی اور تعاون سے اسلام کو عرب میں غلبہ حاصل ہوا۔ یثرب کے لوگوں نے ہجرت سے پانچ سال پہلے آپؐ کی دعوت کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر پانچ سال بعد یہی لوگ آپؐ کے مومن بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی ملاقات کے وقت ان کے ذہن میں جنگ کے خیالات بھرئے ہوئے تھے۔ وہ سارے معاملہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کا ایک دشمن ہے اور اس دشمن کو انہیں شکست دینا ہے۔ ان کی نفیسیات پر جنگ کے مسائل چھائے ہوئے تھے۔ اس ذہنی پس منظر میں خدا اور آخرت کی باتیں انہیں غیر متعلق بلکہ تباہ کن معلوم ہوتی تھیں۔ ان کا ایسا نظر آتا تھا گویا ان کو اصل محاذ سے ہٹایا جا رہا ہے۔

مگر جب جنگ بعاثت میں ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد ان کے حصہ میں صرف تباہی آئی۔ حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہو کہ یہود ان کو لڑاکہ ران کی عرب نسل کا خاتمه کر دیں گے تو ان کا ذہن بدلا شروع ہو گیا۔ اب وہ معاملہ کو جنگ سے وسیع تردارہ میں رکھ کر دیکھنے لگے۔ اب وہ جنگ کے بجائے امن، اختلاف کے بجائے اتحاد کی اصطلاحوں میں سوچنے لگے۔ ان کو نظر آیا کہ اصل مسئلہ اوس و خزر ج کا نہیں بلکہ اوس و خزر ج کے مقابلہ میں یہود کا ہے۔ اس کا حل انہیں یہ نظر آیا کہ ان کا ایک عقیدہ ہو جو قبائلی تفریق کو ختم کرے اور ان کے لئے نظر یاتی اتحاد کی بنیاد فراہم کرے اور اسی کے ساتھ ایک شخصیت ہو جو ان کو باہم جوڑے اور ان کی مشترکہ قائد بن سکے۔ یہ دونوں چیزیں (نظریہ اور شخصیت) انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل گئیں اور انہوں نے لپک کر اس کو قبول کر لیا۔

اسی لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا بعاثت کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس کو اللہ نے اپنے رسول کی تائید کے لئے فراہم کیا تھا (کان یوم بعاثت یوم مقتدہ اللہ تعالیٰ رسولہ)

ہجرت

ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اسلامی کلینڈر کے آغاز کے لئے استعمال کیا۔ مگر اس واقعہ کی اصل حقیقت طسماتی کہانیوں میں گم ہو گئی ہے۔

مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو مکڑی نے اس کے منہ پر جالاتن دیا اور اس کے بعد فاختہ آئی اور اس نے جالے کے اوپر انڈے دے دے۔ مگر اس معاملہ میں وہی ہوا جو عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات پر اپنے تخیل سے اضافہ کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنادیا۔

جبیسا کہ ابن کثر نے واضح کیا ہے، اس معاملہ میں صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فاقتصوا شرہ فلما بلغو الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمردا به
نعار فررا واعلى بابه نسج العنکبوت فقالوا لودخل ههنا لم يكن نسج
العنکبوت على بابه.

وہ آپؐ کے نشانات پر چلے۔ جب وہ پہاڑ تک پہنچ تو راستہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے جو غار دیکھا وہ غار ثور ہی تھا تب بھی مذکورہ روایت کے مطابق بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا۔ روایت میں یہ باتیں بالکل موجود نہیں ہیں کہ خدا نے حکم دیا تو ایک مکڑی آئی اور اس نے جالاتن دیا۔ پھر خدا نے فاختہ کو حکم دیا تو فاختہ آئی اور اس نے وہاں انڈے دے دے۔ اس قسم کی تمام باتیں

لوگوں نے اپنے تخيّل سے اصل واقعہ پر اضافہ کر لیں۔

اس قسم کے اضافوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ عجائبات اور طسمات کی طرف چل جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت کا پبلوزگا ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

مہاجرین کی نصرت

مدینہ کے قبائل (انصار) نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدله کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے۔ لیں دین کی تیسری قسم وہ ہے جو ”برکت“ کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ ”بزرگ“ ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاً اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا۔ مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پڑے مہاجرین کے لئے اپنے دروازے کھول دیئے۔ ان کونہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواغاة قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنی جانداروں میں حصہ دار بنا دیا۔ اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب و جنم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت علیؓ کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر ہیں:

کانو صدقاء صبراء (البداية والنهاية، جلد 3)

(اوں و خزرج کے لوگ) بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔

جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یہ ربانچہ تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ حتیٰ کہ اس کے لئے قرعدانی کی نوبت آگئی۔ انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصہ کو مہاجرین کے حوالے کر دیا (ولقد تشاھوًا فينا حقاً ان کانوا ليقترون علينا ثم كنا في اموالهم احق بہا منهم) ان کے غیر

معمولی ایثار کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دیجایا (اثرۃ علینا) مگر وہ اس کے لئے جھگڑا نہ کریں گے (ان لاتنازع الا مراہله) (تہذیب سیرت ابن ہشام، جلد اول، صفحہ 111)

تاہم بھرت کے بعد مدینہ کی زندگی آپؐ کے لئے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی۔ اہل عرب کی متحده جاریت کے بارے میں تمام اندیشے اپنی بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں:

لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ المدینۃ وادتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فکلنو الا یبیتون الا فی السلاح ولا یصیحون الافیه (کنز العمال جلد 1 صفحہ 259)

جب آپؐ اور آپؐ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپؐ گونشانہ پر لے لیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صحیح کرتے۔

قریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنا آبادی کے لئے انتہائی ناکافی ہو گئیں۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے اخراجات، ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجہ پر پہنچا دیا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا ہے۔ آپؐ سارے دن بھوک سے بے قرار رہتے۔ روئی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتیں جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہؓ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا: اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو اس کو ہم پی جاتے۔ غزوات میں بے سر وسامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسیؓ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپؐ کے ہمراہ غزوہ کے لئے نکلے۔ ہمارے پاس چھ آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار

ہوتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر چھپڑے لپیٹ لئے، اسی لئے اس غزوہ کا نام ذات الرقان (چھپڑوں والا) رکھا گیا۔ غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کے بجائے چوستے تھے۔ اور بقیہ کمی کو بول کے پتوں اور ٹنڈیوں کے ذریعہ پوری کرتے تھے۔ اس پر مزید اضافہ وہ بیماری تھی جو غذائی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی۔ مکہ کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے۔ مدینہ میں انہیں کھجور کھانے کو ملی۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ آپؐ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لائے، ایک مکی مسلمان نے چلا کر کہا:

یار رسول اللہ! احرق بطننا التمر (طبرانی)

اے خدا کے رسول! کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا

آپؐ کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلہ سے نکل کر عملی مقابلہ کے مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ دور دعوت میں آپؐ کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی، سیاسی، قبائلی اور اس طرح کے دوسرے نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اور اس سے بے تعلق رہ کر خالص ”انذار و تبییر“ کے کام میں مشغول رہیں۔ بنی عامر بن صعصعہ کو آپؐ نے سوق عکاظ میں اسلام کی دعوت دی تو انہیں یہ بھی لیکن دہانی کرائی کہ میں صرف پر امن طور پر اپنادینی پیغام پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ تمہارے درمیان کوئی سیاسی، اقتصادی یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کروں گا۔

آپؐ نے ان سے فرمایا:

انی رسول اللہ، فَإِنْ أَتَيْتُكُمْ تَمْنُعَنِی حَتَّیٰ ابْلَغَ رِسَالَةَ رَبِّیْ وَلَمْ اَكُرَّهَا اَحَدًا
امنکم علی شیع (ابونعیم، دلائل النبوة، 100)

میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ

میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا۔
 بعثت کے اصل مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدستور جاری تھا۔ مگر اب اسلام کو
 ایک اور چیز سے نمٹنا تھا۔ اور وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے۔ اس سلسلے میں آپؐ
 نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقے اختیار کئے جائیں جن سے لوگوں کے
 دل اسلام کے لئے نرم ہو جائیں، اور لڑائی بھرائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو
 سکے۔ یہی وہ بات ہے جس کو آپؐ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے:

نصرت بالرعب على مسيرة شهر

ایک مہینہ تک کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔

اس طریقے عمل کے دو خاص پہلو تھے۔ ایک قوت مرہبہ کا حصول (انفال: 60)
 دوسرا تالیف قلب (توبہ: 60)

تالیف قلب کے تحت آپؐ نے لوگوں کو اس کثرت سے اموال دیئے کہ دادو، ہش کی
 تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صفویان بن امیہ مکہ کے بڑے سردار تھے۔ مکہ کے بعد
 وہ بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے۔ آپؐ نے انہیں امان دے کر بلا یا۔ ہوازن کی فتح کے
 بعد جب آپؐ مجرمانہ کے مقام پر مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس وقت صفویان بن
 امیہ آپؐ کے ساتھ تھے اور ابھی حالت کفر میں تھے۔ صفویان بن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچے جو
 سکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ حیرت و استجواب کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے
 رہے۔ آپؐ نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا ”اے ابو وہب! کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی
 تم کو پسند ہے، صفویان نے کہا ہاں۔ آپؐ نے فرمایا ہو لک و ما فیہ (وہ اور اس میں جو کچھ
 ہے، سب تمہارا ہے) صفویان نے یہ سن کر کہا، نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت
 نہیں کرسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
 بندے اور رسول ہیں۔ اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ (واسلم مکانہ) کنز العمال،

آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی ایک اعتبار سے اسی ذیل کا ایک واقعہ ہے۔ قبائلی نظام میں رشته داری اولین اہمیت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بھرت کے بعد آپ کا کئی شادیاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعہ بے شمار لوگوں سے رشہ داریاں قائم ہو گئیں اور ان کے قلوب آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے۔ پہلی شادی کے علاوہ، جو آپ نے تقریباً دنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی۔ دوسری شادیاں حقیقتہ ازدواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں، بلکہ ان کے ذریعہ اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا۔

معاہدہ حدیبیہ کی رو سے اگلے سال (628) آپ دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ گئے۔ اس موقع پر تین روزہ قیام کے دوران آپ نے میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھیں۔ میمونہ کی آٹھ بہنیں تھیں جن کی شادی مکہ کے آٹھ ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔ آپ نے میمونہ سے نکاح کر کے آٹھ خاندانوں سے اپنی رشته دری قائم کر لی۔ نیز خالد بن ولید میمونہ کے بھتیجے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے بچ کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا پیٹا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی معرکہ میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ اس تقریب سے آپ نے مکہ والوں کی دعوت ولید کا بھی انتظام کیا تھا۔ مگر مکہ والوں نے کہا کہ معاہدہ کے مطابق آپ صرف تین روز مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہئے۔ اس لئے آپ مکہ والوں کو ولید نہ کھلا سکے جو درحقیقت ان کی تایف قلب کے لئے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ خالد بن الولید اور عمرو بن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچنے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا: ان دو کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی (قل اعطت مکہ البقادۃ بعد هذین)، (آخر جہاںیہ تھی من طریق الواقدی)

ام حبیبہ بنت ابوسفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جبش نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں بھرت کر کے جبش چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر نے نصرانیت اختیار کر لی، اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح آپ ابوسفیان کے داماد ہو جاتے تھے جو بدر میں ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ اس کے لئے آپ نے غائبانہ نکاح کا انتظام کیا۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر اُم حبیبہ جبش سے مکہ واپس آگئیں تو ان کا باپ آپ سے نکاح نہ ہونے دے گا۔ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غائبانہ طور پر نجاشی (بادشاہ جبش) نے پڑھایا۔ اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بھیج دی گئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابوسفیان کی خلافت کمزور پڑ گئی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اس حکمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں ”ارہاب“ کی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی طاقت کے استعمال کے بجائے طاقت کے مظاہرہ کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ احمد (3ھ) کی شکست مسلمانوں کے لئے مکمل شکست بن سکتی تھی اگر ابوسفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا۔ چنانچہ روحانی مقام پر پہنچ کر ابوسفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اپنی فوج کو دوبارہ مدینہ کی طرف واپس لوٹا۔ نے کا ارادہ کرنے لگا۔ مگر اس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی پیغمبر اسلام کا جتنی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ گوفر اباوسفیان کے ارادہ کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکہ کی طرف کوچ کر دیا اور حمرا الاصدیک پہنچ گئے جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آپ کا یہ سفر پورے اعلان و اظہار کے ساتھ تھا جب کہ عام طور پر آپ نہایت خاموشی کے ساتھ کوچ کیا کرتے تھے۔ ابوسفیان کو خبر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ آپ گو مزید مکہ آگئی ہے۔ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا جب آپ گواٹمینان ہو گیا کہ ابوسفیان کی فوج واپس ہو چکی ہے تو آپ مدینہ لوٹ آئے۔

غزوہ موت (جمادی الاول 8ھ) کے اگلے سال قیصر روم نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ماتحت عسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکھٹا کرنے لگے۔ اس کے جواب میں آپ[ؐ] 30 ہزار کا لشکر لے کر نکلے جس کو غزوہ تبوک (رجب 9ھ) کہا جاتا ہے۔ تبوک کا غزوہ حقیقتہ ایک جنگی تدبیر تھی جس کا مقصد دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام تھا، تاکہ دشمن مرعوب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے۔ چنانچہ تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلہ کے لئے بڑھنے کے بجائے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ[ؐ] نے بھی حربی ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ قیصر کے ہٹ جانے سے آپ[ؐ] کو جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی تھی اس سے آپ[ؐ] نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ[ؐ] نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبل سے ربط قائم کیا، جو اس وقت تک رومیوں کے زیر اثر تھے۔ اس سلسلے میں دو مته الجندل کے عیسائی ریس اُکیدر بن عبد الملک کندی، ایلہ کے عیسائی یونابن رویہ، اور اسی طرح مکنا۔ جراء اور اذ رح کے نصرافی رو سانے بھی جز یہ ادا کر کے مدینہ کی ماتحتی قبول کی۔

ابو بکر صدیق[ؓ] کی خلافت کے بعد جیش اسلام کی روائی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوامدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبلہ باغی ہو گئے۔ (اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے، جاڑے کی بارش میں بھیکی ہوئی بکری۔) اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ اندر وہی دشمنوں کو زیر کرنے کے لئے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے۔ مگر پیغمبر کے فیصلہ پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسلام[ؒ] کے لشکر کو جو سات سوا فراد پر مشتمل تھارہ میوں کے مقابلہ کے لئے شام رو انہ کر دیں۔ اس اقدام کا جواہر پڑا وہ حضرت ابو ہریرہ[ؓ] کے الفاظ میں یہ ہے:

فجعل لا يمر بقبيل يير يرون الارتد ادالا قالوا لولا ان لهولا قوة

ماخرج مثل هولاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم ، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا السالمين فثبتوا على الاسلام .

(البداية والنهاية جلد 6 صفحه 305)

اسامہ کا شکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی۔ ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے بڑھنے دیں، چنانچہ وہ رومیوں سے بڑھے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر ارتداد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پر جنم گئے۔

آپ مدینہ پہنچ تو وہاں مشرکین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر دو بڑے گروہ آباد تھے۔ یہود اور مسلمان۔ پھر یہ بھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منتظر تھے جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ (نہ کہ معابدہ) جاری کر دیا جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا (انہم امة واحدة من دون الناس، ان یہود امة مع المؤمنین۔ لی یہود دینہم وللملیمین دینہم) اس صحیفہ میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کردی گئی:

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئٍ، فإن مردّة إلى الله عز وجل والى محمد . (تهذیب سیرۃ ابن ہشام، 129)

اور جب بھی تم میں کسی معاملہ میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا۔

اس طرح یہ صحینہ گو یا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعہ آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔

آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمت کر ایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنالیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورت حال آئی کہ یا تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینہ میں گھس آئے اور اسلام کے بنتے ہوئے آشیانہ کو منتشر کر دے۔ اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد ساڑھے نو سو اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف تین سوتیہ تھی۔ مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ نذر سے یہ سمجھا کہ اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے برکٹ مسلمانوں کے پاس ایمان و تلقین کا مشتبہ خزانہ ہے جو اول الذکر سے بد رجہ از زیادہ طاقت ور ہے۔ اس کے علاوہ عرب اپنے جاہلی نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر مشہور ہو۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کم زوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو، بلکہ دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی افرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو (صف۔ 4) ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ عظیم الشان واقع وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بد رکی فتح کہتے ہیں۔

فتح اسلام

بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکایا اور مختصر سی مدت میں ان سے کئی معمر کے پیش آئے، جن میں احمد (3ھ) اور احزاب (5ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو شدید ترین مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں 800 آدمی تھے۔ مگر سردی اور بھوک اور تکان کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لئے ایک شخص کو بھیجنا چاہا تو

تین بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیفہؓ کے پاس آئے اور نام لے کر ان کو بلا یا اور ان کو اس کام پر متعین کیا۔

دوسری طرف مدینہ کے یہود ایک مستقل اندر و فی مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندق کے 20 روزہ محاصرہ کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج مکہ واپس ہوئی تو آپؐ نے اس موقع کو مدینہ کے اندر و فی یہودیوں سے نمٹنے کے لئے موزوں ترین سمجھا جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت برہنمہ ہو کر سامنے آچکی تھی۔ آپؐ نے مدینہ کے قبائل (بنو نضیر، بنو قیقاع، بنو قریظ) کو خندق سے لوٹتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر خود ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

اب مسئلہ خیبر کا تھا۔ بھرت کے چھٹے سال یہ صورت حال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھا اور جنوب میں چار سو کلومیٹر کے فاصلہ پر مکہ کے قریش تھے اور شمال میں دو سو کلو میٹر کے فاصلے پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی، اسلام دشمنی میں متفق الرائے ہونے کے باوجود، اکیلے اکیلے اتنے طاقت ورنہ تھے کہ تنہ اسلام کو ختم کرنے کا حوصلہ کر سکیں۔ اسی لئے ان کے درمیان مشترک جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔

ان حالات میں آپؐ نے ربانی تدبیر کے تحت ذی قعده 6ھ میں اپنے ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کر دیا، اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لئے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپؐ نے اپنے ساتھ لے لیا۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اونٹوں کو قربانی کا نشان (قلادہ) بھی پہنانے کا حکم دیا تاکہ مکہ والوں کو مخوبی معلوم ہو جائے کہ آپؐ زیارت کعبہ اور قربانی ہی کے لئے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا مظاہرہ ہو

کہ آپؐ کا مقصد کعبہ کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔

مکہ سے تقریباً گیارہ کیلو میٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچ تھے کہ حسب موقع قریش نے آگے بڑھ کر روا کا۔ آپؐ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑا اور ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے:

انالم نجئی لقتال احد و لكن جئنا معتبرین دان قریشا قد نہ کتم
الحرب واضرت بهم فان شاؤ امدادتهم مدة و يخلو ابیني و بين الناس فان
اظهر فان شاؤ ان يدخلوا في ما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا و ان هم
ابوا فوالذى نفسى بيده لا قاتل لهم على امرى هذا حتى تنفر د سالفتى
ولينفذ امر الله (صحيح بخارى)

ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں۔ جنگ نے قریش کا براحال کر دیا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لئے ایک مدت (جنگ نہ کرنے کی) مقرر کر دوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اگر میں غالب رہوں تو ہو چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں لوگ داخل ہوئے اور مجھے غلبہ نہ ہو تو ان کا مدعاصل ہے اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس معاملہ میں ان سے لڑوں گا خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا۔

یہ پیغام درحقیقت خود قریش کے اندر موجود ایک لکر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربعہ قریش کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے آپؐ سے ملا اور آپؐ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا تو ایک روایت کے مطابق اس نے جواب میں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی:

واتر کو الراجل واعتلواه، فو اللہ ما ہو تبارک ما ہو علیہ و خلوا بینہ

وبین سائرالعرب فان يظهر عليهم يكن شرفكم وعزكم وان
يظهر واعليه قد كفيتها بغيركم (البداية والنهاية)

اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں۔ تم ان کے اور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ عرب پر غالب آگئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہو گی اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پا لو گے۔ یہ فکر جو خود قریش کے اندر دبایا ہوا موجود تھا۔ اسی کو آپ نے استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود شمن کے اندر آپ گواپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے۔

ایک طرف آپ نے یہ پیغام کھلایا۔ دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ بنی کنانہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا تا کہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لئے آئے ہیں لوگوں نے آپ گواطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلہ میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے تم لوگ اپنے قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو۔ مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے۔ یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آ رہے ہیں انہیں روکا نہ جائے۔

اسی طرح ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا۔ قریش کا ایک سفیر جب حدیبیہ پہنچا تو مسلمان صف بندی کر کے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے ضبط و نظم کا منظر دیکھ کر وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس ہو کر قریش سے کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد اتنا زبردست ہے کہ ساری کی ساری قوم محمدؐ کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے۔ ایک سفیر نے دیکھا کہ پنجہرا سلام جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے غسالہ کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے

لیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ وہ ادب و تعلیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا تو وہ سخت مرعوب ہوئے۔ بدیل بن ورقا الخزاعی کے ذریعہ جب مذکورہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص (عروہ بن مسعود) نے تقریر کی:

فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم :الستم بالولد قالوا بلى . قال
الستم بالولد . قال فهل تفهموني قالوا لا ، قال فان هذا قد عرض
عليهم خطة رشد اقبلا ها ودعونى آتيه (البداية والنهاية)

اے میری قوم! کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، عروہ نے کہا، کیا تم میں سے کچھ میری اولاد کے برابر نہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے اوپر کوئی شک ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، تم اس کو مان لو اور مجھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں۔

آپ نے اعلان کر دیا کہ قریش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے، میں اس کو مان لوں گا (والذی نفی بیدہ لا یسئالونی خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم ایاها) تاہم ناجنگ معاہدہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے طرح طرح سے حیثت جاہلیت کا مظاہرہ کیا، معاہدہ کے مسودہ سے ”محمد رسول اللہ“، کو مٹا کر محمد بن عبد اللہ لکھوا یا۔ بسم الله الرحمن الرحيم کے بجائے بسمك الله لکھنے پر اصرار کیا۔ یہ دفعہ بڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگئے تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے برعکس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں۔ سارے صحابہ کے لئے یہ شرطیں انتہائی گراں ہو رہی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب عروہ بن مسعود نے کہا اے محمد! یہ جو ادھر

اُدھر کے لوگ آپ نے اپنے گرد جمع کر کے ہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے
 (افی لاری اشوابا من الناس خلیقا ان یفرو اوید عوک) اس کو سن کر ابو بکرؓ
 جیسا سخیہ آدمی بھی غصہ میں آگیا۔ ان کی زبان سے نکلا:

امصص بظر اللات، انحن نصر عنہ وندعہ (البدایہ والنہایہ)

تولات کی شرم گاہ چوس، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

مگر خدا کا رسول ہر قسم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتا رہا اور قریش کے ہر
 مطالبہ کو مان کر ان سے دس سال کے لئے ناجنگ معاهدہ کر لیا۔ اب قریش پابند ہو گئے کہ وہ
 دس برس تک بالواسطہ یا براہ راست کسی ایسی جنگ میں حصہ نہ لیں جو مسلمانوں کے خلاف
 ہو۔

یہ معاهدہ جو مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تجھیل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے
 قربانی کرنے کو کہا تو تین بار اعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لئے نہ اٹھا۔
 اس کے بعد اٹھے بھی تو غم کا یہ حال تھا کہ قربانی کے بعد سر موٹنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے (وَجَعَلَ بعْضَهُمْ يَحْلِقُ بعْضًا حَتَّىٰ كَادُ بعْضَهُمْ
 يُقْتَلُ بعْضًا غَمًا) مگر دب کرنے جانے والے اس معاهدہ کے اتنے غلطیم الشان فائدے
 ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے دو طاقت و رحریف تھے، ایک خیر کے یہودی۔
 دوسرے مکہ کے قریش۔ مسلمان ابھی اتنے طاقت و رہنہ ہوئے تھے کہ بیک وقت دونوں سے
 نمٹ سکیں۔ ایک پر حملہ کرنا گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر مدینہ میں گھس
 جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو بر باد کر دے۔ آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے
 مطالبات منظور کر کے ان کو دس سال تک کے ”ناجنگ معاهدہ“ پر راضی کر لیا۔ اور اس طرح
 انہیں ”بطن مکہ“ میں روک دیا۔ (فتح۔ 24) اس کے بعد مدینہ واپس آ کر پہلی فرصت میں خیر

پر حملہ کر کے یہودی مسئلہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ پہلا واقعہ ذی قعدہ 6ھ میں ہوا اور دوسرا محرم 7ھ میں۔

خبر میں یہودیوں کے آٹھ پتھر کے قلعے تھے جن میں 20 ہزار جنگ جو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ بجے ہوئے تھے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ ان قلعوں کے استحکام کے لئے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو 1700ء میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل وابان (1633-1707) نے اختیار کر کے شہرت پائی۔ اس مضبوط اور مسطح شہر کو کس طرح فتح کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک طویل داستان ہے۔ اس موقع پر جو حیرت انگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ قلعوں کا پھاٹک توڑنے کے لئے یہ کیا گیا کہ بھاری درخت کا تنہ لے کر پچاس آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعہ کے پھاٹک پر مارتے تھے، چند بار ایسا کرنے سے قلعہ کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد تیروں اور مخنثیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعہ کے اندر گھس جاتے۔ اس طرح چار قلعے مسخر ہوئے تھے کہ بقیہ نے مرعوب ہو کر خود سے اپنے دروازے کھول دیئے اور اپنے کو اسلامی فوج کے سپرد کر دیا۔

خبر کی تفسیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپؐ کی فراست ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ شمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرےتاکہ آپؐ کے لئے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپؐ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف بر امیختہ کر رکھا ہے، وہ بغرض، حسد، اقتدار پرستی اور گھمنڈ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو لوگ اس قسم کی نفیسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں وہ اپنے آپؐ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کا رروئیوں سے بازنہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح نکلا۔ قبیلہ خزادہ اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ (شعبان 8ھ) میں قریش نے در پر دہ اپنے حلیف قبیلہ (بنو بکر) کی حمایت میں آپؐ کے حلیف قبیلہ (بنو خزاعہ) کے خلاف چڑھائی کر کے بھی غلطی کی۔ یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔

یہ صلح حدیبیہ کے دو برس بعد کا واقعہ ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر آپؐ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار مرد تھے تو اب ان کی تعداد دو ہزار ہو چکی تھی۔ آپؐ نے خاموشی کے ساتھ کمک کی طرف مارچ کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا:

وَعَدَ كُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هُنَّا وَكَفَ أَيْمَنِي
الثَّالِثُ عَنْكُمْ (فتح: 20)

وعدہ کیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا تم ان کو لو گے۔ پس شتاب دے دی تم کو یہ، اور روک دیئے لوگوں کے ہاتھ تم سے۔

معاہدہ کے وقت صورت حال یقینی کہ تقریباً 20 برس کی مسلسل تبلیغی جدوجہد کے ذریعہ اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ہر قبیلہ میں بے شمار ایسے لوگ وجود میں آچکے تھے جن کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ مگر اس وقت کے عرب میں قریش کو قیادت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال کا ناجنگ معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ خطرہ دور ہو گیا اور لوگ اس طرح اسلام قبول کرنے لگے جیسے ٹریک پوسٹ پر بند رٹرک کھلنے کے بعد اچانک سواریاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔

قال الفقيه ابن شهاب الزہری وغيره ان الله فتح على المسلمين بصلاح الحديبية اکثر ما فتح الله عليهم به من اع غزو و آخر بدلليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى مكة عام الفتح بعشرة آلاف ولم تكن عدته من قبل لتزويى على ثلاثةآلاف يحال و عللها بأنه لما هادف قريشا لم يجد العرب حرجا ان يد خلوا لا سلام فان ذلك لا يغيط قريشا ولا يعتبر

تحدیاً لِهَا حَمْدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ (101, 102)

ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے ذریعہ مسلمانوں کو جو فتوحات دیں وہ کسی بھی دوسرے غزوہ سے زیادہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکہ میں دس ہزار افراد کے ساتھ داخل ہوئے جب کہ اس سے پہلے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگ جوئی بند کر دی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لئے کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ کیونکہ اب قریش کے غصہ اور مقابلہ کا خطرہ نہیں تھا۔

بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا ہے، انہوں نے بعد کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو۔ مگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے۔ (ما کنا نعد الفتح الایوم الحدیبیة)

اس معاهدہ کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکہ سے گزرنے لگے۔ ابو بصیر، ابو حندل وغیرہ جن کو ازروئے معاهدہ قریش کی طرف واپس آنا ضروری تھا، وہ بھاگ کر ذوالمرودہ پہنچ۔ وہاں اس قسم کے اور مسلمان جمع ہونے لگئے حتیٰ کہ وہ ایک نیام کرن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے از خود معاهدہ کی یہ دفعہ ختم کر دی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عجلت اور ظاہر پرستی ہے۔ اگر آدمی ظواہر سے بلند ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو آدمی کو کامیابی تک پہنچانے کی یقینی ضمانت ہیں:

اخراج ابن عساکر عن الواقدي قال: كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما كان فتح اعظم في الاسلام من فتح الحديبية ولكن الناس يومئذ قصر را لهم عما كان بين محمد وربه والعباد يعجلون والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يبلغ الامور ماراد

حضرت ابو بکر فرماتے تھے اسلام میں فتح حدیبیہ سے زیادہ بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی، مگر اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے رب کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں۔ مگر اللہ بنووں کی طرح جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ انکو پہنچانا چاہتا ہے۔

حقیقت پسندی دنیا میں سب سے زیادہ کمیاب ہے، اگرچہ حقیقت پسندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے۔

خیبر سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپؐ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مگر کسی ایک شخص سے بھی آپؐ نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ تک کو معلوم نہ تھا کہ آپؐ گدھ کا قصد کرنے والے ہیں۔ رمضان 8ھ کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپؐ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپؐ کی منزل کیا ہے۔ تاہم پورا سفر اتنی خاموشی سے طے ہوا کہ آپؐ مرالظہر ان تک پہنچ گئے اور مکہ والوں کو خبر نہ ہوئی (ولم تعلم به قریش) آپؐ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ خذ الْعِيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قَرِيشٍ حَتَّىٰ نَبْغَثَهَا فِي بَلَادِهَا
خدا یا قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں۔

اس مہم کی تیاری کے لئے آپؐ نے حریت انگیز انتظامات کئے۔ آپؐ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے۔ نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو اور نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے۔ حضرت علیؓ کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لئے مقترن کر دیئے گئے۔ انہیں لوگوں نے حاطب بن ابی بلتعہ کے قاصد کو پکڑ کر اس سے مشہور خط برآمد کیا تھا۔ سارا لشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ (وفی عل القبائل عدد وسلاح، طبرانی عن ابن عباس)

مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا (لم مختلف منحوم احمد) رواںگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ دس ہزار فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ ہر دستہ کا ایک سردار تھا جو جنڈا لے کر آگے چلتا اور اس کے پیچھے چند سو کا دستہ قطار در قطار مارچ کرتا۔ اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابوسفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیے:

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للعباس:

اجلسه بمضيق الوادی عند خطم الجبل حتى تمربه جنود الله فيراها

(تہذیب سیرۃ ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 61)

آپ نے حضرت عباس سے فرمایا: ابوسفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پر روکے رہئے تاکہ اللہ کا شکران کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں۔

اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا اور ابوسفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابوسفیان کی زبان سے نکامن لہ بھولاء طاقة لمار کالیوم جنود اقط ولا جماعة۔ ایک طرف آپ نے مکہ کے لیئر (ابوسفیان) کو اس طرح متاثر کیا، دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے (من دخل دار ابی سفیان فهو آمن) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوسفیان نے خود ہی مکہ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو! محمدؐ کی اطاعت قبول کرو۔ آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ فتح مکہ کے بعد کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس مہم کے لئے اتنی زبردست تیاری مکہ میں خوب ریزی کے لئے نہ تھی بلکہ اہل مکہ کو مرموم کرنے کے لئے تھی تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو جائے۔ لشکر اسلام کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمة (آن گھمسان کا دن ہے) آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے اور ان کو سرداری سے معزول کر کے جنڈا ان کے لڑکے

کے قیس کو دے دیا۔

فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ اڑایاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپؐ کے غزوات (چھوٹے بڑے) کی تعداد تک پہنچتی ہے۔ تاہم مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضہ میں آنا تھا۔ چنانچہ معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپؐ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔

فتح کے بعد

شمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دوجذبات پیدا کرتی ہے _____ غرور اور انتقام۔ مگر آپؐ کی فتح پیغمبر کی فتح تھی۔ آپؐ اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپؐ مکہ میں داخل ہوئے تو تواضع سے آپؐ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپؐ کی داڑھی کجاوہ کی لکڑی کو چھپور ہی ہے۔ باب کعبہ پر کھڑے ہو کر آپؐ نے جو خطبہ دیا، اس میں یہ الفاظ فرمائے:

لا اله الا الله وحده صدق وعدة ونصر عبدة وهزيم الا حزاب وحدة
(البدایۃ والنھایۃ)

ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور شمن کی جماعتوں کو اس نے تہا شکست دی۔ گویا آپؐ نے فتح کے اس واقعہ کو تمام کا تمام خدا کے خانہ میں ڈال دیا۔

اسی خطبہ میں آگے چل کر یہ الفاظ روایت کئے گئے ہیں:

ثم قال يا معاشر قريش ماترون اني فاعل بكم قالوا أخيراً، اخ كريم و ابن اخ كريم قال فاني اقول لكم كما قال يوسف لا خوته لاثثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء (زاد المعاد، ابن قیم)

آپؐ نے فرمایا اے گروہ قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھلانی۔ آپؐ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسفؐ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔

اس طرح آپؐ نے پہلے ہی مرحلہ میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فتح اور مفتوح کے درمیان

انتقام اور رد عمل کی صورت میں لامحدود دمّت تک جاری رہتی ہے۔ فتح قویں، اس طرح کی فتح کے بعد، عام طور پر تحریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں۔ مگر آپ نے عمومی معافی کا طریقہ اختیار کر کے تمام قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کہ وہ کسی سے جنگ نہ کریں الایہ کہ کوئی خود ان سے لڑنے کے لئے آجائے (ان لا یقاتلو الامن قاتلهم) فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر ان سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سخت ترین جرائم کئے تھے۔ البتہ آپ نے کچھ لوگوں کی بابت فرمایا کہ وہ قتل کردئے جائیں خواہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے پائے جائیں۔ ابن ہشام وغیرہ نے اپنی سیرت کی کتابوں میں نام بنام ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

1۔ عبد اللہ بن سعد: یہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا۔ پھر وہ مرتد ہو کر کافروں سے جامی۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ بھاگ کر حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچ جوان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ وہ ان کو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا کہ ان کو دوبارہ مسلمان کر لیجئے۔ آپؐ خاموش رہے۔ حضرت عثمانؓ نے پھر درخواست کی تو آپ نے ان سے بیعت لے لی۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں وہ مصر کے حاکم رہے اور افریقہ میں ان کا خاص حصہ تھا۔

2۔ عبد اللہ بن خطل: اس نے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انصاری تھے۔ ایک منزل پر پہنچ کر عبد اللہ بن خطل نے اپنے غلام سے کہا کہ مرغ ذبح کر کے اس کو پکاؤ۔ مگر غلام سو گیا۔ اور وقت پر کھانا تیار نہ کر سکا۔ اس پر ابن خطل کو غصہ آگیا اور اس نے غلام کو مارڈا۔

اب اس کو ڈر ہوا کہ اگر میں مدینہ واپس جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصاص لیں گے۔ چنانچہ وہ مرتد ہو کر مکہ چلا گیا اور مشرکین سے مل گیا۔ وہ شاعر تھا اور آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا۔ آپ گو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہیں جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ ابو بزرہ اسلمی اور سعید بن حریث نے حبرا سودا اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا۔

3- فُرْتُنِی : یہ مذکورہ عبد اللہ بن خطل کی باندی تھی۔ وہ آپ کی ہجو میں اشعار پڑھتی تھی اور مشرکین کہ کی شراب کی مجلسوں میں گاتی بجاتی تھی۔ آپ نے ان خطل کے ساتھ اس کے قتل کا بھی حکم دیا اور وہ قتل کر دی گئی۔

4- قُرَيْبَةُ : یہ بھی عبد اللہ بن خطل کی باندی تھی اور اس کا بھی وہی پیشہ تھا جو فرتونی کا تھا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن کی درخواست کی۔ اس کو آپ نے امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔

5- حویرث بن نقیذ بن وہب : یہ شخص شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں شعر کہتا تھا، بالفاظ دیگر استہزا و تمسخر کی حد تک اسلام کا مخالف تھا۔ حضرت عباس بن مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں، فاطمہ اور ام کلثوم کو لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ حویرث بن نقیذ نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اونٹ کو نیزہ مار کر بھڑکا دیا جس کی وجہ سے دونوں خواتین زمین پر گر پڑیں۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔

6- مُقْتَسِیٰ بن صُبَابَةٍ : اس شخص کا ایک بھائی ہشام بن صبابہ تھا۔ غزوہ ذی قعڈہ کے موقع پر ایک انصاری نے ہشام کو غلطی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد مقتیس بن صبابہ مکہ سے مدینہ آیا مسلمان ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کی دیت مجھے دلائی جائے جو غلطی سے دشمن سمجھ کر قتل کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی دیت ادا

کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور پھر اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر کے اچانک مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اونیلہ بن عبد اللہ لیش نے اس کو قتل کیا۔

7۔ سارہ: یہ عورت عکرمہ بن ابی جہل کی باندی تھی۔ آپ کی ہجومیں اشعار گایا کرتی تھی اور آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ آپ نے اس کا خون مباح کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن مانگا تو آپ نے امن دے دیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی۔

8۔ 9۔ حرث بن ہشام اور زہیر بن ابی امیہ: ان دونوں شخصوں کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی ایک رشتہ دار خاتون ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا۔ ام ہانی نے حضرت علی کو روکا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں۔ اور کہا کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو پناہ دی ہے مگر علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے جن کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی اور تم نے جن کو امن دیا، ہم نے بھی ان کو امن دیا۔ علیؓ ان کو قتل نہ کریں۔ چنانچہ وہ دونوں چھوڑ دے گئے۔

10۔ عکرمہ بن ابی جہل: عکرمہ اپنے باپ کی طرح اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ان کا خون بھی آپ نے مباح کر دیا تھا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث جو مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی امان منظور کر لی۔ اس کے بعد وہ یمن گئیں اور عکرمہ کو مکہ واپس لا لیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ عکرمہ نے اس کے بعد اسلام کے لئے زبردست جانی و مالی قربانی دی۔ وہ حضرت ابو بکر کی خلافت

کے زمانہ میں مرتدین سے لڑتے ہوئے اجنادین کے مقام پر شہید ہوئے۔

11- ہمار بن الاسود: اس شخص سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب زوجہ ابو العاص بھرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں۔ ہمار بن الاسود نے آپؐ کے اوٹ کو نیزہ مارا۔ اس کے بعد اوٹ بدک کر دوڑا تو حضرت زینب اوٹ سے زمین پر گر پڑیں۔ اس وقت وہ حاملہ تھیں۔ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آخر عمر تک بیمار رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمار کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ہمار نے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی اور کہا کہ اے خدا کے رسول میری جہالت کو معاف کر دیجئے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے۔ آپؐ نے ان کو معاف کر دیا۔

12- حشی حرب: حشی نے آپؐ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا۔ وہ اولاً مکہ سے طائف بھاگ گئے۔ پھر مدینہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہوئے اسلام کی پیش کش کی۔ آپؐ نے ان کو اسلام میں داخل کر لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ وہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور جس حربہ سے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا اسی حربہ سے مسلیمہ کذاب کو قتل کیا۔

13- کعب بن زہیر: عرب کے مشہور شاعر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا۔ وہ مکہ سے بھاگ گئے۔ وہ بعد کو مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے بیعت کی درخواست کی۔ آپؐ نے ان کو بیعت کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔

14- حارث بن طلاطل: شیخ شخص شاعر تھا اور اشعار کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آپؐ نے اس کا خون مباح کر دیا اور حضرت علیؓ نے اس کو قتل کیا۔

15۔ عبد اللہ بن زیبری: یہ عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں ہجوئی اشعار کہا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر بحران چلے گئے۔ بعد میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے توبہ کی اور اسلام لائے۔ آپؐ نے ان کو معاف کر دیا۔

16۔ ہبیرہ بن ابی وہب مخزومی: شخص شاعر تھا اور شعر کہہ کر آپؐ کا اور آپؐ کے مشن کا استہزا کیا کرتا تھا۔ آپؐ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر بحران چلا گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔

17۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان: اس عرب خاتون کو اسلام سے اتنی شمشن تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت حمزہ کا جگہ نکال کر چبایا تھا۔ آپؐ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ آپؐ نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد وہ اپنے گھر گئیں اور تمام بتوں کو توڑا اور کہا: خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکہ میں تھے۔

اوپر جو تفصیل درج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سترہ مردوں اور عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے ہر شخص متعین اور معلوم شخصی جنم کی بنا پر گردن رونی تھا۔ تاہم ان میں سے جس شخص نے بھی معافی مانگی یا اس کی طرف سے کسی نے معافی کی درخواست کی اس کو آپؐ نے معاف کر دیا۔ معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا۔ سترہ آدمیوں کا خون مباح کیا گیا تھا، ان میں سے گیارہ آدمیوں کو براہ راست یا بالواسطہ معافی طلب کرنے پر معاف کر دیا گیا۔ پانچ آدمی جنہوں نے معافی کی درخواست نہیں کی وہ قتل کردئے گئے اور ایک آدمی مکہ سے دور بھاگ گیا اور طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہوا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کے قبیلہ والوں کو ڈر ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قربی لوگوں میں تھے۔ چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ ہماری عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فاطمہ مخزومی کی معافی کی درخواست کی۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا: کیا تم اللہ کی حدود (الله) اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کر رہے ہو (تكلمنی فی حد من حدود الله) اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میری لڑکی فاطمہ چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا (والذی نفس محمد بیدہ لوان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعۃ یدہا) چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ تائب ہو کر ایک صالح خاتون بن گئی (بخاری و مسلم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحِ مکہ کے بعد لوگوں کو اتنی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالت میں کئے جانے والے جرم اور جنگی حالت میں کئے جانے والے جرم میں فرق ہے۔ عام حالات میں کوئی شخص جرم کرے تو اس کا جرم معاف نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جنگ و مقابلہ کے دورانِ شمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس وقت معاف کر دیے جاتے ہیں جب کہ مذکورہ فرد اطاعت قبول کر کے معافی کا طالب ہو۔ غیر جنگی حالات میں کیا ہوا جرم ”حد“ پر ختم ہوتا ہے اور جنگی حالات میں کیا ہوا جرم اطاعت اور درخواست معافی پر۔ عرب میں اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین قسم کے جرائم کئے تھے۔ مگر اعلان کیا گیا کہ یہ کفر کرنے والے لوگ اگر باز آ جائیں تو اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا (انفال: 38) حکم ہوا کہ دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو قبول

کرلو، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ صلح کے بعد اس کی طرف سے خیانت کا اندر یشہ ہو:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلّٰهِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الْأَذِيْ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ (انفال: 61-62)

اور اگر وہ صلح کی طرف چکیں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک وہ سننے والا جانے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مونین کے ذریعہ تم کو قوت دی۔

جن مباح الدم افراد کو اس موقع پر معافی دی گئی ان میں سے ایک عکرمہ بن ابی جہل تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام دشمنی میں بے حد سرگرم وہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں مگر جب معلوم ہوا کہ ہو آپ کے پاس مطیع ہو کر آر ہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا:

يَا تِيكَمْ عَكْرَمَةَ مُومَنًا فَلَا تُسْبِوا أباَهَا فَإِنَّ سَبَّ الْمَيْتَ يُوذِي الْحَيِّ
عکرمہ بن ابی جہل مومن ہو کر تمہارے پاس آر ہے ہیں تو ان کے باپ کو تم لوگ براہ
کہنا۔ مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔

یہی وہ فراخ دلی اور وسعت ظرفی تھی کہ عرب میں اچانک یہ منظر نظر آیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے وہ فتح کے بعد اسلام کے زبردست حامی اور پاسبان بن گئے۔

حصہ سوم

ختم نبوت

بعثت کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ کسی عرب قبیلہ کا ایک شخص کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ آیا۔ وہ جب والپیس گیا تو اس کے قبیلہ والوں نے پوچھا، مکہ کی کوئی خبر بتاؤ۔ اس نے جواب دیا:

محمد تنبیاً و تبعه ابن ابی قحافة

محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو قحافة کا لڑکا ان کا ساتھ دے رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 610ء میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت لوگوں کے ذہن میں آپ کی تصویر کیا تھی۔ آپ کے مخالفین اس زمانہ میں آپ گوا بن ابی کبیشہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا: افلاج دیہاتی کا لڑکا۔ کوئی زیادہ شریف زبان بولنا چاہتا تو کہتا: فقی من قریش، یعنی قبیلہ قریش کا ایک جوان۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اپنے زمانہ میں تھا۔ مگر صدیاں گزرنے کے بعد اب صورت حال بالکل مختلف ہے۔ کیوں کہ اب آپ کی نبوت کوئی نزاعی مسئلہ نہیں۔ اب وہ ایک تسلیم شدہ واقعہ (Established Facts) کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج جب ایک شخص کہتا ہے ”محمد رسول اللہ“ تو اس کے ذہن میں ایک ایسے پیغمبر کا تصور ہوتا ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان تاریخ بن چکی ہے، جس کی پشت پر ڈیڑھ ہزار برس کی تصدیقی عظمتیں قائم ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ یہ تاریخ مکمل طور پر آپ سے الگ کر دی جائے اور نبی عربی دوبارہ ”ابن ابی کبیشہ“ کی صورت میں ظاہر ہوں تو اس میں ذرا بھی مشکل نہیں کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو آج کروڑوں میں گئی جاتی ہے، صرف درجنوں تک محدود ہو کر رہ جائے گی ”ابن ابی کبیشہ“ کے حلیہ میں رسول خدا کو پہچان لینا انتہائی مشکل کام ہے۔ جب کہ یہی کام اس وقت انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب رسول ایک مسلمہ تاریخی حیثیت یا قرآن

کے لفظوں میں مقام محمود (اسراء۔ 79) کا درج حاصل کرچکا ہو۔

پچھلے ادوار میں نبیوں کے ہم زمانہ لوگوں کے لئے نبی کا انکار کرنے کی سب سے بڑی نفسیاتی وجہ یہی تھی۔ ”یہ تو ہی معمولی شخص ہے جس کو اب تک ہم فلاں بن فلاں کے نام سے جانتے تھے، وہ اچانک خدا کا پیغمبر کیسے ہو گیا۔“ جب بھی کوئی نبی اٹھتا، یہ خیال ایک قسم کا شک اور تردود بن کر ان کے اوپر چھا جاتا، اور نبی کی پیغمبرانہ حیثیت کو پہچاننے کے معاملہ کو اس کے معاصرین کے لئے مشکل بنادیتا۔

یہ صورت حال، خاتم النبین کے ظہور سے پہلے، انسانیت کو مسلسل ایک کڑی آزمائش میں بنتلا کئے ہوئے تھے۔ ہر بار ان کے اندر سے ایک نیا شخص خدا کے رسول کی حیثیت سے اٹھتا۔ مخاطب قوم کی اکثریت، مذکورہ نفسیاتی رکاوٹ کی وجہ سے، اپنے ہم عصر نبی کے بارے میں شک اور تردود میں پڑ کر انکار کر دیتی اور بالآخر سنت اللہ کے مطابق ہلاک کر دی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا نبی بھیجے جو ساری دنیا کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اس کی ذات پچھلے پیغمبروں کی طرح لوگوں کو اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ ”معلوم نہیں یہ واقعی پیغمبر ہے یا شخصی حوصلہ مندی نے اس کو اس قسم کے دعوے پر آمادہ کر دیا ہے۔“ اس کی نبوت ہر دور کے لوگوں کے لئے ایک مسلمہ واقعہ کی حیثیت رکھتی ہو۔ لوگ کسی نفسیاتی پیچیدگی میں بنتلا ہوئے بغیر اس کی ”مودیت“ کی وجہ سے اس کو پہچان لیں اور اس پر ایمان لا کر خدا کی رحمتوں میں حصہدار بنیں۔

متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد تمام دوسرے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کا تعلق بھی اسی مسئلہ سے ہے۔ آپؐ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس لئے آپؐ کی امت میں آپؐ کے بعد دوبارہ کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ آپؐ کی امت بدستور بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

اس معاملہ کو نی اسرائیل کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح کے زمانہ میں جو یہود تھے۔ وہ سب خدا کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے۔ مگر ابن مریم کی صورت میں جب ان کے اندر ایک نیانی اٹھا تو اس کو ماننا یہود کے لئے ممکن نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ کو وہ اب بھی مانتے تھے۔ مگر اپنے ہم عصر نبی کا انکار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے، ایک درجن مونین مسیح کو چھوڑ کر، سارے کے سارے یہودی کا فرقہ را پا گئے۔

حضرت مسیح کے چھ سو برس بعد جب نبی عربی کی بعثت ہوئی تو مسلمانوں کی اس نئی جماعت (عیسائیوں) کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ مگر دوبارہ وہی ہوا کہ نئے ”اسما علی نبی“ کو مانے کے لئے وہ اپنے کو آمادہ نہ کر سکے۔ وہ تاریخی نبی (حضرت مسیح) پر بدستور ایمان رکھتے تھے۔ مگر اپنے ہم عصر نبی (حضرت محمد) کے منکر تھے۔ اس کی وجہ سے دوبارہ ایسا ہوا کہ نبوت محمدی پر ایمان لانے والے چند عیسائیوں کو چھوڑ کر پوری عیسائی قوم کو کافر قرار دے دیا گیا۔

ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدی میں اس قسم کی چھٹی، کم از کم موجودہ دنیا میں، دوبارہ ہونے والی نہیں۔ اس لئے آپؐ کے امتنیوں کی تعداد بھی دوسرے انبیاء کے پیروں سے زیادہ رہے گی یہ بھی ایک پہلو ہے آپؐ کے رحمۃ للعلیمین ہونے کا جو اس لئے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مقام محمود پر کھڑا کیا۔ مقام محمود دنیوی اعتبار سے یہ ہے کہ آپؐ کی نبوت کو ساری دنیا کے لئے ایک تاریخی مسلکہ بنادیا گیا۔ یہی تعریفی حیثیت قیامت کے دن خصوصی خداوندی اعزاز کی صورت میں ظاہر ہوگی جو اولین و آخرین میں آپؐ کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوگی۔

مگر کسی نبی کو مقام محمود پر کھڑا کرنا سادہ طور پر محض نامزدگی کا معاملہ نہ تھا۔ یہ ایک نئی تاریخ کو ظہور میں لانے کا معاملہ تھا۔ اس کے لئے ایک طرف ایسی معیاری شخصیت درکار تھی جیسی کوئی دوسری شخصیت نبی آدم میں پیدا نہ ہوئی ہو دوسری طرف ایسی قربانی اور حوالگی درکار تھی جیسی قربانی و حوالگی کا ثبوت کسی دوسرے انسان نے نہ دیا ہو۔ یہی وہ نازک الحجاجب کہ

خدا نے اپنے ایک بندے کو پکار کر کہا: يَأَيُّهَا الْمُدْبِرُ، قُمْ فَانْذِرْ... وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ^۱
 اور مکمل میں لپٹی ہوئی اس عظیم روح نےلبیک کہہ کر اپنے آپ کو ہمہ تن خدائی منصوبہ
 کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد طویل عمل کے نتیجہ میں بالآخر وہ نبوت ظہور میں آئی جو سارے
 عالم کے لئے رحمت بن گئی۔ جس نے انسانی تاریخ میں بار بار نئے نبیوں کی آمد کے آزمائشی
 دور کو ختم کیا اور ایک مسلمہ نبوت کے دور کا آغاز کر کے لوگوں کے لئے خدا کی رحمتوں میں فوج
 در فوج داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔

نبوت کو تاریخی مسلمہ بنانے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آئندہ کے لئے نبیوں کی آمد کا
 سلسلہ بند ہو جائے۔ مگر یہ بھی محض اعلان کا معاملہ نہ تھا۔ ختم نبوت سے پہلے ضروری تھا کہ چند
 شرائط لازمی طور پر پوری ہو چکی ہوں:

- 1- زندگی کے تمام معاملات کے لئے احکام خداوندی کا نزول (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا)
- 2- انسانی کردار کے لئے ایک کامل نہاد سامنے آ جانا (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ إِلَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

3- وَهِيَ الَّهِ كَيْ دَائِيَ حفاظت کا انتظام (نَحْنُ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ كَرْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
 اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فیصلہ کے ذریعہ ان تینوں شرائط کی تکمیل کا انتظام فرمادیا۔
 پچھلے نبیوں کے لئے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو کچھ آیات (معجزے) دیئے
 جاتے تھے۔ نبی اپنی مخاطب قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ آخری حد تک ادا کرتا۔ وہ غیر معمولی
 نشانیوں کے ذریعہ اپنے نمائندہ الٰہی ہونے کا ثبوت پیش کرتا۔ اس کے باوجود جب لوگ
 ایمان نہ لاتے تو نبی کا کام ختم ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے متحرک ہوتے اور زمینی یا
 آسمانی عذاب کے ذریعہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے۔

نبی آخر الزماں کے لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لئے اس قسم کا

عذاب نہیں آئے گا۔ بلکہ خود نبی اور آپؐ کے اصحاب کو ان سے مکار کر انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ دین خداوندی کو قبول کریں (تقاتلو نہم اویسلیموں) اس کے باوجود ان میں سے جو لوگ اطاعت نہ کریں وہ اہل ایمان کی تواروں سے قتل کر دیئے جائیں (قاتلوا هُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَأْيُدِيهِمْ) دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس سے پہلے جو کام فرشتے کرتے تھے، اس کو انسانوں کے ذریعہ انجام دیا جائے۔

اسی فیصلہ الہی کا نتیجہ تھا کہ هجرت اور تمام جحث کے بعد دیگر انبیاء کی قوموں کے بر عکس، اہل عرب پر کوئی جو لا کمکھی پہنچنے نہیں پہنچا اور نہ آسمان سے آگ برسی۔ بلکہ رسول اور اصحاب رسول کو ان کے ساتھ ٹکڑا دیا گیا۔ اس فوجی تصادم میں اللہ کی خصوصی نصرت کے ذریعہ رسول اور آپؐ کے اصحاب کو فتح حاصل ہوئی۔ خدا کا دین ایک باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل میں جزیرہ نما ہے عرب پر قائم ہو گیا۔

اس واقعہ کے مختلف نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ دعوت نبوت کو، انفرادی تقاضوں سے لے کر اجتماعی معاملات تک زندگی کے تمام مرحلے سے گزرنا پڑا اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لئے مسلسل احکام اترتے رہے۔ اگر یہ واقعات پیش نہ آتے تو اسلامی شریعت میں ہر قسم کے احکام نہیں اتر سکتے تھے۔ کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے اپنے احکام بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتابی مجموعہ کی شکل میں بیک وقت سارے احکام لکھ کر نبی کو دے دیئے جائیں۔ فرشتوں کے ذریعے منکرین عرب کا استیصال کرنے کے بجائے اہل ایمان کی توارکے ذریعہ ان کو زیر کرنے کے فیصلے نے شریعت کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیئے۔

پھر اسی کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا کہ پیغمبر کا سابقہ زندگی کی تمام صورتوں سے پیش آئے۔ اور ہر قسم کی سرگرمیوں میں وہ اسلامی کردار کا عملی نمونہ دکھا سکے۔ اس کے بعد خود حالات کے ارتقاء کے تحت ایسا ہوا کہ نبی کو مسجد اور مکان سے لے کر میدان جنگ اور تخت

حکومت تک ہر جگہ کھڑا ہونا پڑا اور ہر جگہ اس نے معیاری انسانی کردار کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لئے نمونہ قائم کر دیا۔

پھر اسی واقعہ نے قرآن کی حفاظت کی صورتیں بھی پیدا کیں۔ پچھلی آسمانی کتابیں جو محفوظ نہ رہ سکیں، اس کی وجہ تھی کہ نبی کے بعد ان کتابوں کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہ رہی جو بزرگان کو ضائع ہونے سے بچاتی۔ پیغمبر اسلام اور آپؐ کے اصحاب نے اپنی ہم عصر قوموں سے مقابلہ کر کے اولاد عرب اور اس کے بعد قدیم دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا غالبہ قائم کر دیا۔ اس طرح کتاب اللہ کو حکومتی اقتدار کا سایہ حاصل ہو گیا جو خدا کی کتاب کو محفوظ رکھنے کی یقینی ضمانت تھا۔ یہ انتظام اتنا طاقت و رہا کہ ایک ہزار برس تک اس میں کوئی فرق نہ آسکا۔ اسلامی اقتدار کے زیر سایہ قرآن ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا۔ یہاں تک کہ صعبتی انقلاب ہوا اور پریس کا دور آگیا جس کے بعد قرآن ک کضائع ہونے کا کوئی سوال نہیں۔

یہ سب جو ہوا، اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا جیسے آج ہم اس کو سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے لئے نبی اور آپؐ کے ساتھیوں کو ناقابل برداشت طوفان سے گزرنا پڑا۔ کفار کے مطالبہ اور نبی کی خواہش کے باوجود ان کو فوق الفطري مجرزے نہیں دیئے گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے اخلاق و کردار کو محترمی و احترام کا بدلتا بنا پڑا۔ ان کے مکذبین کے لئے کوئی ارضی و سماوی عذاب نہیں آیا۔ اس طرح انہیں وہ کام کرنا پڑا جس کے لئے پہلے بھونچاں آتے تھے اور آتشِ نشان پھٹتے تھے۔ ختمِ نبوت کے فیصلہ کے باوجود کتاب اللہ کو یکبارگی ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس لئے ان کے واسطے ضروری ہو گیا کہ وہ زندگی کے وسیع سمندروں میں کو دیں اور ہر قسم کی چٹانوں سے ٹکرائیں تاکہ تمام معاملات زندگی کے بارے میں ان پر احکامِ اللہ کا نزول ہو سکے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس پورے عمل کے دوران نبیؐ اور آپؐ کے اصحاب امتحان کے اس انتہائی کڑے

معیار پر تھے جس کو قرآن میں زوال شدید (احزاب: ۱۱) کہا گیا ہے۔ نبی گوئی سخت ترین حکم تھا کہ ظالموں کی طرف ادنیٰ جھکاؤ بھی مت دکھاؤ (اسراء: ۷۵) ورنہ تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ حالات خواہ کتنے ہی شدید ہوں، آپؐ کے ساتھیوں کے لئے کسی بھی حال میں تخلف (توبہ۔ ۱۱۹) کی اجازت نہ تھی۔ آپؐ کی ازواج اگر دو وقت کی روٹی کا بھی مطالبہ کریں تو ان کے لئے یہ صاف جواب تھا کہ پیغمبر کی صحبت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرلو (احزاب:

(28)

حقیقت یہ ہے کہ نبوت مُحَمَّدی کو بروئے کار لانا انسانی تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا۔ اور یہ سب کچھ اتنی قیامت خیز سطح پر ہوا کہ خود رسول کی زبان سے نکلا کہ ”اس راہ میں بھک کو اتنا ستایا گیا جتنا کسی دوسرے نبی کو نہیں ستایا گیا۔“ آپؐ کی رفیقة حیات نے شہادت دی کہ لوگوں نے آپؐ گورنڈا لاتھا۔ (حطہ الناس) خاتم النبین اور آپؐ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام تو درکنا رزندگی کی ناگزیر ضرورتوں سے بھی اپنے کو محروم کر لیا، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ تاریخ میں اس نبوت کا دور شروع ہو جس کو رحمۃ العالمین کہا گیا ہے۔

نبی عربی کا آپؐ کے بعد آنے والی نسلوں پر بھی وہ احسان عظیم ہے جس کی وجہ سے دائیٰ طور پر آپؐ پر صلوٰۃ وسلم بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اس مشکل ترین مشن میں چونکہ آپؐ کے اہل خاندان نے آپؐ کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور آپؐ کے اصحاب اس سبر آزماجد و جہد میں پوری طرح صادق القول اور صابر اعمل ثابت ہوئے، اس لئے رسولؐ کے ساتھ آپؐ کے آل اور آپؐ کے اصحاب کے لئے بھی رحمت اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے۔ درود وسلم اسی قسم کے ایک عظیم ترین احسان کا دعا کی شکل میں اعتراض ہے۔

حدیث میں ہے: **الْبَغْيُ مَنْ ذُكِرَ ثُعَذَّبَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ** (نسائی، ترمذی)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ أَلَّهُ وَصَلِّبْهُ وَسَلِّمْ

آپ کا معجزہ قرآن

ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغمبر آخر الزماں کا معجزہ قرآن ہے۔ جو پیغمبر قیامت تنک کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس کا مجزہ کوئی ابدی مجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ خدا نے قرآن کو پیغمبر آخر الزماں کا ابدی مجزہ بنادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مسلسل مطالبہ کیا کہ پچھلے نبیوں کی طرح تم بھی کوئی مجزہ دکھاؤ۔ قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اس نبی کے لئے پچھلے نبیوں جیسا کوئی مجزہ نہیں بھیجا جائے گا (بنی اسرائیل: 59) حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے رسول اگر تجھ پر ان کا اعراض گراں گز رتا ہے (اور تم ان کے لئے کوئی مجزہ چاہتے ہو) تو اگر تم سے ہو سکتے تو ز میں میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگا ہو اور پھر ایک مجزہ لا کر انہیں دکھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ پس تم نادنوں میں سے نہ بنو (الانعام: 35)

اس کے عکس کہا گیا کہ یہ قرآن جو اتارا گیا، یہی خدا کی طرف سے مجزہ ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أُلْيَّ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْأُلْيَّ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آتَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذُكْرًا لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ۝ (العنکبوت: 50-51)

اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر نشانیوں کیوں نہ اتریں۔ کہو کہ نشانیوں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور میں تو بس کھول کر سنادینے والا ہوں۔ کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا جو ان پر پڑھا جاتا ہے۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو مانے والے ہیں۔

قرآن کے مجزہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہاں ہم خاص طور پر اس کے تین پہلووں کا ذکر کریں گے (1) عام لسانی تاریخ کے اعلیٰ الگم قرآنی زبان کا زندہ زبان کی

حیثیت سے باقی رہنا۔ (2) مذہبی کتابوں کی تاریخ میں قرآن کا یہ استثناء کہ اس کے متین میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو سکا۔ (3) قرآن کے چیزیں کے باوجود کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہونا کہ وہ قرآن کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ سکے۔

جتنی بھی قدیم کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان میں قرآن ایک حیرت انگیز استثناء ہے، تمام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں۔ مگر قرآن کی زبان (عربی) آج بھی بدستور زندہ ہے۔ آج بھی کروڑوں انسان اس زبان کو لکھتے اور بولتے ہیں جس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار برس پہلے قرآن اتارا گیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن کے مجرا تی کتاب ہونے کا یقینی ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن کے سوا ساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس نے اپنی اصل زبان کو اس طرح بعد کے زمانوں میں باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہو۔

مثال کے طور پر انجلیل کو لیجئے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ قریب العهد مقدس کتاب ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک قطعیت کے ساتھ یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت مسیح کون سی زبان بولتے تھے۔ قیاساً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان غالباً آرامی تھی۔ تاہم انجلیل کی شکل میں آپؐ کی تعلیمات کا جو بالواسطہ ریکارڈ آج ہمارے پاس ہے اس کا قدیم ترین نسخہ یونانی زبان میں پایا جاتا ہے۔ گویا حضرت مسیح کے خیالات صرف ترجمہ شدہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں پھر یہ یونانی زبان بھی قدیم وجود یونانی سے بالکل مختلف ہے حتیٰ کہ انیسویں صدی کے آخر تک نئے عہد نامہ میں کم از کم 550 الفاظ (کل متن کا 12 فنی صد) ایسے تھے جن کے معانی معلوم نہ تھے۔ انیسویں صدی میں ایک جرمن عالم اڈولف ڈیزمن (Adolf Deissmann) نے مصر میں بعض قدیم تحریریں پائیں۔ ان کے مطالعہ کے بعد اس نے قیاس کیا کہ ”ببلیکل گریک“ دراصل قدیم یونانی زبان کی غیر علمی بولی تھی جو پہلی عیسیوی میں فلسطین کے عوام میں رائج تھی۔ اس نے مذکورہ نامعلوم الفاظ کے کچھ

معانی متعین کئے۔ تاہم اب بھی یونانی انجیل میں 50 الفاظ (کل متن کا ایک فی صد) ایسے ہیں جن کے معانی بھی تک نامعلوم ہیں۔

Xavier Leon-Dufour S.J. The Gospels and the Jesus of History Desclee Co.Inc. New York 1970,pp. 79-80

ارسٹ ریناں (1823-1892) نے عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب **اللغات السامية میں لکھا ہے:**

”انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ عربی زبان ہے۔ یہ زبان قدیم تاریخ میں ایک غیر معروف زبان تھی۔ پھر اچانک وہ ایک کامل زبان کی حیثیت سے ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد سے اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ ہو سکی حتیٰ کہ اس کا نہ کوئی بھی پیشہ ہے اور نہ بڑھا پا۔ وہ اپنے ظہور کے اول دن جیسی تھی دیکھی ہی آج بھی ہے۔“

قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی مستشرق کا یہ اعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ قرآن کا مجرموں ادب ہی ہے جس نے عربی زبان کو تبدیلی کے اس عام تاریخی قانون سے مستثنی رکھا جس سے دوسری تمام زبانیں متاثر ہوئی ہیں۔ مسیحی عالم جرجی زیدان (1861-1914) نے اس کا اعتراف لفظوں میں کیا ہے:

وبالجملة فإن القرآن تأثيراً في آداب اللغة العربية ليس لكتاب ديني مثله في اللغات الأخرى (آداب اللغات العربية)

محضريہ کہ عربی زبان کے ادب پر قرآن نے ایسا غیر معمولی اثر ڈالا ہے جس کی مثال کسی اور دینی کتاب کی دوسری زبانوں میں نہیں ملتی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں تبدیلی کا شکار رہی ہیں۔ حتیٰ کہ کسی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی چند سو برس پہلے کی کتاب کو لغت اور شرح کی مدد کے بغیر سمجھ

نہیں سکتا۔ اس تبدیلی کے اسباب عام طور پر دو قسم کے رہے ہیں۔ ایک، اجتماعی انقلاب، دوسرے، ادبی ارتقاء۔ عربی زبان کے ساتھ پچھلی صدیوں میں یہ دونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آسکتے ہیں۔ مگر وہ اس زبان کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ عربی زبان اب بھی وہی زبان ہے جو چودہ سو برس پہلے نزول قرآن کے وقت مکہ میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ ہومر (م 850ق م) کی الیڈ، تلسی داس (م 1623ء) کی رامائی اور شیکسپیر (1564-1616) کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور زمانہ تالیف سے لے کر اب تک مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں۔ مگر وہ ان زبانوں کو اپنی ابتدائی شکل میں محفوظ رکھ سکے جن میں وہ لکھے کئے تھے۔ ان کی زبانیں اب کلائیکس کی زبانیں ہیں نہ کہ زندہ زبانیں۔ زبانوں کی تاریخ میں قرآن واحد مثال ہے جو مختلف قسم کے علمی اور سیاسی انقلابات کے باوجود اپنی زبان کو مسلسل اسی حالت پر باقی رکھے ہوئے ہے جس حالت پر وہ نزول قرآن کے وقت تھی۔ انسانی سماج کی کوئی بھی تبدیلی اُس میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکی۔ یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقینی ثبوت ہے۔ پچھلے ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ایک مجزہ ہے، اس کے بعد اعجاز قرآن کے لئے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔

اجتماعی انقلابات

اجتماعی انقلابات کس طرح زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لئے لاطینی کی مثال بیجیئے۔ لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگرچہ اٹلیٰ بنا، مگر اصلًا یہ زبان اٹلیٰ کی پیداوار نہ تھی۔ تقریباً 12 قبل مسیح، لوہے کا زمانہ آنے کے بعد، جب وسط یورپ کے قبائل اطراف کے علاقوں میں پھیلتا ان کی ایک تعداد، خاص طور پر کوهالپ کے قبائل اٹلیٰ میں داخل ہوئے اور روم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے۔ ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جوزبان بنی، وہی ابتدائی لاطینی زبان تھی۔ تیسرا صدی قبل مسیح میں لیوبس اینڈ روئیکس نے یونانی

زبان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجمہ لاطینی میں کیا۔ اس طرح لاطینی زبان ادبی زبان کے دور میں داخل ہوئی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے لاطینی کو اپنی سرکاری زبان بنایا، میسیحیت کے پھیلاؤ سے بھی اس کو تقویت ملی۔ اس طرح مذہب اور سیاست نیز سماجی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریباً پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سینٹ آگلشین (354-430) کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی۔ قرون وسطی میں لاطینی زبان دنیا کی سب سے بڑی یعنی اقوامی زبان سمجھی جاتی تھی۔

آٹھویں صدی میں مسلم قومیں ابھریں اور انہوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قسطنطینیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ 1453 میں ترکوں نے قسطنطینیہ کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمه کر دیا۔

ہزار برس قبل جب رومی شہنشاہیت ٹوٹی تو مختلف علاقوائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا۔ یہی بولیاں، لاطینی کی آمیزش کے ساتھ بعد کو وہ زبانیں بنیں جن کو آج ہم فرانسیسی، اطالوی، اسپینی، پرتگالی، رومانوی زبانیں کہتے ہیں۔ اب لاطینی زبان صرف رومانیکی عبادتی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن (1642-1727) کی پرنسپیا کوئی اصل زبان میں پڑھنا چاہے تو اس کو قدیم لاطینی زبان سیکھنی پڑے گی۔

یہی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر زبان مختلف سماجی حالات کے تحت بدلتی رہی۔ یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بدلتی ہوئی زبان نے لے لی۔ قومی اختلاط، تہذیبی تصادم، سیاسی، انقلاب، زمانی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے ہیں تو وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ یہی تمام حالات پچھلے ڈیڑھ ہزار برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی

تبديلی نہ ہوئی۔ اس تغیر پذیر لسانی دنیا میں عربی کا غیر تغیر پذیر ہنا تمام قرآن کا مجزہ ہے۔ 70ء میں یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب (مدینہ) آئے۔ یہاں اس وقت عمالقہ آباد تھے جن کی زبان عربی تھی۔ عمالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد یہودی نسلوں کی زبان عربی ہو گئی۔ تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے مختلف تھی۔ وہ عربی اور عربی کا ایک مرکب تھی۔ یہی واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ بڑے پیکا نہ پر پیش آیا جب کہ وہ اپنے وطن عرب سے نکلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں۔ مگر اس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر نہیں پڑا۔ عربی بدستور اپنی اصل حالت پر محفوظ رہی۔

نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لئے اس قسم کا پہلا موقع خود صدر اول میں پیش آیا۔ اسلام عرب کے مختلف قبائل میں پھیلا۔ وہ لوگ اسلامی شہروں میں یک جا ہونے لگے۔ مختلف قبائل کی زبانیں تلفظ، لب و لہجہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تھیں۔ ابو عمرو بن العلاء کو کہنا پڑا تھا: مال لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا (قبیلہ حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے) حضرت عمرؓ نے ایک بار ایک اعرابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سناتو اس کو پکڑ کر آنحضرت کے پاس لائے۔ کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا کہ حضرت عمرؓ یہ سمجھ سکے کہ وہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح آنحضرت نے ایک بار ایک عرب قبیلہ کے وفد سے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی تو حضرت علیؓ کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ گوئی اور زبان بول رہے ہیں۔

اس کی بڑی وجہ بھوں کا اختلاف تھا۔ مثلاً بنو تمیم جو مشرقی مسجد میں رہتے تھے، وہ جیم کا تلفظ یا، سے کرتے تھے وہ مسجد کو مسید اور شجرات کو سرات کہتے تھے۔ اسی طرح بنو تمیم ق کو جیم بولتے تھے۔ مثلاً طریق کو طریق، صدقیق کو صدقیق، قدر کو جدر اور فا قسم کو جاسم وغیرہ۔ اس طرح مختلف قبائل کے ملنے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل شروع ہونا

چاہئے تھا جو بالآخر کیک نئی زبان کی تشكیل پر منتہی ہوتا۔ مگر قرآن کے برتر ادب نے عربی زبان کو اس طرح اپنے قبضہ میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا عمل جاری نہ ہو سکا۔ اس کے برکش وہ واقعہ پیش آیا جس کوڈاکٹ احمد حسین زیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

ما کانت لغة مُضَرَّ بَعْدِ الْاسْلَامِ لِغَةُ اُمَّةٍ وَاحِدَةٍ وَانما کانت لغة لجمیع

الشعوب التي دخلت في دين الله

اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی۔ بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے۔

پھر یہ عرب مسلمان اپنے ملک سے باہر نکلے۔ انہوں نے ایک طرف جبل الطارق تک اور دوسری طرف کا شفتر کا فتح کر دیا۔ ان علاقوں میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔ وہ فارسی، قبطی، بربری، عبرانی، سریانی، یونانی، لاطینی، آرامی زبانیں بولتے اور لکھتے تھے۔ ان میں ایسی قومیں بھی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ عراق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکز رہ چکا تھا۔ ان کا ایران سے اختلاط ہوا جو اس وقت کی دو عظیم ترین شہنشاہیتوں میں سے ایک تھا۔ ان کا تصادم روئی تھذیب اور عیسائی مذہب سے ہوا جو زبردست ترقی کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا سابقہ شام سے پیش آیا جہاں فینیقی، کنعانی، مصری، یونانی، عسانی قوموں نے اپنے آداب و اطوار کے نمایاں اثرات چھوڑے تھے۔ ان کا مقابلہ مصر سے ہوا جہاں مشرق و مغرب کے فلسفے آ کر ملے تھے۔ یہ اسباب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہوا اور ابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آجائے جیسا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا۔ مگر اتنے بڑے لسانی بھونچاں کے باوجود قرآن اس زبان کے لئے ایک ایسا برتر معیار بنارہا جس نے تمام دوسرے عوامل کو اس کے لئے بے حقیقت بنادیا۔

اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی۔ ایشیا اور افریقہ کی بھی اقوام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی دھیرے دھیرے عربی بن گئی۔ فطری طور پر ان غیر ملکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں میں تھی۔ ان کی زبان میں اپنی غیر عربی زبانوں کے اثر سے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ با شعور نہ تھے، دھیرے دھیرے وہ ان قوموں سے اثر لینے لگے۔ یہاں تک کہ خود ان کی زبان بدلتا شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ غلطیاں سب سے زیادہ تھیں۔ کیونکہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خرابی خواص تک پہنچ گئی۔ زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور بولا: تو فی ابنا و ترک بون (ہمارا باپ مر گیا اور اولاد چھوڑ گیا) اس جملہ میں ابنا کی جگہ ابونا ہونا چاہئے تھا اور بون کی جگہ بنتیں۔ اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہو گئے۔ دیگر تاریخ زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازماً ہوتا۔ مگر یہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لئے ڈھال بنتی گئی اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی باقی رہی جو قرآن نے اس کے لئے مقرر کر دی تھی۔

اس طرح کے واقعات جو عربی زبان کی پچھلی ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں بار بار پیش آئے ہیں قرآن کے معبزہ ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہیں۔ کیونکہ یہ تمام تر قرآن کی عظمت ہی کا نتیجہ تھا جس نے عربی کو کسی تغیری عمل کا معمول بننے نہ دیا۔

دوسری صدی ہجری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا قیام عربی زبان کے لئے زبردست فتنہ تھا۔ بنی امیہ کی حکومت خالص عربی حکومت تھی۔ اموی حکمران عرب قومیت اور عربی زبان و ادب کی حمایت میں جانب داری اور تعصب کی حد تک سخت تھے۔ انہوں نے اپنا پایہ تخت دمشق کو بنایا تھا جو عرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا۔ ان کی فوج، دفتری عملہ اور افسران سب عرب ہوا کرتے تھے۔ مگر عباسی حکومت میں ایرانیوں کا غالبہ ہو

گیا۔ عباسیوں نے ایرانیوں ہی کی مدد سے بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا، اس لئے ان کے نظم و نسق میں ایرانی اعاجم کا عملِ دخل ہو جانا لازمی تھا، حتیٰ کہ عباسیوں نے دارالخلافہ بغداد کو قرار دیا جو ایران سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے ایرانیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سارے معاملات میں آزادانہ کا روائیاں کرنے لگے۔ انہوں نے عرب اور عرب تہذیب کو تھارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ عربی عصیت کے کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی، ترکی، سریانی، رومی اور بربری عنان صر حکومت اور سماج کے تمام معاملات پر چھا گئے۔ عربوں اور غیر عربوں میں رشتہ داریاں قائم ہو گئیں۔ آریائی تہذیب اور سماجی تہذیب کے ملنے سے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آگیا۔ اس سرہ کے پوتے اور قدیم جا گیرداروں کے بیٹے پھر سے ابھر آئے۔ انہوں نے اپنے آباوجداد کی تہذیب کو از سر نوزندہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔

ان واقعات کا عربی زبان پر بہت گہرا اثر پڑا۔ متنبی (965ء-159ء) کے زمانہ میں عربی کی جو حالت ہو چکی تھی، اس کا اندازہ اس کے چند اشعار سے ہوتا ہے:

مَعْنَانِ لِشَعْبِ طِيبَاً فِي الْمَغَانِي	بِمَنِزَلَةِ الرَّبِيعِ مِنَ الْزَّمَانِ
ولَكُنَّ الْفَتَنَى الْعَرَبِيَّ فِيهَا	عَزِيزُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ
مَلَأَ عَبْرَ جَنَّةَ لَوْسَارَ فِيهَا	سَلِيمَانَ لَسَارَ بِتْرَجَانَ

شرح دیوان المتنبی (بیروت 1938ء) صفحہ 384

”شعب بوان (ایران) کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے اسی طرح بڑھے ہوئے ہیں جس طرح زمانہ کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل۔ مگر اس بستی میں ایک عرب جوان (میں) اپنے چہرہ، ہاتھ اور زبان کے لحاظ سے بالکل اجنی ہے۔ سلیمان جن کے تابع جنات تھے (جو جانوروں تک کی بولیاں سمجھتے تھے) اگر اس علاقہ میں آئیں تو انہیں اپنے ساتھ ترجمان رکھنا پڑے گا“، ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلسلے میں ایرانیوں کی تقلید کی۔ مگر

قرآن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لئے ڈھال بنی رہی۔ اس قسم کی کوششوں سے وقت ہل چل تو ضرور پیدا ہوئی مگر جلد ہی وہ دب کر رہ گئی اور عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔

خلیفہ متوفی (247-207ھ) کے بعد عجمی اقوام، ایرانی اور ترک، عرب علاقہ میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے۔ 656ھ میں ہلاکوخاں نے بغداد کی سلطنت کو بر باد کر دیا۔ 898ھ میں اندرس کی عرب حکومت کو یورپی اقوام نے ختم کر دیا۔ 923ھ میں مصر و شام سے فاطمیوں کا خاتمه ہو گیا اور ان عرب علاقوں کی حکومت عثمانی ترکوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ اسلامی حکومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے، بجائے قسطنطینیہ ہو گیا۔ سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار پائی۔ عربی زبان میں غیر زبان کے الفاظ اور اسالیب کثرت سے آنے لگے۔

علم عرب پر ساڑھے پانچ سو سال ایسے گزرے ہیں جب کہ تمام عرب دنیا عجمی بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے رہی، حتیٰ کہ مغل، ترک اور ایرانی حکمران عرب آثار تک کو مٹانے پر تلمہ رہے۔ عربی کے کتب خانے جلائے گئے، مدرسے اجڑائے گئے، علماء کو ذلیل کیا گیا۔ عثمانی سلطنت نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ عربوں کو ترک بنانے کی وہ مہم چلائی جس کو جمال الدین افغانی نے بجا طور پر ”تریک العرب“ کہا ہے۔ مگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکا۔ بغداد و بخارا میں تاتاریوں نے، شام میں صلیبیوں نے اور اندرس میں یورپی قوموں نے عربی زبان و ادب اور عرب تہذیب کو جونقصانات پہنچائے وہ عربی زبان کا نام و نشان مٹانے کے لئے بالکل کافی تھے۔ اس کے بعد، دوسری زبانوں کی تاریخ کے مطابق، یہ ہونا چاہئے تھا کہ عربی زبان اپنی دیگر سامی زبانوں سے مل جاتی۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ ترکوں کی جہالت اور ایرانیوں کا تعصُّب اگر حائل نہ ہوا ہوتا تو عربی زبان آج تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد زبان ہوتی۔ تاہم جہاں تک عرب علاقہ کا تعلق ہے، وہاں اس کا بدستور اپنی سابقہ شان میں باقی رہ جانا تمام ترقیاتیں ہی کا

مجزہ تھا۔ قرآن کی عظمت نے اس مدت میں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی زبان سے اپنا تعلق حکومت و اقتدار کے علی الرغم باقی رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کی۔ مثال کے طور پر ابن منظور (711ء-630ء) ابن خلدون (732ھ-808ھ) وغیرہ۔

نپو لین کے قاہرہ میں داخلہ 1798ء کے بعد جب مصر میں پریس آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہوا تو عربی زبان کوئی زندگی ملی تاہم پچھلے سیکڑوں برس کے حالات نے یہ صورت حال پیدا کر دی تھی کہ مصر و شام کے دفاتر کی زبان ترکی و عربی کا ایک مرکب تھا۔

1882 میں مصر پر انگریزوں کے قبضہ کے بعد پھر صورت حال بدلتی۔ انہوں نے عربی کے خلاف اپنی ساری طاقت لگادی۔ تمام تعلیم انگریزی کے ذریعہ لازمی کر دی گئی۔ مختلف زبانیں سکھانے کے ادارے ختم کر دیئے گئے۔ اسی طرح جن عرب علاقوں پر فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا، وہاں انہوں نے فرانسیسی کو روایج دیا۔ مگر تقریباً سو سال تک انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے غلبہ کے باوجود عربی زبان بدستور اپنی اصل حالت پر باقی رہی۔ اس میں الفاظ کی وسعت ضرور پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر ٹینک کے لئے دبابة کا لفظ رانچ ہوا جو پہلے معمولی مخفیق کے لئے بولا جاتا تھا۔ اسی طرح طرز بیان میں وسعت پیدا ہوئی۔ مثلاً نو مسلموں کے حالات پر آج ایک کتاب شائع ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لماذَا اسلامنا جب کہ اس سے پہلے سچع و متفقی ناموں کا روایج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ مغرب ہو کر رانچ ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر)۔ مگر اس سے اصل زبان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل زبان بدستور وہی آج بھی ہے جو قرآن کے نزول کے وقت مکہ میں رانچ تھی۔

ادبی ارتقاء

زبانوں میں تبدیلی کا دوسرا سبب ادیبوں اور مصنفوں کے کارنامے ہیں۔ جب بھی کوئی غیر معمولی ادیب یا مصنف پیدا ہوتا ہے، وہ زبان کو ٹھیک کرنے لاسانی اسلوب کی طرف لے

جاتا ہے۔ اس طرح زبان تبدیلی اور ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہتی ہے، اور بدلتے بدلتے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں، اس کے برعکس، ایسا ہوا کہ قرآن نے اول روز، ہی ایسا برتر معیار سامنے رکھ دیا کہ کسی انسانی ادیب کے لئے ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اس سے اوپر جاسکے۔ اس نے عربی زبان اسی اسلوب پر باقی رہی جو قرآن نے اس کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، عربی زبان میں، قرآن کے بعد کوئی دوسرا ”قرآن“ نہ لکھا جاسکا۔ اس نے زبان بھی قرآنی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہ بن سکی۔

انگریزی زبان کی مثال بیجئے۔ ساتویں صدی عیسوی میں وہ ایک معمولی مقامی بولی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں کسی علمی خیال کو ظاہر کرنا ممکن نہ تھا۔ پانچ سو برس سے بھی زیادہ عرصہ تک یہی حال رہا۔ انگریزی زبان کا معمار اول جافرے چاسر (1400-1340) پیدا ہوا تو انگلستان کی درباری زبان فرانسی تھی۔ چاسر جو لاطینی، فرانسیسی اور اطالوی زبانیں جانتا تھا، اس نے انگریزی میں اشعار کہے اور نظمیں لکھیں۔ اپنی غیر معمولی ذہانت اور دیگر زبانوں سے واقفیت کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب ہو سکا کہ انگریزی بولی کو آگے لے جائے اور اس کو ایک علمی زبان کا روپ دے۔ ہاسر (Ernest Hauser) کے الفاظ میں اس نے اپنی کامیاب نظموں کے ذریعہ انگریزی کو ایک مضبوط بڑھاوا (Firm Boost) دیا۔ اس نے ایک بولی کو ایسی طاقت ورز بنا دیا جس میں ترقی کے نئے امکانات پھیپھی ہوئے تھے۔

(ریڈرز ڈنجرنسٹ۔ جون 1975)

دو سو برس تک چاسر انگریزی شاعروں اور ادیبوں کا رہنمایا بنا رہا۔ یہاں تک کہ ولیم شکسپیر (1558-1625) کا ظہور ہوا جس نے چاسر سے زیادہ برتر ادب کا نمونہ پیش کیا۔ اپنے اشعار اور ڈراموں کے ذریعہ اس نے انگریزی کو دوبارہ ایک نیا معیار عطا کیا۔ اب انگریزی زبان ایک قدم اور آگے بڑھی اور ترقی کی نئی شاہراہ پر سفر کرنے لگی۔ یہ دور تقریباً ایک سو برس تک رہا، یہاں تک کہ سائنس کے ظہور نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح

ادب میں بھی، دوبارہ نئے معیار قائم کرنے شروع کئے۔ اب شعر کے بجائے نثر، اور افسانہ نویسی کے بجائے واقعہ نگاری کو اہمیت ملنے لگی۔ اس کے اثر سے انگریزی میں سائنس فک اسلوب وجود میں آیا، سویفت (1667-1745) سے لے کرٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (1888-1965) تک درجنوں ادیب پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کو وہ نیا معیار عطا کیا جس سے اب ہم گزر رہے ہیں۔

یہی عمل تمام زبانوں میں ہوا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا زیادہ بہتر لکھنے والا ادیب یا ادیبوں کا گروہ اٹھتا ہے اور وہ زبان کو نیا اسلوب دے کر نئے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح زبان بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ چند صد یاں گزر نے کے بعد اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اگلے لوگ پچھلی زبان کو لغات اور شرح کے بغیر ہی نہ سکیں۔

اس کلیے سے صرف ایک زبان مستثنی ہے اور وہ عربی زبان ہے۔ یہی واقعہ قرآن کے اس دعوے کے ثبوت کے لئے کافی ہے کہ کوئی شخص قرآن جیسی کتاب وضع نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پچھلی صدیوں میں متعدد لوگوں نے قرآن کے جواب میں دوسرا قرآن لکھنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ مثال کے طور پر مسلمہ بن حبیب، طلیحہ بن خویلد، نضر بن الحارث، ابن الراؤندی، ابوالعلاء المعری، ابن المفعع، متینی وغیرہ۔ اس سلسلے میں ان کی جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں، وہ اتنی سطحی ہیں کہ قرآن کے مقابلہ میں ان کو رکھنا بھی مضکمہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً مسلمہ کے ”قرآن“ کا ایک حصہ یہ تھا:

يأضدق عنقى ماتنقين، فلا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين
اے مینڈ کی جتنا ٹرا سکے ٹرالے، تو نہ پانی کو گدلا کرے گی نہ پینے والوں کو روکے گی۔
اسی طرح مسلمہ کا ایک اور ”الہام“ یہ تھا:

لقد انعم اللہ علی الحبلی، اخرج منها نسمة تسعی، من بين صفاق و حشا
تہذیب سیرۃ ابن ہشام، جلد دوم، صفحہ 121

اللہ نے حاملہ عورت پر بڑا انعام کیا ہے، اس کے اندر سے دوڑتی ہوئی جان نکالی، جھلی اور پیٹ کے اندر سے۔

تاہم اس سے بھی زیادہ بڑا ثبوت وہ مسلسل واقعہ ہے جس کو ارنست ریناں نے ایک لسانی عجوہ قرار دیا ہے جس طرح دوسری زبانوں میں زبان آور پیدا ہوئے۔ اسی طرح عربی میں بھی شعر اور ادب اور مصنفوں پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں، مگر اس پوری مدت میں کوئی ایسا زبان داں نہ اٹھا جو قرآن سے برتر ادب پیش کر کے عربی میں نیا لسانی معیار قائم کرتا اور زبان کو نئے مرحلہ کی طرف لے جاتا۔ اس لئے زبان اسی مرحلہ ترقی پر قائم رہی جو قرآن نے اس کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ اگر دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے جو قرآن کے مقابلہ میں زیادہ اعلیٰ ادب کا نمونہ پیش کرتے تو ناممکن تھا کہ زبان ایک مقام پر رکی رہے۔

قرآن کی مثال عربی زبان میں ایسی ہی ہے جیسے کسی زبان میں آخری اعلیٰ ترین ادیب اول روز ہی پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا ادیب نہیں ابھرے گا جو زبان میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ قرآن کے نزول کے زمانہ میں جو زبان عرب میں رائج تھی، اس کو ترقی دے کر قرآن نے اعلیٰ ترین ادب کی شکل میں ڈھال دیا۔ اس کے بعد اس میں تبدیلی کا کوئی سوال نہ تھا۔

قرآن نے عربی کے روایتی اسالیب پر اضافے کر کے اس میں توسعی کا دروازہ کھولا۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں لفظ ”احد“ کا استعمال۔ عربی زبان میں اس سے پہلے یہ لفظ مضاف مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا آیا تھا جیسے یوم الاحد (ہفتہ کا دن) یا نفی عام کے لئے جیسے ما جاء نی احد (میرے پاس کوئی نہیں آیا) وغیرہ مگر قرآن نے یہاں لفظ احاد کو ہستی باری تعالیٰ کے لئے وصف کے طور پر استعمال کیا جو عربی زبان میں غیر معمولی تھا۔

عربی میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل کئے۔ مثلاً استبرق (فارسی) قسورہ (جبشی)

صراط (یونانی) یم (سریانی) غساق (ترکی) قطاس (رومی) ملکوت (آرامی) کافور (ہندی) وغیرہ مکہ کے مشرکین نے جب کہا تھا کہ وما الرحمن (فرقان۔ 60) تو اس کا لسانی پس منظر یہ تھا کہ رحمان کا لفظ عربی نہیں یہ سماں اور حجیری زبان سے آیا ہے۔ یمن اور جدشہ کے نصرانی اللہ کو رحمٰن کہتے تھے۔ قرآن نے اس لفظ کی تعریف کر کے اس کو اللہ کے لئے استعمال کیا تو مکہ والوں کو وہ اجنبی محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا ”رحمان کیا“، قرآن میں عربی الاصل الفاظ ایک سو سے زیادہ شمار کئے گئے ہیں جو فارسی، رومی، بھٹی، جوشی، عبرانی، سریانی قبطی وغیرہ زبانوں سے لئے گئے ہیں۔

قرآن اگرچہ قریش کی زبان میں اترا۔ مگر دوسرے قبلی عرب کی زبان بھی اس میں شامل کی گئی۔ مثلاً قرآن میں ”فاطر“ کا لفظ آیا ہے، عبداللہ بن عباسؓ جو ایک قریشی مسلمان تھے، کہتے ہیں:

ما كنت ادری معنی (فاطر السماوات والارض حتى سمعت اعرابیا
يقول لبني رابتا حفرها: أنا فطرتها
میں فاطر السماوات والارض کے معنی نہیں سمجھتا تھا یہاں تک کہ ایک اعرابی جس نے
ایک کنوں کھونا شروع کیا تھا، کہا ان افظُرُهَا۔ تب میں اس کو سمجھا۔
ابو ہریرہؓ کہتے ہیں:

ما سمعت السکین الافی قوله تعالیٰ (یوسف: 31)
ما کنا نقول الا المدیة
میں نے سکین (چھری) کا لفظ پہلی بار قرآن کی آیت سے جانا۔ اس سے پہلے ہم اس کو مدیہ کہا کرتے تھے۔

بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کے مختلف لمحے عرب قبلی میں راجح تھے۔ قرآن نے ان میں سے فصح ترلفظ کا انتخاب کر کے اس کو اپنے ادب میں استعمال کیا۔ مثلاً قریش کے

یہاں جس مفہوم کے لئے اعلیٰ کا لفظ تھا اس کے لئے حمیرین کے یہاں انٹی بولا جاتا تھا۔ قرآن نے انٹی کو چھوڑ کر اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ اسی طرح شنا تر کی جگہ اصالح کتع کی جگہ ذہب وغیرہ۔ قرآن اصلاح فریش کی زبان میں اتراء ہے۔ مگر بعض مقامات پر فریش کی زبان کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لا یلتکم من اعمالِ کحمد بنی عبس کی زبان ہے۔ (الاتفاق)

اس طرح قرآن نے الفاظ اور اسالیب کوئی دستعفیں اور نیا حسن دے کر ایک اعلیٰ عربی ادب کا نمونہ قائم کر دیا۔ نیмонہ اتنا بلند تھا کہ اس کے بعد کوئی ادیب اس سے برتر معیار پیش نہ کر سکا۔ اس لئے عربی زبان ہمیشہ کے لئے قرآن کی زبان ہو کر رہ گئی۔

عربوں میں جو امثال اور تعبارات قدیم زمانہ سے راجح تھیں، ان کو قرآن نے زیادہ بہتر پیرایہ میں ادا کیا۔ مثلاً زندگی کی بے شباتی کو قدیم عربی شاعر نے ان لفظوں میں نظم کیا تھا:

كل ابن انشي وان طالت سلامه يو ما على آلة حدباء همحول
ہر آدمی خواہ وہ کتنے ہی عرصہ تک صحیح و سالم رہے، ایک دن بہر حال وہ تابوت کے اوپر اٹھا یا جائے گا۔ قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں ادا کیا: كُلّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمُوْتَ
(آل عمران: 185)

قدیم عرب میں قتل و غارت گری سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس صورت حال نے چند فقرے پیدا کئے تھے جو اس زمانہ میں فصاحت کا کمال سمجھے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل کا علاج قتل ہے۔ اس تصور کو انہوں نے حسب ذیل مختلف الفاظ میں موزوں کیا تھا:

قتلُ الْبَعْضِ رَاخِيَةً لِلْجَمِيعِ	بعض لوگوں کا قتل سب کی زندگی ہے
آكُنْثُرُو الْقُتْلَ لِيُقَيِّلَ الْقُتْلُ	قتل کی زیادتی کروتا کہ قتل کم ہو جائے
الْقُتْلُ أَنْفَى لِلْقُتْلِ	قتل کو سب سے زیادہ روکنے والی چیز قتل ہے
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأْوِي	قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں ادا کیا: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأْوِي

الْأَلْبَابُ لِعَلَّكُمْ تَتَقْوَنَ^④

قرآن سے پہلے عربی میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں شعر کو بلند مقام حاصل تھا۔ لوگ شعر کے اسلوب میں اپنے خیالات کو ظاہر کرنا کمال سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس عام روشن کو چھوڑ کر نشر کا اسلوب اختیار کیا۔ یہ واقعہ بجائے خود قرآن کے کلام الٰہی ہونے کا ثبوت ہے۔ کیوں کہ ساتویں صدی کی دنیا میں صرف خدائے لم یزل ہی اس بات کو جان سکتا تھا کہ انسانیت کے نام ابدی کتاب سمجھنے کے لئے اسے نشر کا اسلوب اختیار کرنا چاہئے نہ کہ شعر کا، جو مستقبل میں غیر اہم ہو جانے والا ہے۔ اسی طرح پہلے کسی بات کو مبالغہ کے ساتھ کہنا ادب کا کمال سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے تاریخ ادب میں پہلی بار واقعہ نگاری کو روایج دیا۔ پہلے جنگ اور عاشقی سب سے زیادہ مقبول مضامین تھے۔ قرآن نے اخلاق، قانون، سائنس، نفیسیات، اقتصادیات، سیاست، تاریخ وغیرہ مضامین کو اپنے اندر شامل کیا۔ پہلے قصہ کہانی میں بات کی جاتی تھی، قرآن نے براہ راست اسلوب کو اختیار کیا۔ پہلے قیاسی منطق کو ثبوت کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا، قرآن نے علمی استدلال کی حقیقت سے دنیا کو باخبر کیا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں اتنے بلند اسلوب کلام میں بیان ہوئیں کہ اس کے مثل کوئی کلام پیش کرنا انسان کے امکان سے باہر ہے۔

قدیم عرب میں یہ مقولہ تھا کہ ان اعذب الشعراً کذبه (دب سے زیادہ میٹھا شعروہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو) مگر قرآن نے ایک نیا طرز بیان (رجم: ۲۳) پیدا کیا جس میں فرضی مبالغوں کے بجائے واقعیت تھی، اس نے حقیقت پسند ادب کا نمونہ پیش کیا۔ قرآن عربی زبان و ادب کا حاکم بن گیا۔ ادب جاہلی کا جو سرمایہ آج محفوظ ہے، وہ سب قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے اور اس کو سمجھنے کے لئے جمع کیا گیا۔ اسی طرح صرف ونجو، معانی و بیان، لغت و تفسیر، حدیث و فقہ، علم کلام، سب قرآن کے معانی و مطالب کو حل کرنے اور اس کے اوامر و نواہی کی شرح کرنے کے لئے وجود میں آئے۔ حتیٰ کہ عربوں نے جب تاریخ و

جغرافیہ اور دیگر علوم کو اپنایا تو وہ بھی قرآن کے احکام و ہدایت کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی ایک کوشش تھی قرآن کے سواتار نجی میں کوئی دوسری مثال نہیں کہ کسی ایک کتاب نے کسی قوم کو اتنا ممتاز اور بدیہی

قرآن نے عربی زبان میں تصرف کر کے جو اعلیٰ تر ادب تیار کیا، وہ اتنا ممتاز اور بدیہی ہے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا شخص کسی بھی دوسری عربی کتاب کی زبان سے قرآن کی زبان کا مقابل کر کے ہر وقت اسے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن کا الہی ادب عام انسانی ادب سے اتنا ممتاز ہے کہ کوئی عربی داں اس کو تسلیم کرنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں ہم مثال کے لئے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے اس فرق کا بخوبی اندازہ ہو سکے گا۔ طفطاوی جو ہری لکھتے ہیں:

”13 جون 1932 کو میری ملاقات مصری ادیب استاذ کامل گیلانی سے ہوئی۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میں امریکی مستشرق فنکل کے ساتھ تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ادبی رشتہ سے گہرے تعلقات تھے۔ ایک دن انہوں نے میرے کان میں چکپے سے کہا ”کیا تم بھی انہیں لوگوں میں ہو جو قرآن کو ایک مجذہ مانتے ہیں؟“ یہ کہہ کرو وہ ایک معنی خیز ہنسی ہنسنے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس عقیدہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ محض تلقید اسلام ان اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ایسا تیر مارا ہے جس کا کوئی روک نہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آگئی۔ میں نے کہا: قرآن کی بلاغت کے بارے میں کوئی حکم لگانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس جیسا کلام مرتب کر سکتے ہیں۔ تجربہ کر کے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ویسا کلام تیار کرنے پر قادر ہیں یا نہیں۔

اس کے بعد میں نے استاد فنکل سے کہا کہ آئے ہم ایک قرآنی تصور کو عربی الفاظ میں مرتب کریں۔ وہ تصور یہ کہ ”جہنم بہت وسیع ہے“، انہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور

ہم دونوں قلم کا غذ لے کر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے مل کر ”تقریباً“ میں جملے عربی کے بنائے جس میں مذکورہ بالامفہوم کو مختلف الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ جملے یہ تھے:

ان جہنم واسعہ جدا

ان جہنم لا وسح هما تظنون

ان سعة جہنم لا یتصورها عقل الانسان

ان جہنم لتسع الدنیا كلها

ان الجن والانس اذا دخلوا جہنم لتسعهم ولا تضيق بهم

کل وصف في سعة جہنم لا يصل الى تقریب شئ من حقيقتها

ان سعة جہنم لتصغر امامها سعة السماوات والارض

کل ما خطرب بالک في سعة جہنم فانه لا رجب منه وادسع

سترون من سعة جہنم مالم تكونوا التحلیوا به او تتصوروه

مہما حاولت ان تخیل سعة جہنم فانہ مقصروں تصل الى شئ من حقيقتها

ان البلاغة المعجزة للتقصير تعجز اشد العجز عن وصف سعة جہنم

ان سعة جہنم قد تختلط احلام الحالبين وتصور المتصورین

متى امسكت بالقلم وتصدیت لوصف سعة جہنم احسست بقصورك وعجزك

ان سعة جہنم لا يصفها وصف ولا يتخيلها وهم تدور بحسبان

کل وصف لسعة جہنم انما هو فضول وهذیان

ہم دونوں جب اپنی کوشش کمکل کر چکے اور ہمارے پاس مزید عبارت کے لئے الفاظ نہ رہے تو میں نے پروفیسر فنکل کی طرف فاتحانہ نظرؤں سے دیکھا ”اب آپ پر قرآن کی بلاغت کھل جائے گی۔“ میں نے کہا۔ ”جب کہ ہم اپنی ساری کوشش صرف کر کے اس مفہوم کے لئے اپنی عبارتیں تیار کر چکے ہیں۔ پروفیسر فنکل نے کہا: کیا قرآن نے اس مفہوم کو ہم سے زیادہ بلطف اسلوب میں ادا کیا ہے۔ میں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں بچے ثابت

ہوئے ہیں۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، قرآن میں کیا ہے۔ میں نے سورہ ق کی یہ آیت پڑھی: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَئَتِ وَتَقُولُ هَلِ مِنْ مَزِيدٍ۔ یہ سن کر ان کا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ وہ اس بلا غث کو دیکھ کر حیران گئے۔ انہوں نے کہا:

صدقت نعم صدقت و أنا أقر لك زلك مغتبطا من كل قلبي۔

آپ نے سچ کہا با کل سچ۔ میں کھلے دل سے اس کا اقرار کرتا ہوں۔

میں نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے حق کا اعتراف کر لیا۔ کیوں کہ آپ ادیب ہیں اور اسالیب کی اہمیت کا آپ گو پورا اندازہ ہے۔ یہ مستشرق انگریزی، جرمن، عبرانی، اور عربی زبانوں سے بخوبی واقف تھا۔ لڑپچر کے مطالعہ میں اس نے اپنی عمر صرف کرداری تھی۔

اشیخ طنطاوی جوہری، الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، مصر 1351ھ جز 23، صفحات: 12-111

اصحاب رسول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب نہ تھے بلکہ وہ خود تاریخ رسالت کا لازمی جزء تھے۔ اللہ نے ان کو اس لئے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے معاون ہیں۔ وہ آپؐ کے شریک کاربن کراس ربانی مشن کو تمکیل تک پہنچا گئیں جو آپؐ کے ذریعہ پورا کیا جانا مطلوب تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا: ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کی اقامت کے لئے چون لیا تھا (اختارہم اللہ لصحبة نبیہ ولا قامة دینہ)

اصحاب رسول کو ان کی کئی خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا، اس سلسلے میں اس کے چند پہلو یہاں مختصر ادرج کئے جاتے ہیں۔

دین ان کے لئے محبوب چیز بن گیا تھا

اصحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لئے ایک محبوب شے بن گیا تھا (الحجرات: 7) محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے۔ اور جب کسی چیز سے محبت کے درجہ کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لئے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحیر ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہربات کو جان لیتا ہے۔ اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کارنہ دیا گیا ہو مگر اس کا ذہن خود بتادیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب شے کے لئے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے (التوہب: 46)

محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دل چسپی کی سطح کا تعلق۔ یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے۔ اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے

بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے۔ اسلام کو کوئی نقصان پہنچ تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوش گوارجنسن کر تڑپ اٹھتا ہے اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اس کی تلافی نہ کر لے۔

کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اس کی خاطر ہرقابنی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت اور تقاضوں کو وہ بتائے بغیر جان لیتا ہے۔ اس کی بات کو پانے کے لئے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ اس کے راستے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لئے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا۔

جب آدمی کسی معاملہ کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہ زیادہ سمجھانے کی۔ اس کا قلبی تعلق اس کے لئے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے۔ وہ کسی معاوضہ کی امید کے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لئے لٹا دیتا ہے۔ اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر تکلیف کو اس طرح سہہ لیتا ہے جیسے کہ وہ کوئی تکالیف ہی نہ ہو۔

اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے۔ وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق نہیں تھے۔ ان کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ ”محبت“ کے درجے کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے وہی تعلق ان کو دین و ایمان سے ہو گیا تھا۔ عام آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جواہمیت دیتا ہے وہی اہمیت وہ اسلام کے مستقبل کی تعمیر کو دینے لگے تھے۔ وہ دین کے لئے اپنا حصہ ادا کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی دل چسپی کے معاملہ میں اپنے آپ گوا رہا اپنے اشائے کو استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔

پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچانا

صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا۔ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح پر صرف ایک بار پیش آیا ہے۔ قدیم تاریخ کے ہر دور میں یہ قصہ پیش آیا کہ رسولوں کے مخالفین نے ان کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ باطل میں ہے کہ ”تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا“، یہ نبیوں کو ناچیز جانے والے کون لوگ تھے۔ یہ لوگ تھے جو وحی و رسالت کو مانتے تھے۔ نبیوں کے نام پر ان کے یہاں ادارے قائم تھے اور بڑے بڑے جشن ہوتے تھے۔ مگر یہ سب کچھ قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھا۔ جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا، اس کے لئے ان کے پاس استہزا و تمسخر کے سوا کچھ نہ تھا۔

یہود نے حضرت مسیح کا انکار کیا، حالانکہ وہ موسیٰ کو مانتے تھے۔ نصاریٰ نے حضرت محمد کا انکار کیا، حالانکہ وہ حضرت مسیح کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے۔ اسی طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے اور آپؐ کو گھر سے نکلا، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجہ میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے۔ وہ کسی قوم کے قومی اثاثہ کا ایک لازمی جزء ہوتی ہے۔ کسی قوم میں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لئے ایک طرح کا مقدس ہیر و بن جاتا ہے۔ اس کو ماننا اپنے قومی تشخیص کو قائم کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا۔ مگر وقت کے نبی کی نبوت ایک ممتاز نبوت ہوتی ہے۔ وہ النبیس کے پردہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو ماننے کے لئے ظواہر کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا ساتھ دینے کے لئے اپنی اناکو فن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا بر سر حق ہونا ابھی اختلافی ہو، جس کے

بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہ ہوئی ہوں۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کوئی شخص تاریخی رسول کو مانتا ہے۔

غزوہ خندق میں جب محاصرہ شدید ہوا اور معمولی ضروریات کی فراہمی ناممکن ہو گئی تو ایک مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ محمدؐ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسری اور قیصر کے خزانے حاصل کریں گے اور اب یہ حال ہے کہ ہمارا ایک شخص بیت الخلا جانے کے لئے بھی محفوظ نہیں (کان محمد یعدنا ان ناکل کنو ز کسری و قیصر واحد نالا یہ من ان یزدھب الی الغائط، سیرۃ ابن ہشام جزء ثانی صفحہ 144) غزوہ خندق کے وقت رسول اللہ کا وعدہ مخفی ایک لفظی وعدہ تھا، آج یا ایک تاریخی واقعہ بن چکا ہے۔ صحابہ نے اس وعدہ کے تاریخی واقعہ بننے سے پہلے رسول کی عظمت کو مانا۔ ہم آج اس وعدہ کے تاریخی واقعہ بننے کے بعد رسول کی عظمت کو مان رہے ہیں۔ دونوں ماننے میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں۔ آج ایک غیر مسلم محقق بھی پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہنے پر مجبور ہے مگر آپؐ کی زندگی میں آپؐ کی عظمت کو پہچاننا اتنا مشکل تھا کہ صرف وہی لوگ اس کو پہچان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے خصوصی توفیق ملی ہو۔

قرآن کو دور نزاع میں اپانا

سیرت کی کتابوں میں صحابہ کا دعویٰ طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے نازل شدہ حصہ کو لے لیتے اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے (فرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن) چنانچہ مدینہ میں جو صحابہ تبلیغ کے لے گئے ان کو وہاں مقرری (قرآن پڑھنے والا) کہا جاتا تھا۔ یہ بات آج کے ماحول میں بظاہر انوکھی معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر چودہ سو سال کی تاریخ کو حذف کر کے آپؐ اسلام کے ابتدائی دور میں پہنچ جائیں اور اس وقت کے حالات میں اسے دیکھیں تو یہ اتنا نوکھا واقعہ معلوم ہو گا کہ نہ اس سے پہلے وہ کبھی جماعتی سطح پر پیش آیا اور نہ اس کے بعد۔

آج جب ہم لفظ ”قرآن“ بولتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک ایسی عظیم کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے چودہ صدیوں میں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کیا ہے کہ آج کروروں انسان اس کو خدا کی کتاب مانے پر مجبور ہیں۔ آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا کسی آدمی کے لئے فخر و اعزاز کی بات بن چکی ہے۔ مگر زمانہ نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حیثیت نہ تھی۔ عرب میں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے پرانے زمانہ کے قصے کہانیوں کو جوڑ کر ایک کتاب بنالی ہے۔ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ایک کتاب بنالیں:

لَوْنَشَاءُ لَقْلُنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (الانفال: 31)

کوئی قرآن میں تکرار کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کوئی خاص کتاب نہیں۔ محمدؐ کے پاس بس چند باتیں ہیں، انہیں کو وہ صح شام دہراتے رہتے ہیں: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فِيهِيْ ثُمَّلِيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان: 5)

ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا گویا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعہ کو حال میں دیکھنا تھا۔ یہ ایک پچھی ہوئی حقیقت کو اس کے ثابت شدہ بننے سے پہلے پالینا تھا۔ پھر ایسے وقت میں قرآن کو کتاب دعوت بنا لینا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اپنی عظمت کو کھو کر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے۔ یہ اپنے مقابلہ میں دوسری شخصیت کا اعتراض کرنا ہے، اور وہ بھی ایسی شخصیت کا جس کی حیثیت ابھی مسلم نہ ہوئی ہو۔ عرب کے مشہور شاعر لبید نے اسلام قبول کیا اور شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی۔ لبید نے کہا: ابعد القرآن (کیا قرآن کے بعد بھی) آج کوئی آدمی شاعری چھوڑ کر یہ جملہ کہے تو اس کو زبردست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ مگر لبید کے قول میں آج کے شاعر کے قول میں کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ آج کا شاعر تاریخ کے اختتام پر یہ جملہ کہہ رہا ہے جب کہ لبید نے تاریخ کے آغاز پر یہ جملہ کہا تھا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُتِلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ ذَرَجَةً
مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا إِنْ بَعْدَ وَقْتَلُوا (الحدید: 10)

تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔

غیر قائم شدہ صداقت کے لئے مال لٹانا

ابن ابی حاتم نے ایک صحابی کا واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ لِمَا نَزَّلْتَ هَذَا الْإِلَيْهِ (مِنْ ذَاذِي يَقْرَضِ اللَّهِ)
قَرْضًاً حَسْنًاً فِي ضَاعْفَهِ لَهُ، (الحدید ۱۱) قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحُ الْأَنْصَارِيُّ يَارَسُولَ
اللَّهِ وَانَّ اللَّهَ لِي رِيْدَمَنَا الْقَرْضَ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاحَ، قَالَ ارْنِي يِدَكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَنَادَهُ يِدَهُ، قَالَ فَانِي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطَيْ، وَلَهُ حَائِطَ فِيهِ
سَتِمَائَةُ نَخْلَةٍ وَأَمْ الدَّحْدَاحَ فِيهِ وَعِيَالَهَا، قَالَ فَجَاءَ أَبَا الدَّحْدَاحَ فَنَادَاهَا يَا
أَمَ الدَّحْدَاحَ قَالَتْ لِبَيْكَ، قَالَ اخْرُجْ فَقَدْ أَقْرَضْتَهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَ فَقَالَتْ لَهُ
رَبِّ بَيْعَكَ يَا أَبَا الدَّحْدَاحَ وَنَقْلَتْ مِنْهُ مَتَاعَهَا وَصَبِيَّاهَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ كَمْ مِنْ عَذْقَرَدَاحٍ فِي الْجَنَّةِ لَبِي الدَّحْدَاحَ (تفسیر ابن
کثیر)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو حضرت ابو دحداح انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے خدا کے رسول، کیا اللہ واقعی ہم سے قرض چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دحداح۔ انہوں نے کہا اے خدا کے رسول، اپنا ہاتھ لا یئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ابو دحداح نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں چھ سو درخت تھے۔ اس وقت ان کی

بیوی ام وحداح اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھیں۔ وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ اے ام وحداح۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو وحداح نے کہا باغ سے نکلو، کیونکہ اس کو میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ بیوی نے کہا: اے ابو وحداح آپ کی تجارت کا میاب رہی۔ اور اس کے بعد اپنے سامان اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو وحداح کے لئے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھل دار درخت ہیں۔

یہ ایک نمائندہ واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لئے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے۔ یہاں دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ واقعہ چودہ سو سال پہلے کا ہے۔ آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیز مل جائے۔ مگر اصحاب رسول کے زمانے میں صورت حال بالکل مختلف تھی۔ اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال لٹانا ماحول میں دیوالی کا خطاب پانے کا ذریعہ تھا۔ وہ اونچے بیناروں پر نمایاں ہونے کے بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم معنی تھا۔ اس وقت ایسا اقدام ایک ایسی تحریک کے خانہ میں لکھا جانے والا تھا جس کی صداقت ابھی مشتبہ تھی جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں۔ یہ ایک غیر مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرنا تھا، جب کہ آج کا آدمی ایک مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرتا ہے۔

اپنا تاج دوسرا کے سر پر رکھنا

مدینہ میں عبد اللہ بن ابی بہت عاقل اور صاحب شخصیت آدمی تھا، وہ مدینہ کا سب سے زیادہ ممتاز سردار سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ مدینہ کے باشندوں کو اپنا اختلاف و انتشار ختم کرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عبد اللہ بن ابی کو منتخب کیا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں اور اس کی

علامت کے طور پر اس کو ایک تاج پہننا تھیں (فاما عبد اللہ بن ابی فکان قومہ قد نظموا لله الخرز لیتیو جوہ ثم یمکلکوہ علیہم، سیرۃ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 216)

عبد اللہ بن ابی کی تاج پوشی کا انتظام مکمل ہو چکا تھا کہ عین اس وقت اسلام مدینہ میں پہنچ گیا۔ مدینہ کے باشندوں کی نظرت نے اس کی صداقت کی گواہی دی اور اسلام گھر گھر میں پہنچ لگا۔ اس کے بعد مدینہ کے باشندوں کا ایک نمائندہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپؐ کی زبان سے آپؐ کا پیغام سننا۔ انہیں نظر آیا کہ مدینہ کی اجتماعی تنظیم کے لئے انہیں جو شخصیت درکار ہے وہ زیادہ بہتر طور پر محمد بن عبد اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کی طرف سے آپؐ کو پیش کش کی کہ آپؐ مدینہ آئیں اور وہاں ہمارے سردار بن کر رہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔

یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ یہ اپنا تاج دوسرے آدمی کے سر پر کھدینے کے ہم معنی تھا۔ قدیم قبائلی دور میں ایسا کوئی واقعہ بے حد نادر واقعہ تھا۔ اپنی قوم یا قبیلہ سے باہر کسی آدمی کو اپنا غیر مشروط سردار بنالینا ہمیشہ انسان کے لئے مشکل ترین کام رہا ہے اور قدیم زمانہ میں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ مزید یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ”محمد“ اس پر عظمت ہستی کا نام نہ تھا جس سے ہم آج واقف ہیں۔ اس وقت محمد ایک ایسے انسان تھے جن کو ان کے اہل وطن نے نکال دیا تھا۔ جن کے ساتھ قومی عصیت اور تاریخی عظمت شامل نہ ہوئی تھی۔ جونہ صرف ممتاز شخصیت تھے بلکہ ایک لٹے ہوئے بے گھر انسان تھے۔ جن کو اپنا سب کچھ دے دنیا تھا اور ان سے پانا کچھ بھی نہ تھا۔ بیسویں صدی میں کسی برنا روڈشا کے لئے بہت آسان ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے لئے یورپ کی سرداری کی پیش کش کرے۔ مگر چھٹی صدی عیسوی میں کسی کے لئے اس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ وہ آپؐ کو پیغمبر مان کر آپؐ کو اپنا اجتماعی امام بنالے۔

اپنی محدودیت کو جاننا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرتے۔ آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور معاملہ کو بیان کر کے فرماتے کہ اشیر واعلیٰ ایہاں اس (اے لوگو مجھے مشورہ دو) آپ ظاہر سب سے مشورہ طلب کرتے۔ مگر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی رہتی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر مختصر اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کھڑے ہوتے اور مختصر کچھ بول کر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد معمولی طور پر کچھ لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا۔ آپؐ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپؐ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کرتے، اب یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عمرؓ کھڑے ہوتے اور مختصر طور پر اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے، اس کے بعد چند لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ کے بعد غیر اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ صورت باقی نہ رہی۔

یہ ظاہراً ایک سادہ سی بات ہے مگر یہ اتنی اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پایا جاتا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو۔ یہ طرز عمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی اتنا خود شناس ہو جائے کہ وہ اپنی کمیوں اور محدودیتوں کو جانے لگے۔ وہ دوسرا کے ”ہے“ کے مقابلہ میں اپنے ”نہیں“ سے واقف ہو جائے۔ وہ اپنے کو اس حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے۔

اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جس ابو بکرؓ و عمرؓ کے ساتھ پیش آیا وہ ابو بکرؓ و عمرؓ وہ نہ تھے جن کو آج ہم جانتے ہیں، آج ہم تکمیل تاریخ والے ابو بکرؓ و عمرؓ کو جانتے ہیں۔ مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکرؓ و عمرؓ کو جانتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے معاصرین کے لئے صرف ان میں سے ایک تھے۔ جب کہ آج وہ ہمارے لئے گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو

ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ واقعہ کو دیکھتا ہے۔ ”ابو بکر و عمر“، کوتارخ بننے کے بعد جاننا انتہائی آسان ہے۔ لیکن ”ابو بکر و عمر“، کوتارخ بننے سے پہلے جاننا اتنا ہی مشکل ہے۔ اصحاب رسول وہ لوگ تھے جو اس مشکل ترین معیار پر پورے اترے۔

ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لینا

غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ایک دستے حضرت عمر و بن العاص کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمر و بن العاص نے وہاں پہنچ کر دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم کیا تو اپنا دستہ انہیں اس کے لئے ناکافی معلوم ہوا۔ انہوں نے ایک مقام پر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ موجودہ فوج ناکافی ہے، مزید کمک روانہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مهاجرین میں سے دوسرا دمیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سرکردگی میں اس کو روانہ فرمایا:

حضرت ابو عبیدہؓ جب اپنے دستہ کو لے کر منزل پر پہنچے اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں دستوں کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر و بن العاص نے کہا کہ دوسرا دستہ میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے اس لئے اصلاً میں ہی دونوں کا امیر ہوں۔ حضرت ابو عبیدہؓ کے ساتھی اس سے متفق نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یا تو ابو عبیدہؓ دونوں دستوں کے مشترک امیر ہوں یا دونوں دستوں کا امیر الگ رہے۔ جب اختلاف بڑھا تو ابو عبیدہؓ بن الجراح نے کہا: اے عمر، جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ آپؐ نے کہا کہ جب تم اپنے ساتھی سے ملوتو ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا۔ اس لئے خدا کی قسم اگر تم میری نافرمانی کرو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا (تعلم يا عمر و ان آخر ما عهد الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان قال: اذا قدمت على صاحبك فتطا و عا ولا تختلفا - وانك و الله ان عصيتنى لا

طعتک، رواہ بیہقی و ابن عساکر)

حضرت ابو عبیدہؓ کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ ذمہ داری کو عمر و بن العاص پر ڈال کر ان سے لامتنا ہی بحث کرتے رہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو وہ بہت سے ایسے الفاظ پاسکتے تھے جن میں ان کا اپنا وجود بالکل درست اور دوسرے کا وجود بالکل باطل دکھائی دے۔ مگر اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ساری ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی۔ انہوں نے مسئلہ کو یہ طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ اجتماعی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی چلتی ہی اس وقت ہے جب کہ اس کے افراد میں اتنی بلندی ہو کہ وہ حقوق کی بحث میں پڑے بغیر اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی جرأت رکھتے ہوں۔ جہاں یہ مزانج نہ ہو وہاں صرف آپؐ س کا اختلاف جنم لیتا ہے نہ کہ آپؐ س کا اتحاد۔

شکایات سے اوپر اٹھ کر سوچنا

خالد بن الولید بے حد بہادر تھے۔ ان کے اندر غیر معمولی فوجی قابلیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت تک وہ مسلسل اسلامی فوج کے سردار ہے۔ تاہم حضرت عمرؓ کو ان کی بعض عادتیں پسند نہ تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ ان کو سرداری کے عہدہ سے ہٹا دیا جائے۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے ان کے مشورہ کو نہیں مانا۔ مگر حضرت عمرؓ کو اپنی رائے پر اتنا اصرار تھا کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت خالدؓ کو سرداری سے معزول کر کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت دے دی۔

اس وقت حضرت خالدؓ شام کے علاقہ میں فتوحات کے کارنا مے دکھار ہے تھے۔ عین اس وقت خلیفہ ثانی نے انہیں معزول کر کے ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو ان کے اوپر سردار لشکر بنا دیا۔ اس کے بعد فوجیوں کی ایک تعداد خالدؓ بن ولید کے خیمہ میں جمع ہوئی اور ان سے کہا کہ ہم آپؐ کے ساتھ ہیں، آپؐ خلیفہ کا حکم نہ مائیے۔ مگر حضرت خالدؓ نے سب کو رخصت کر دیا اور کہا کہ میں عمرؓ کے لئے نہیں لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لئے لڑتا ہوں (انی لا اقاتل في

سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر) وہ پہلے سردار لشکر کی حیثیت سے
لڑتے تھے اور اب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے لڑنے لگے۔

اس قسم کا کردار اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ شکایتوں اور
تلخیوں سے اوپر اٹھ کر سوچے اس کارویہ ر عمل کے طور پر نہ بنے بلکہ ثابت فکر کے تحت بنے۔
وہ اللہ میں جینے والا ہونہ کے انسانی باتوں میں جینے والا۔

قانونی حد سے آگے بڑھ کر ساتھ دینا

شعبان ۲ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قریش کے تمام سرداروں کی
رہنمائی میں ایک ہزار کا لشکر مدینہ کی طرف جملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چھ سو
زروہ پوش تھے اور اسی کے ساتھ ایک سو سواروں کا خصوصی دستہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک بہت
نازک وقت تھا۔ آپؐ نے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر
کرتے ہوئے یہ سوال رکھا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہئے، حسب معمول اولاد مہاجرین
کے ممتاز افراد اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، آپؐ کا رب جس بات کا حکم
دے رہا ہے اس کی طرف بڑھئے، ہم آپؐ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہود کی طرح یہ کہنے والے نہیں
ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپؐ اور آپؐ کا خدا
چل کر لڑیں، ہم بھی آپؐ کے ساتھ ہیں۔ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی
ہے، ہم آپؐ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی اس قسم کی تقریروں کے باوجود بار بار یہ فرمایا
رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو (اشیر واعلیٰ ایہا الناس) چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے
ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، شاید آپؐ کا رخ ہماری طرف ہے۔ آپؐ نے
کہا، ہاں، اس پر سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا: ہم آپؐ پر ایمان
لائے۔ آپؐ کی تصدیق کی، اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپؐ لائے ہیں، وہ حق ہے،

اور اس پر آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، پس اے خدا کے رسول، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو کر گز رئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے سامنے جا پہنچیں اور اس میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے۔ ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ آپ ہمیں لے کر کل کے دن شمن سے ٹکر جائیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ مقابلہ کے وقت سچ اترنے والے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ گو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہم کو لے کر چلیں۔ (سیرت ابن ہشام) انصار کے قائد کی اس تقریر کے بعد اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا۔

بدر کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار انصار کی طرف رخ کرنا بے سبب نہ تھا۔ اس کا ایک خاص پس منظر تھا۔ ابن ہشام اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَذُلِكَ أَنْهُمْ حَيْنٌ بِأَيَّوْدَةِ الْعَقْبَةِ فَالْأَوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَرَاءُ مِنْ ذِمَّةِ إِمَّكَ حَتَّى تَصِدَّ إِلَى دِيَارِنَا فَإِذَا وَصَلَتِ الْبَيْنَا فَإِنَتِ فِي ذَمَّتِنَا نَمَعْنَكَ هَمًا نَمْنَعْ مِنْهُ أَبْنَاءَ نَأْوَنْسَاءَ نَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَتَخَوَّفُ إِلَّا تَكُونُ إِلَّا نَصَارَتِي عَلَيْهَا نَصْرٌ إِلَّا مَنْ دَهْبَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ عَدُوْهُ وَإِنْ يَسِّعَ عَلَيْهِمْ إِنْ يَسِّيرَ بِهِمْ إِلَى عَدْمِ مَنْ بَلَادَهُمْ (سیرۃ ابن ہشام، جزء ثانی صفحہ 253)

اور ایسا اس لئے ہوا کہ انصار نے جب عقبہ میں بیعت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا کے رسول، ہم آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیس میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے لڑکوں اور عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ انصار کہیں یہ سمجھتے ہوں کہ ان پر آپ کی

مد کرنا اس وقت ہے جب کہ آپ کا دشمن مدینہ پہنچ کر حملہ کرے۔ ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بستی سے دور جا کر مقابلہ کریں۔

انصار کی بیعت قدیم عربی اصطلاح کے مطابق بیعت نساء (وفاعی بیعت) تھی۔ اس کے مطابق مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر جا کر لڑنا ان کے لئے ضروری نہ تھا۔ مگر انصار نے اس کو اپنے لئے عذر نہیں بنایا۔ وہ قانونی حد کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں جا کر قربانی پیش کی۔

اختلاف سے پنج کراصل نشانہ پر لگے رہنا

آخر الطبراني عن المسورين مخرومة قال: خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على اصحاباً فقال ان الله بعثني رحمته للناس كافة فادوا عنى رحمة الله، ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى بن مرريم فانه دعاهم الى مثل ما ادعوه كم اليه فاما من بعده مكانه فكرهه فشكاعيسى بن مرريم ذلك الى الله عز وجل فقال اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحن يارسول الله تودي اليك فابعثنا حيث شئت

مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ خدا تم پر رحم کرے اور تم لوگ اختلاف نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کے لئے پکارا جس کی طرف میں تم کو پکار رہا ہوں۔ پس جس کا مقام دور تھا اس کو وہاں جانا ناگوار ہوا۔ تو عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ اے خدا کے رسول ہم آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ آپ ہم کو بھیجئے جہاں آپ چاہیں۔

اجتمائی کام میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز اختلاف ہے۔ مگر صحابہ کرام کو اللہ کے خوف نے اتنا بے نفس بنایا تھا کہ وہ اختلافات سے بلند ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے عرب میں اور اطراف عرب میں آپؐ کی منشا کے مطابق اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچائی۔ آپؐ کی وفات کے بعد وہ مال و جاہ کے حصول میں نہیں پڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے۔ ہر صحابی کا گھر اس زمانہ میں ایک چھوٹا مدرسہ بنایا ہوا تھا جہاں وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو عربی سکھاتے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے۔ اس زمانہ میں ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ فتوحات اور سیاسی انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ عام طریقہ کے مطابق اصحاب رسول کو اپنا سیاسی حصہ لینے میں سرگرم ہونا چاہئے تھا۔ مگر وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی فتوحات کے ذریعہ پیدا ہونے والی فضائل کو تبلیغ دین کے لئے استعمال کیا، اس طرح ان کے اور ان کے شاگردوں کے خاموش پچاس سالہ عمل کے نتیجہ میں وہ جغرافی خط وجود میں آیا جس کو عرب دنیا کہا جاتا ہے، جہاں لوگوں نے نہ صرف اپنے دین کو بدلا بلکہ ان کی زبان اور ان کی تہذیب بھی بدلتی ہے۔

پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لئے راضی ہو جانا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب سے پہلا مسئلہ خلیفہ کا انتخاب تھا۔ انصار بنو ساعدة کی چوپال (ستیفہ) میں جمع ہو گئے۔ اس وقت سعد بن عبادہ انصار کے سب سے زیادہ ابھرے ہوئے سردار تھے۔ چنانچہ انصار میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ مقرر کیا جانا چاہئے۔ مہاجرین کو یہ خبر ملی تو ان کے ممتاز افراد تیزی سے چل کر مذکورہ مقام پر پہنچے۔ حضرت ابو بکرؓ نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

اما ماذ کرتم فیکم من خیلٰ فانتم له اهل، ولن تعرف العرب هذلا
الامر الا لھذا حی من قریش: هم اوسط العرب نسباً و داراً، وقد رضي بت

لکم احمد هذین الرجلین فبأ يعوا يهـما شئتم . (سیرۃ ابن ہشام، جزیٰ رابع
صفحہ: 339)

(اے انصار) تم نے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اہل ہو۔ مگر عرب اس معاملہ (امارت) کو قریش کے سوا کسی اور قبیلہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ عربوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں۔ میں تمہارے لئے ان دوآ دمیوں (عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح) میں سے کسی ایک پر راضی ہوں۔ تم دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کرو۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ اٹھے اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی اور پھر تمام مہاجرین نے بیعت کی۔ اس کے بعد انصار نے بھی حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاہم انصار کے ایک طبقہ کے لئے یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہاجرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعدؓ ابن عبادہ کو قتل کر دیا (قتلہ سعد ابن عبادہ)

انصار نے اسلام کے لئے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے اسلام کے بے یار و مددگار قافلہ کو اس وقت پناہ دی جب کہ انھیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود انصار اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ اقتدار میں ان کا حصہ نہ ہو اور خلیفہ صرف مہاجرین (قریش) میں سے منتخب کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے پیچھے بہت گہری مصلحت تھی۔ قریش سیکڑوں سال سے عرب کے قائد بننے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں اگر کسی غیر قریش کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تو اس کے لئے اجتماعی نظم کو سنبھالانا ممکن ہو جاتا۔ یہ انصار کی حقیقت پسندی تھی کہ انہوں نے اپنی اس کمی کو جو نا اور یک طرفہ فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ تاہم یہ حقیقت پسندی کی اتنی نایاب قسم ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔

غیر جذب اتی فیصلہ کرنے کی طاقت

احد کی لڑائی اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ سخت لڑائی تھی۔ قریش کے تمام جنگی جوان غصہ میں بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں اس وقت جب کہ قتل و خون کا معز کہ گرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا۔ کچھ لوگ آپؐ کی طرف بڑھے۔ مگر آپؐ نے انہیں تلوار نہ دی۔ پھر ابو دجانہ سامنے آئے اور پوچھا کہ اے خدا کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو ٹیڑھا کر دو (ان تصریب بہ العد و حثی یعنی)۔ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنانچہ آپؐ نے انہیں تلوار دے دی۔

حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اکٹر کر چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اس قسم کی چال خدا کو پسند نہیں سوا ایسے موقع کے (انہا المشیۃ یبغضها اللہ الافی مثل هذا الموطن) ابو دجانہ نے اپنے سر پر لال کپڑا باندھ لیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ موت سے نذر ہو کر جنگ کے لئے نکل پڑے ہیں۔ وہ انہیں بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جس کو خود ابو دجانہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

رایت انساناً یحییش الناس حمشاً شدیداً فصیدت له فلماً حملت عليه السیف ولوں فاذا امرأة فاکرمت سیف رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان اضرب به امرأة۔ (سیرت ابن هشام جز، 3، صفحہ 14)
میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ جب میں نے اس پر تلوار اٹھا لی تو اس نے کہا یا ویلاہ (ہائے تباہی) اب میں نے

جانا کہ یہ ایک عورت ہے۔ تو میں نے خدا کے رسول کی تلوار کو اس سے پاک رکھا کہ اس سے میں کس عورت کو قتل کروں۔

اس واقعہ کو ایک صحابی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ ان کی تلوار ہند بنت عتبہ کے سر پر اٹھ گئی ہے مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار اس سے ہٹالی (ثمر رایۃ قد حمل السیف علی مفرق راس هند بنت عتبہ ، ثمر عدل السیف عنہما) جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ عورتوں، بچوں اور بڑھوں کو نہ مارا جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عین قتل و خون کے ہنگامہ میں اس کو یاد رکھا اور اپنی چلی ہوئی تلوار کو درمیان سے روک لیا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کو اپنے جذبات پر کتنا زیادہ قابو تھا۔ ان کے افعال ان کے شعور کے ماتحت تھے نہ کہ ان کے جذبات کے ماتحت۔ وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پر انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہ غصہ اور انتقام کی آخری حد پر پہنچ کر بھی اچانک اپنا ہڈن تبدیل کر سکتے تھے۔ وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے چل پڑنے کے بعد معاً اپنا رخ دوسری طرف پھیر سکتے تھے۔ یہ بظاہر ہر ایک سادہ ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر عملًا وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس پر کوئی ایسا شخص ہی قادر ہو سکتا ہے جو خدا سے اس طرح ڈرنے والا ہو گویا خدا اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

درخت کی طرح آگے بڑھنا

قرآن میں انجیل اور تورات کے دو حوالوں کا ذکر ہے۔ تورات کا حوالہ صحابہ کرام کے انفرادی اوصاف سے متعلق ہے۔ اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کی اجتماعی صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

وَمِثْلُهِمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى

سُوقَه يَعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا (الفتح-آخر)

اور انخلیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو۔ اس نے نکلا اپنا اکھوا۔ پھر اس کو مضبوط کیا۔ پھر وہ موٹا ہوا۔ پھر اپنے تنہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچھا لگتا ہے کہ کسانوں کو تاکہ منکروں کا دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جوان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

موجودہ انخلیل میں یہ تمثیل ان لفظوں میں ہے _____ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں نیچ ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ اور وہ نیچ اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے۔ پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دا نے۔ پھر جب اناج پک چکا تو وہ مافی الفور درانتی لگاتا ہے۔ کیونکہ کائنات کا وقت آپ ہیچا (مرقس: 4:32-26)

انخلیل اور قرآن کی اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے اصحاب کا اجتماعی ارتقاء، درخت کی مانند ہو گا۔ اس کا آغاز نیچ سے ہو گا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اور اپنا تنہ مضبوط کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا۔ یہاں تک کہ فطری رفتار سے متوجہ ترقی کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس کی ترقی اتنی شان دار ہو گی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور دوسری طرف دشمن دانت پیس رہے ہوں گے کہ اس کا معاملہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف ہمارا کچھ بس نہیں چلتا۔

اسلام کو درخت کی طرح ترقی دینے کے لئے خدا کا یہ منصوبہ تھا جو صحابہ کرام کے ذریعہ انجام پایا۔ تاہم یہ کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنائیں۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ فوری حرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کریں۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے قوانین فطرت

کی پیروی کریں۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اس سے بے پرواہ کر کام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے یا ان کے بعد۔ ”درخت اسلام“ کو اگانے کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کچلیں اور اپنی امگلوں کو دفن کر دیں۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا۔ انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ گو خدائی اسکیم کے حوالہ کر دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ زمین میں خدا کا دین ایک ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہو گیا جس کو ساری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے تو نہ مٹا سکے۔

حصہ چھارم

اظہار رسالت عہدِ حاضر میں

پیغمبر اسلام کو خصوصی طور پر اظہار کی نسبت دی گئی ہے۔ آپؐ کے دین کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب و سر بلند ہو۔ یہی نسبت غلبہ آپؐ کی امت کو بھی حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ڈھائی ہزار سال کے ایک خصوصی منصوبہ کے ذریعہ وہ اسباب فراہم کئے جن کو استعمال کر کے آپؐ دین خدا کو غالب و ظاہر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ آپؐ کی امت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پچھلے ہزار سال کے عمل کے نتیجہ میں خدا نے وہ موافق حالات کامل طور پر فراہم کر دئے ہیں جو درج دید میں اسلام کے غلبہ کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پیغمبر کے امتحان موافق حالات کو حکمت اور صبر کے ساتھ استعمال کریں تو خدا کا وعدہ نصرت دوبارہ پیغمبر کے امتحیوں پر اسی طرح واقعہ بن سکتا ہے جس طرح وہ خود پیغمبر کے اوپر واقعہ بنا تھا۔

امریکہ سے ایک انسائیکلو پیڈیا یا چھپی ہے جس کا نام ہے: انسان اور اس کے معبدوں (man and his gods) اس کتاب میں مختلف مذاہب پر مقابلے ہیں۔ اسلام پر جو مقالہ ہے، اس کے عیسائی مقالہ نگار نے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے عظیم نتائج کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اس کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو بدلتا دیا:

Its advent changed the course of human history (p.389)

یہ ایک مستشرق کی زبان سے اسلامی انقلاب کی پیدا کردہ ان تبدیلیوں کا اعتراف ہے جنہوں نے تاریخ میں ایسے دورس امکانات کھولے جن کے بعد اسلام کو غیر اسلامی ادیان پر غالب و برتر کرنا اسی طرح آسان ہو گیا ہے جس طرح بارش آجانے کے بعد کھیت سے فصل اگانا۔

پیغمبر آخر از ماں اور آپؐ کے ساتھیوں کے ذریعہ جو انقلاب برپا کیا گیا وہ اگرچہ اصلاً

توحید اور آخرت پر مبنی ایک دینی انقلاب تھا۔ مگر اس نے بہت سے دور رس دنیوی نتائج بھی پیدا کئے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیوی نتائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جنہوں نے قدیم زمانہ کے سماجی اور اجتماعی نظام کو اس طرح بدل دیا کہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے جن میں دعوت حق کا کام ایک انتہائی مشکل کام بننا ہوا تھا۔

سورہ براءۃ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو مکہ بھیجا تا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں حج کے اجتماعات میں بلند آواز سے اس کا اعلان کرتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ میری آواز بھاری ہو گئی (فکدت انادی حتیٰ صلح صوتی، تفسیر ابن کثیر، الجزء الثاني، صفحہ 124) مگر آج لا ڈاپسٹکر وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں اعلان حق کا کام کتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے۔

دین کی دعوت کے دو بڑے دور ہیں۔ ایک پیغمبر آخر الزماں کے ظہور سے پہلے۔ دوسرا، پیغمبر آخر الزماں کے ظہور کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا کی جو کتابیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتوں پر ڈالی گئی جن کے پاس وہ کتابیں بھیجی گئی تھیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن میں استفاظت (طلب حفاظت) کا لفظ آیا ہے (بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا شَهِداً، الْمَاءِدَةُ: 44) مگر قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا کہ خدا نے اس کتاب کو اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے (إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ: الحجر 9)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ شرک کو مغلوب کیا جائے اور توحید کو دنیا میں غالب فلک کا مقام عطا کیا جائے (الانفال: 39) یہ کام اتنے مختلف اسباب کی مساعدة تھا ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اللہ نے ڈھانی ہزار

سالہ عمل کے نتیجہ میں وہ موافق حالات پیدا کئے جن استعمال کر کے آپ نے شرک کو مغلوب کیا اور توحید کو فکری غالبہ کے مقام پر پہنچایا۔

رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے جو انقلاب آیا اس کے بعد شرک ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گیا۔ اب اس کی کوئی امید نہیں کہ شرک دوبارہ ایک غالب فکر کی حیثیت سے دنیا میں چھا سکے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں دوبارہ یہ واقعہ ہوا کہ توحید نے غالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام دکھو دیا۔ اس باریہ واقعہ الحاد کے ہاتھوں سے ہوا۔ چنانچہ آج دنیا میں الحاد نے غالب فکر کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ بے خدا ذہن یا سیکولر ذہن آج دنیا کا غالب ذہن ہے۔ اس کے مقابلہ میں توحید کا ذہن عملًا دوسرا درجہ پر چلا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو یقیناً معلوم تھا کہ آئندہ دور الحاد آنے والا ہے۔ اس لئے اس کی نصرت دوبارہ متحرک ہوئی۔ پچھلے ہزار سالہ عمل کے دوران اس نے دوبارہ ایسے حالات پیدا کرنے شروع کئے جو بالآخر غالبہ توحید کی جدوجہد کے لئے موافق زمین کا کام کر سکیں۔ یہ عمل اب اپنی تکمیل کے مرحلہ میں پہنچ گیا ہے۔

آج اگرچہ ظاہر الحاد کا غالبہ ہے مگر وہ موافق حالات پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں جن کو استعمال کر کے دوبارہ توحید کو غالب فکر کا مقام دیا جاسکے۔

1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً چار ہزار سال پہلے قدیم عراق کے دارالسلطنت (اُر) کے لوگوں کو پکارا کہ ایک خدا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی لئے تم اسی سے حاجتیں مانگو اور اسی کی پرستش کرو۔ اس دعوت توحید کے خلاف اس وقت کے مشرک بادشاہ نمرود کلداری نے اتنا سخت ردعمل ظاہر کیا کہ آپ گاؤگ کے الاو میں ڈال دیا۔ آج بھی دنیا کے ہر ملک میں شرک کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ حکومتی ملک میں دعوت ابراہیم کو لے کر اٹھیں تو موجودہ زمانہ کا کوئی حکمران آپ کے ساتھ اس قسم کا شدید سلوک نہیں کرے گا۔

اس کی وجہ فلسفہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ نمروڈ کے زمانہ میں شرک ایک سیاسی عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب کہ آج وہ صرف ایک محدود مذہبی عقیدہ ہے۔ قدیم زمانہ میں عام طور پر مشرکانہ نظریہ سیاست دنیا میں رائج تھا۔ نمروڈ، دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کی طرح، اسی قسم کے نظریہ کی بنیاد پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے۔ اس لئے وہ دوسروں سے برتر ہے اور اس کو دوسروں کے اوپر حکمرانی کرنے کا فوق الفطری حق حاصل ہے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے حکمران اس قسم کے نظریہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ انہوں نے عوامی رائے کی بنیاد پر اپنے لئے حکمرانی کا حق حاصل کیا ہے نہ کسی فوق الفطری عقیدہ کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کی دعوت میں موجودہ حکمرانوں کو اپنے اقتدار کے لئے کوئی نظر نہیں آتا۔ جب کہ نمروڈ اور دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کو توحید کا عقیدہ پھیلنے میں اپنی سیاسی جڑ کٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔

قدیم زمانہ میں جب کوئی پیغمبر اٹھتا تو اکثر پہلے ہی مرحلہ میں وقت کے اقتدار سے اس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے اور غیر ضروری قسم کی مشکلات اس کی راہ میں حائل ہو جاتیں۔ اس کی وجہ سیاسی ادارہ کے ساتھ فوق الطبعی عقائد کی یہی وابستگی تھی۔ قدیم زمانہ کے بادشاہ عوام کو یہ یقین دلا کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں، خدا ان کے اندر حلول کر آیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب توحید خالص کی آواز بلند ہوتی تو ان کو نظر آتا کہ وہ ان کے سیاسی استحقاق کو بے اعتبار بنا رہی ہے۔ یہ اعتقادی پیچیدگی ان کو داعی حق سے ٹکرادیتی تھی۔ اسلام نے ثابت کیا کہ ہر قسم کی فوق الفطری حیثیت صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے جدا کر دیا۔ اب حکومت کرنے کا حق کسی کو عوامی رائے سے ملتا تھا نہ کہ خدا سے کسی قسم کے پ्रاسرار رشتہ کی بنیاد پر۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے قدیم زمانہ میں کچھ لوگ یہ بات مشہور کر کے اپنا طبعی کاروبار

چلاتے تھے کہ انہوں نے ایک جن کو مسخر کر کھا ہے اور وہ ان کے پاس آ کر ان کو فن طب کے رموز بتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ علم طب میڈیکل کالج میں سکھایا جاتا ہے نہ کہ جنات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے شخص کے سخت مخالف ہو جائیں گے۔ مگر موجودہ زمانہ کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو ایسی تحریک سے کوئی عداوت نہ ہوگی۔

2- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعہ تاریخ کا رخ موڑ نے کامل ساتویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ اب وہ اپنی انہتا کو پہنچ چکا ہے۔ دین کے داعیوں کے لئے اب خود انسانی اسلامی خانہ میں ہر قسم کے تائیدی اساب م موجود ہیں۔ جدید قانونی اور سماجی تبدیلیوں نے اب اس کا موقع دے دیا ہے کہ دعوت دین کا کام کھلے طور پر کیا جائے اور کوئی فرعون یا نمرود اس کا راستہ روکنے کے لئے میدان میں موجود ہو۔ حقائق کی دنیا جواب انسان کے علم میں آئی ہے اس نے ایسے دلائل جمع کر دئے ہیں جو دین کی صداقت کو خالص علمی طور پر ثابت شدہ بناسکیں۔

موجودہ زمانہ میں ایک عظیم فکری انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب وہی ہے جس کو عام طور پر سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی انقلاب نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسی فکری تبدیلیاں پیدا کی ہیں جو دعوت توحید کے عین موافق ہیں۔ ان کو مناسب طور پر استعمال کیا جائے تو صرف قلمی اور انسانی تبلیغ کے ذریعہ غلبہ توحید کا وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جس کے لئے پچھلے زمانوں میں تواریخانی پڑھی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنسی انقلاب زمانہ رسالت کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمنی حاصل (product) ہے۔ اللہ نے پیغمبر آخر الزماں کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعہ ایسے اساب پیدا کئے، جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا عمل شروع کیا۔ تبدیلی کا یہ عمل مسلسل جاری رہا۔ یہاں تک کہ وہ اس انقلاب تک پہنچا جس کو جدید سائنسی انقلاب کہا

جاتا ہے۔ گویا خدا نے صدر اول میں شرک کے اوپر توحید کو غلبہ دیا تو اسی کے اندر وہ اسباب بھی پیدا کر دئے جو بعد کے زمانہ میں الحاد پر توحید کو غالب کرنے میں مددگار بن سکیں۔

اسلام کے ذریعہ آنے والے توحیدی انقلاب سے پہلے ساری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک دراصل مظاہر پرستی کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو نمایاں نظر آئی اسی کو انسان نے پوچنا شروع کر دیا۔ خواہ وہ آسمان کا سورج ہو یا زمین کا بادشاہ۔ اس کی وجہ دور شرک میں سائنسی تحقیق کا کام ممکن نہ ہو سکا۔ آرٹلڈ ٹوان بی کے الفاظ میں، فطرت کے مظاہر اس وقت پرستش کا موضوع (object of worship) بنے ہوئے تھے، پھر وہ تحقیق کا موضوع فکری لہر عقیدہ سے الگ ہو کر یورپ پہنچی اور بالآخر جدید انقلاب کا سبب بنی۔

۱۔ اس انقلاب کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ توہاتی دور کا خاتمه ہو گیا۔ تو ہم پرستی کیا ہے۔ تو ہم پرستی نام ہے حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کے بجائے مفروضات قیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا۔ (مثلاً یہ فرض کر لینا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو سورج یا چاند گہنا جاتے ہیں) یہ ذہن اسلام کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسا آدمی حقائق واقعی کی بنیاد پر اسلام اور غیر اسلام کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ پیشگوئی مفروضات کی بنیاد پر بلا دلیل ایک کوچھ اور دوسرے کو غلط مان لیتا ہے۔ مثلاً اسلام تاریخی طور پر ایک مستند دین ہے اور دیگر تمام مذاہب تاریخی استناد سے محروم ہیں۔ مگر تو ہم اس کو

اہمیت نہیں دے پاتا تھا۔ جدید دور نے اس کو پوری اہمیت کے ساتھ لیا۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں تنقید عالیہ (Higher Criticism) کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آگیا ہے۔ اس فن کے تحت یہ حقیقت پوری طرح مسلم ہوئی ہے کہ تاریخی طور پر معتبر دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے ادیان کو تاریخی اعتباریت کا درجہ حاصل نہیں۔

2۔ سائنسی ذہن نے کائنات کو تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں جانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجہ میں کائنات میں چھپے ہوئے ایسے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے جو سلام کی تعلیمات کی تصدیق اعلیٰ سطح پر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کائنات میں ہر جگہ ایک ہی قانون فطرت کا فرمایا ہے۔ جو قانون زمین کے احوال پر حکمراں ہے وہی قانون کائنات کے دور دراز مقامات پر بھی حکمراں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف ایک ہے۔ دو خدا یا بہت سے خداوں کی اس کائنات میں گنجائش نہیں۔

3۔ دین توحید کو قدیم زمانہ میں اختیار کرنے کے لئے، ایک علمی رکاوٹ، قدیم فلسفہ بھی تھا۔ قدیم زمانہ میں فلسفہ کو غالب علم کا مقام حاصل تھا۔ تعلیم یافتہ طبقہ کے سوچنے کی ذہنی زمین اس زمانہ میں فلسفہ ہوتا تھا۔ اس کے نتیجہ میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی مصنوعی رکاوٹ حاصل ہو گئی تھی۔

قدیم فلسفہ کا آخری نشانہ ہمیشہ سے آخری سچائی کی تلاش رہا ہے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ تقریباً پانچ ہزار سال کی شان دار تاریخ کے باوجود فلسفہ اپنے نشانہ تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ اپنے نشانہ تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ انسان کی محدودیتوں (Limitation) کا دراک نہ کرسکا۔ وہ آخری سچائی تک پہنچنے کے لئے ساری کوششیں صرف کرتا رہا۔ جب کہ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے بطور خود آخری سچائی تک پہنچنے ہی نہ سکتا تھا۔

اس فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے ہزاروں برس تک انسان یہ چاہتا رہا کہ دین توحید کی بنیاد جن اساسی عقائد پر قائم ہے اس کو انسان کے لئے مکمل طور پر معلوم اور مشاہدہ بنادیا جائے۔ مگر یہ تمام غیبی حقیقتیں تھیں اور انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ ان غیبی حقیقتوں کا کامل ادراک نہیں کر سکتا۔

جدید سائنس کا، دینی نقطہ نظر سے، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضہ کو ڈھا دیا۔ اس نے آخری طور پر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ وہ اپنی محدودیت کی وجہ سے حقیقت کا کلی ادراک نہیں کر سکتا۔ قدیم فلسفہ کی پیدا کردہ ذہنی زمین اب ساری دنیا میں دفاعی حیثیت کے مقام پر جا چکی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ ذہنی زمین کو علمی دنیا میں غالب مقام حاصل ہے۔

ذہن کی اس تبدیلی نے دین توحید کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو، کم از کم بالواسطہ طور پر، مکمل علمی تائید حاصل ہے کہ انسان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ حقیقت اعلیٰ کو پانے کے لئے وہ پیغمبر کی اطلاع کا اعتبار کرے۔ اب یہ مطالبہ سراسر غیر علمی مطالیہ بن چکا ہے کہ خدا اور وحی اور آخرت کو ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھاؤ، اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لا سکیں گے۔

معلوم تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ خود علم انسانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور ہمیشہ محدود رہے گا۔ انسان سائنسی ذرائع سے جب کائنات کی کھوج کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت مکشف ہوتی ہے کہ کائنات اس سے زیادہ پچیدہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا احاطہ کر سکے۔ سائنس کی یہ دریافت اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے۔ کیونکہ اس سے رسالت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ایک طرف انسان کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری حد تک جان لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدودیت کا شکار ہے کہ وہ کبھی بھی حقیقت کو آخری حد تک نہیں جان سکتا۔ انسانی زندگی کا یہ خلاواضھ طور پر

یہ بتاتا ہے کہ اس کو ایک برتر رہنمای کی ضرورت ہے۔ اسی برتر رہنمای کا دوسرا نام پیغمبر ہے۔ انسانی محدودیت کے بارے میں سائنس کے اقرار نے پیغمبر کی ضرورت کو خالص علمی سطح پر ثابت کر دیا ہے۔

4۔ قدیم زمانہ میں انسان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہ تھی۔ اس کی اصل وجہ بادشاہوں اور بڑے انسانوں کے تقدس کا عقیدہ تھا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ان کو مقدس سمجھ لیا جاتا۔ ان کی رائے دوسروں سے برتر مانی جاتی۔ ان کو یہ حق مل جاتا کہ جس طرح چاہیں دوسروں کو اپنی مرضی کا پابند بنائیں۔ توحید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمه کیا اور یہ اعلان کیا کہ کسی انسان کو دوسراے انسان پر فضیلت نہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نئی فکری لہر چل پڑی۔ یہی وہ فکری لہر ہے جس کی سیاسی تکمیل بالآخر یورپ میں جمہوریت کی صورت میں ہوئی۔ جمہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر بھرا دیا۔ ہر شخص کے لئے یہ فکری حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو چاہے لکھے اور جو چاہے بولے۔ اس انقلاب نے تاریخ میں پہلی بار اس بات کو ممکن بنادیا کہ خدا کے دین کی تبلیغ اس طرح کی جائے کہ تبلیغ کرنے والے کے لئے کسی طرح کی پکڑ دھکڑ کا اندر یہ نہ ہو۔

5۔ سائنس نے آج کے انسان کے لئے خدا کی بہت سی وہ مادی نعمتیں کھوئی ہیں جو ہزاروں برس سے کائنات کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ ان میں اسلامی دعوت کے نقطہ نظر سے سب سے اہم جدید ذرائع مواصلات ہیں۔ پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف قسم کی تیز رفتار سواریاں۔ یہ چیزیں اسلام کے حق میں عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کو استعمال کر کے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلا دیا جاسکتا ہے۔

یہ موقوع جو عین اسلامی دعوت کے حق میں ہیں، پچھلے ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے زمانہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈھائی ہزار سالہ عمل کے ذریعہ اسلام کے غلبہ اول کے حالات فراہم کئے، اسی طرح اس نے دوبارہ ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں

اسلام کے غلبہ ثانی کے حالات فراہم کر دئے ہیں۔ تاہم یہ حالات و موضع خود اپنے زور پر واقع نہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو واقعہ بنانے کے لئے زندہ انسانوں کی ایک جماعت درکار ہے۔ ایسی ایک جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو قریبی مستقبل میں اسی طرح دوبارہ اسلام کو فکری غلبہ مل سکتا ہے جس طرح قرن اول میں اس کو شرک کے مقابلہ میں فکری غلبہ حاصل ہوا تھا۔

اوپر جن امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریباً ایک سو سال سے ایسی کسی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں مگر بد قسمتی سے ایسی کوئی جماعت ابھی تک کھڑی نہ ہو سکی۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے سو سال کے اندر ہمارے یہاں بے شمار جماعتوں اور تحریکیں اٹھی ہیں، مگر یہ تحریکیں وقتی حالات، خصوصاً سیاسی حالات کے عمل کے طور پر اٹھیں نہ کہ اس ربانی شعور کے تحت جو پچھلے ہزار سال سے تاریخ کے اندر کام کرتا رہا ہے اور چودھویں صدی ہجری میں اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔

سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب طاقت و راہل کفر بظاہر کمزور اہل ایمان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے تحت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا نہیں مانگنے لگے۔ اس نازک لمحے میں آپؐ کی زبان سے جو کلمات نگلے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا: اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد هافي الارض (خدا یا اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی)۔ یہ کوئی مبالغہ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تین سوتیرہ رو جیں جو بے سر و سامانی کے باوجود بدر کے معرکہ میں کھڑی ہوئی تھیں یہ محض عام قسم کے تین سوتیرہ لوگ نہ تھے۔ یہ عصابہ دراصل وہ گروہ تھا جس پر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ منتبہ ہوئی تھی۔ اسی طرح آج دوبارہ ایک نیا عصابہ (گروہ) درکار ہے جس پر پچھلی ہزار سالہ تاریخ منتبہ ہوئی ہو۔ جو اپنے شعور کے اعتبار سے پچھلی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات

کو واقعہ بنانے کا اٹل ارادہ اپنے اندر لئے ہوئے ہو، جو سنبھیڈہ فیصلے کی اس حد پر پہنچا ہوا ہو جہاں پہنچ کر آدمی اس قابل ہو جاتا کہ وہ اپنے مقصد سے پوری طرح وابستہ رہے، کوئی بھی خارجی واقعہ اس کو اس کے نشانہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے کاگ میں اپنا کاگ ملانیں گے۔ اور بالآخر یقینی کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔

ہیر و قل کی نرسی

سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 بظاہر کمزور اہل ایمان پر ایک ہزار طاقت و راہل کفرٹوٹ پڑے تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے تحت سجدہ میں گر پڑے۔ اس وقت آپؐ میدان جنگ کے کنارے ایک عریش (چھپر) کے اندر تھے۔ آپؐ اللہ تعالیٰ سے نصرت و حمایت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس نازک لمحے میں آپؐ کی زبان سے جو کلمات نکلے، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا:

اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ (الْيَوْمَ) لَا تُعَذِّبْ بَعْدَهَا فِي الْأَرْضِ
(السیرۃ النبویہ لا بن کثیر، الجز الثاني، صفحہ 411)

خدایا، یہ گروہ اگر آج ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ کلمہ کوئی مبالغہ کا کلمہ نہ تھا، بلکہ ایک واقعہ کا سادہ اظہار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تین سو تیرہ رو جیں جو بدر کے میدان میں حق کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے لکھی تھیں، وہ محض عام قسم کے تین سوتیرہ لوگ نہ تھے۔ یہ العصا بہ دراصل وہ گروہ تھا جس پر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ ملتی ہوئی تھی۔ ڈھائی ہزار سال کے دوران مخصوص حالات کے اندر ایک زندہ قوم تیار کی گئی۔ پھر اس زندہ قوم سے چھانٹ کر ایک گروہ نکالا گیا جو قرآن کے الفاظ میں ”خیر امت“ تھا۔ یہی وہ تاریخی گروہ تھا جو اس وقت خونخوار دشمنوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ موجودہ دنیا میتھان کی دنیا ہے۔ یہاں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اسباب عمل کے پرده میں پیش آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ العصا بہ ہلاک ہو جائے تو موجودہ دنیا میں خدا کی سنت کے مطابق دوبارہ نئے ”ڈھائی ہزار سال“ درکار ہوں گے جن کی گردشیں از سرنو جاری ہوں اور اسباب کے سلسلوں سے گزر کر بالآخر وہ افراد تیار ہوں جو مطلوبہ کارنامہ انجام دینے کے لئے ضروری ہیں۔

موجودہ زمانہ میں اسلام کا غلبہ، بالفاظ دیگر نبوت محمدی کے اظہار ثانی کے لئے، آج دوبارہ ایک العصا بہ در کار ہے۔ یہ العصا بہ وہ ہو گا جس پر پچھلی ہزار سالہ تاریخ منتہی ہوئی ہو۔ جو اس بات کا عرفان کامل رکھتا ہو کہ پچھلے ہزار سالہ عمل کے نتیجہ میں خدا نے اسلام کے لئے کیا کیا موافق حالات پیدا کئے ہیں اور کن حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں اسلام کے حق میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے شعور کے اعتبار سے پچھلی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات کو واقعہ بنانے کی الہیت اپنے اندر لے ہوئے ہو۔ جس کا وجود اور اسلام کا غالبہ ثانی دونوں اس طرح ایک ہو جائیں کہ ظاہر ایک کو دوسرے سے جدا نہ کیا جاسکتا ہو۔ اسی قسم کے ایک العصا بہ نے پہلے دور میں اسلام کو غالب کیا تھا اور آج بھی اس قسم کا ایک العصا بہ دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا۔ دوسری کوئی صورت موجودہ عالم اسباب میں اسلام کے غالبہ کے لئے نہیں ہے۔

پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھا ہے:

After the death of the prophet sterile arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere.
(p.k.Hitti,history of Arabs (1979) p. 142.

پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے عرب کی بخوبی میں جادو کے ذریعہ ہیرودوں کی نزدیکی میں تبدیل کر دی گئی ہو، ایسے ہیرودین کی مثل، تعداد دیا نویعت میں کہیں اور پاناسخت مشکل ہے۔

دنیا میں اسلام کا غالبہ ایک کامل فکری نظام کے مقابلہ میں دوسرے کامل فکری نظام کا غالبہ ہے۔ یہ تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ ہے جس کو وقوع میں لانے کے لئے ”ہیرودوں کی

نمری“ درکار ہے۔ قدیم دور شرک میں اسلام کا غالبہ ہیروں کی نمری کے ذریعہ انعام پایا تھا۔ اب دور الحادیں اسلام کا غالبہ دوبارہ ہیروں کی ایک نمری کے ذریعہ انعام پائے گا۔ قانون قدرت کے مطابق جو شرط پیغمبر اور آپؐ کے ساتھیوں کے لئے ضروری تھی وہ بعد کے لوگوں کے لئے آخر کس طرح ساقط ہو جائے گی۔

زمانہ رسالت کے مسلمانوں نے دین کو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد کی تھی۔ اسی طرح موجود زمانہ کے مسلمانوں نے بھی دین کو زندہ کرنے کے نام پر زبردست کوششیں کی ہیں۔ اگر مجروظاہری مقدار کے پہلو سے دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی کوششیں دور اول کے مسلمانوں کی کوششیں دور اول کے مسلمانوں کی کوششوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ کچھ زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ جان کی قربانی، مال و دولت کا خرچ، زبان و قلم کا استعمال، زمین میں دوڑ دھوپ، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی حالیہ جدوجہد میں اتنی زیادہ دکھائی دیتی ہیں کہ خالص مقدار کے اعتبار سے وہ ماضی سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ مگر جہاں تک نتیجہ کا تعلق ہے، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ ماضی کی اسلامی کوششوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا تھا۔ جب کہ موجودہ زمانہ کی کوششوں نے صرف ہماری بربادی میں اضافہ کیا ہے۔

یہ فرق اس نفسیاتی فرق کی وجہ سے ہے جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو احساس یافت نے ابھارا تھا اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو احساس محرومی نے ابھارا ہے۔ زمانہ رسالت کے مسلمان کس نفسیات کے تحت ابھرے تھے، اس کی ایک کامیاب تصویر اس تقریر میں ملتی ہے جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ جوش نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ اس تقریر کے مطابق اسلام ان لوگوں کے لئے جاہلی زندگی کے مقابلہ میں شعوری زندگی اختیار کرنے کے ہم معنی تھا۔ انہوں نے شرک کے مقابلہ میں توحید کو دریافت کیا تھا۔ انہوں نے بے رہنمائی کے مقابلہ میں پیغمبرانہ رہنمائی کو پایا تھا۔ انہوں نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پایا تھا۔ انہوں نے بے قید اخلاقیات کے مقابلہ میں

ذمہ دارانہ اخلاقیات کو پایا تھا۔ انہوں نے ظلم کے مقابلہ میں عدل و انصاف کو پایا تھا۔ مگر جہاں تک موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ سراسر اس سے مختلف ہے۔ زمانہ رسالت کے مسلمانوں کے جذبات میں اس احساس نے یہجان برپا کیا تھا کہ ”ہم نے پایا ہے“۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے اندر جس چیز نے یہجان برپا کیا وہ صرف یہ احساس تھا کہ ہم نے کھویا ہے:

گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ٹریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تحریکیں اسی محرومی اور مظلومی کے احساس کے تحت ابھری ہیں۔ ایک اور دوسری تحریک میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ ایک اس کو سادہ انداز میں بیان کر رہی ہے اور دوسری مفکرانہ انداز میں۔ کسی کے یہاں قوی الفاظ بولے جا رہے ہیں اور کسی کے یہاں مذہبی الفاظ۔ یونانی فلسفی ارشمیدس نے کشش ثقل کا ایک قانون دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اتنا سرشار ہوا گویا اس نے سب کچھ پالیا ہے۔ شاہ ایران رضا پہلوی نے صرف حکومت کھوئی۔ مگر ان کا یہ حال ہوا گویا انہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ دریافت ہو یا محرومی، دونوں کی نفیسیات یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے جس کو اس نے پایا ہے یا جس کو اس نے کھو دیا ہے۔

اس نفیسیات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ”دریافت“، آدمی کی فکری قوتوں کو پوری طرح جگاد دیتی ہے۔ وہ کامل طور پر ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اس کے حوصلوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس کے برعکس جب کسی آدمی پر ”محرومی“ کا احساس چھاتا ہے تو اس کی ذہنی اور عملی قوتیں ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بظاہر زندہ ہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک مردہ انسان بن جاتا ہے۔ دور قدیم میں ہمارے اسلاف احساس یافت پر ابھرے تھے اس لئے ان کی بیداری اس نوبت تک پہنچی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ موجودہ زمانہ میں ہماری نسلیں احساس محرومی پر ابھری ہیں، چنانچہ ان کی بے شعوری اور پست حوصلگی اتنی بڑھی ہوئی

ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ یافت کے جذبہ سے ثبت اخلاقیات ابھرتی ہیں اور محرومی کے جذبہ سے منفی اخلاقیات۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوڑاول کے مسلمانوں کے لئے ان کا اسلام ان کے اندر اعلیٰ کردار پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ وہ حق کے آگے جھک جاتے تھے۔ وہ دوسروں کا اعتراف کرنا جانتے تھے۔ وہ جو کچھ کہتے تھے وہی عملًا کرتے تھے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ شکایتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتے تھے۔ وہ جذبات سے ہٹ کر خالص عقلی فیصلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ رد عمل کی نفیات سے پاک ہو کر سوچنا جانتے تھے۔

منفی احساسات، اس کے برعکس، منفی اخلاقیات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے رہنماء صرف ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ بالکل قدرتی طور پر جھنگھلا ہٹ اور نفرت کا شکار رہتے ہیں۔ حقیقت پسندی کی باقی ان کو اپنی نہیں کرتیں۔ وہ ہمیشہ اختلاف اور انتشار میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے اندر حق کا اعتراف کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ اگر ہار جائیں تو اپنی ہارمانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اگر کامیاب ہوں تو ان کا بگڑا ہوا ذہن بہت جلد ان کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس نے کل اور آج میں وہ عظیم الشان فرق پیدا کر دیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔

پیغمبر اسلام کا لایا ہوا انقلاب ثبت اخلاقیات کی زمین پر ابھرا تھا۔ اب اگر کچھ لوگ یہ چاہیں کہ اس انقلاب کو منفی اخلاقیات کی زمین سے برپا کریں تو انہیں اپنے لئے دوسرا خدا تلاش کرنا چاہئے اور اسی کے ساتھ دوسرا پیغمبر بھی۔